

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

# مکتبہ اسلامیہ

دارالکتاب، قاسم پورہ، لاہور

## رحمات اللہ علیہم

(مجلد دوم، حصہ اول)

تالیف

حضرت مولانا محمد رفیع صاحب

جلد چہارم

دارالتصنیف جامعہ محمدی شریف

منہج جنگ (پاکستان)



أَوْلَانِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ۝ (قرآن مجید - سُوْرَةُ مَجْرَاتِ)  
 اِس جَمَاعَتِ اِثْنَا عَشَرَ اِمَامِ اِيْتِمَانِ - (شَاهِ وَدِي اللّٰهِ)  
 يِه لُوْكَ وَهِيں بھلائی پلنے ولے - (شَاهِ رَفِيعِ الدِّينِ)

# مسئلہ ابراہیم نوازی

(ملحق بکتاب رَحْمَةُ رَبِّهِمْ حَصَّةُ عَثْمَانِي)

کتاب ہذا میں خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمانؓ ذوالنورین رضی اللہ عنہ سے اقربا برنوازی کے طعن کو صاف کرنے کی مخلصانہ کوشش کی گئی ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت عثمانؓ کا دارمیں خلافت اس میں داغدار نہیں اور حضرت عثمانؓ جواز سے متجاوز نہیں۔ نیز عثمانی خلافت کی ایک گونہ مختصر تاریخ اس میں آگئی ہے اور حضرت عثمانؓ کے عہد دار منصب یافتہ رشتہ داروں کی خدمات اور کردار کو صحیح طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔

تالیف

محمد نافع عفا اللہ عنہ

جامعہ محمدی ضلع جھنگ، مغربی پنجاب پاکستان

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

23198

نام کتاب: \_\_\_\_\_ مسئلہ افسر بار نوازی  
 مصنف: \_\_\_\_\_ مولانا محمد نافع  
 ناشر: \_\_\_\_\_ ادارہ تصنیف و تالیف  
 جامعہ محمدی شریف ضلع جھنگ  
 مطبع: \_\_\_\_\_ نور عالم پرنٹرز لاہور  
 کاتب: \_\_\_\_\_ محمد صدیق، پتہ میراں لاہور



مقام اشاعت: \_\_\_\_\_ جامعہ محمدی شریف ضلع جھنگ  
 تعداد اشاعت: \_\_\_\_\_ ہزار  
 تاریخ اشاعت (بار اول) \_\_\_\_\_ اپریل ۱۹۸۱ء

قیمت 40 روپے

ملنے کا پتہ (۱) جامعہ محمدی شریف ضلع جھنگ

(۲) مکہ مکس۔ ۵۔ نجی سٹریٹ (بیرن موری گیٹ)

— سرکلر روڈ۔ لاہور —

# فہرست مضامین

۲۴	ابتدائی معدونیات
۲۵	تہدات
۲۵	— امیر المومنین کا رشتہ دار حاکم نہیں ہو سکتا
۲۵	{ یہ کوئی قانون شرعی نہیں ہے
۲۵	{ — حکام کا عزل و نصب اجتہادی مسئلہ ہے
۳۲	اور امپیر کی رائے پر موقوف ہے
۳۲	— حضرت عمرؓ نے بھی حسب ضرورت عزل و نصب کیا
۳۵	— اس کی چند مثالیں
۳۵	چند اہم بحثیں (اول ثانی ثالث رابع خامس)
۳۸	ابتدا بحث اول
۳۸	{ — عہد عثمانی کے مناصب و حکام
۳۹	{ کا باہمی تناسب معلوم کرنا
۳۹	— چند عہدے اور مناصب
۳۹	— عہدہ قضا
۴۰	— بیت المال یا خزانہ سرکاری
۴۱	— نراج و عشر وغیرہ کی وصولی کا صیغہ
۴۲	— فوجی آفیسرز
۴۴	— پولیس

- ۲۳ — الکاتب (مشتی و محرر)
- ۲۴ — تنبیہ (ایک واقعہ کی یاد دہانی)
- ۲۶ — بعض اہم مقامات اور ان کے حکام  
(عہد عثمانی میں)
- ۵۵ — اعتراض کنندگان کی نظروں میں چند مقامات
- ۵۵ — الکوفہ (حکام کی ضرورت کے تحت متعدد تبدیلیاں)
- ۵۷ — تنبیہ (شیعہ کے نزدیک بھی کوفہ کے حاکم ابو موسیٰ اشعری تھے)
- ۵۷ — مندرجہ کوائف کی روشنی میں
- ۵۹ — البصرہ (ابو موسیٰ اشعری کی معزولی اور عبداللہ بن عامر کا تقرر)  
اور اس کے متعلق قابل توجہ توضیحات
- ۶۱ — الشام (امیر معاویہ کا تقرر)
- ۶۲ — عہد نبوی (میں امیر معاویہ کو منصب دیا گیا)
- ۶۲ — عہد صدیقی (میں امیر معاویہ امیر شکر بنائے گئے)
- ۶۳ — عہد فاروقی (امیر معاویہ عہد فاروقی میں شام کے امیر بنائے گئے)
- ۶۴ — عہد عثمانی (میں منصب سابق پر امیر رکھے گئے)
- ۶۴ — حضرت امیر معاویہ کا اپنا ایک بیان
- ۶۶ — مصر (عمرو بن العاص کی جگہ عبداللہ بن سعد کو مقرر کرنا)
- ۶۹ — کاتب کا منصب
- ۷۰ — تنبیہ (الکاتب کے لیے ایک تاریخی اصطلاح)
- ۷۳ — عزل و نصب کے معاملہ میں  
{ امام بخاری کی ایک روایت
- ۷۵ — تنبیہ (مروان کی بے اعتدالیوں کے بیشتر قصے بے اصل ہیں)
- ۷۵ — اختتام بحث اول

## بحث ثانی

- ۷۷ — ولایت و حکام کی اہمیت پر گفتگو
- ۷۸ — تمہیدات (تین عدد)
- ۸۰ — ولید بن عقبہ کے متعلقات
- ۸۰ — نسب اور اسلام
- ۸۲ — ولید کی طبعی لیاقت
- ۸۳ — نبوی، صدیقی اور فاروقی ادوار میں  
حاکم و عامل بنایا جانا
- ۸۴ — ولید کی کارکردگی اور کارنامے
- ۸۵ — بعض اشکالات اور ان کا حل
- ۹۰ — ولید کو شیطان کی دھوکہ دہی
- ۹۰ — تنبیہ (متعدد مفسرین نے شیطانی دھوکہ کا ذکر کیا)
- ۹۱ — ولید پر فاسق کا اطلاق ٹھیک نہیں  
اس کے لیے علماء کے بیانات
- ۹۳ — رفع اشتباہ (اگر حضرت عثمان کو وصیت کی تھی تو  
حضرت علی کو بھی وصیت کی تھی)
- ۹۴ — الانستباہ (اہل علم کے لیے)
- ۹۹ — یعنی استیعاب کی روایت سے اعتراض  
اور اس کا جواب قابل دید ہے۔
- ۹۹ — اول (باعتبار روایت کے بحث)
- ۱۰۰ — محمد بن اسحق پر کلام
- ۱۰۰ — ابن اسحاق کی تدلیس

- ۱۰۰ — ایک قاعدہ برائے مدرس
- ۱۰۱ — ابن اسحاق کا تفسیر اور شذوذ
- ۱۰۳ — دوم (باعتبار درایت و عقل کے بحث)
- ۱۰۶ { — تیسرا طعن یعنی ولید پر شراب خوری کا الزام  
اور اس کی مدافعت
- ۱۱۰ — دیگر علماء کے اقوال
- ۱۰۱ — سعید بن العاصؓ کے متعلقات
- ۱۱۱ — نام و نسب اور صحابی ہونا
- ۱۱۲ — ان کی علمی قابلیت
- ۱۱۲ — کریمانہ انلاق
- ۱۱۳ — ان کے کارنامے
- ۱۱۴ — سعیدؓ اور آل ابی طالب کا تعلق
- ۱۱۶ { — آخری گزارش (یعنی گذشتہ عنوانات  
کا اجمالی خاکہ)
- ۱۱۷ — عبداللہ بن عامرؓ کے متعلقات
- ۱۱۷ — نام و نسب
- ۱۱۸ — ایام طنوئیت اور حصولِ برکات
- ۱۱۹ — سخاوت شجاعت اور شفقت
- ۱۱۹ — جنگی کارنامے (قریباً ۳۲ مقامات فتح کیے)
- ۱۲۱ — امورِ رفاہِ عامہ
- ۱۲۱ — اہلِ مدینہ کے لیے خدمات
- ۱۲۲ — ابن عامر ابن تیمیہؒ کی نظروں میں
- ۱۲۳ — سیدنا امیر معاویہؓ کے متعلقات



- ۱۲۴ — نام و نسب اور قبول اسلام
- ۱۲۶ — خاندان امیر معاویہ اور بنو ہاشم کے چھ عدوئسی روابط
- ۱۳۰ — امیر معاویہ کے حق میں زبان نبوت سے دعائیں
- ۱۳۶ — لیاقت و علمی قابلیت
- ۱۳۶ — کاتب نبوی ہونا
- ۱۳۷ — ابن عباس ہاشمی اور ابن الحنفیہ ہاشمی کا علمی استفادہ کرنا
- ۱۴۰ — صاحب فتاویٰ میں امیر معاویہ کا شمار تھا۔
- ۱۴۱ — امیر معاویہ سے متعدد صحابہ کرام کا روایت حاصل کرنا
- ۱۴۲ — امیر معاویہ ایک سوتریٹھ حدیث کے راوی تھے
- ۱۴۳ — ملی خدمات اور اسلامی فتوحات
- ۱۴۸ — حدود و حریم کی تعیین
- ۱۴۹ — کریمانہ اخلاق و عمدہ کردار
- ۱۵۲ — عوام کی خبر گیری کے لیے ایک شعبہ
- ۱۵۳ — امیر معاویہ کے عدل و انصاف پر  
اکابرین ملت کی شہادتیں
- ۱۵۶ — ان کے حق میں ناسخا نہ کلام اور حق گوئی کا مسئلہ
- ۱۵۸ — اسلامی خزانہ امیر معاویہ کے دور میں
- ۱۶۳ — مثالی شخصیت اور عمدہ معاشرہ
- ۱۶۵ — حضرت امیر معاویہ اور ان کی جماعت
- ۱۶۵ — حضرت علی اور ان کے خاندان کی نظروں میں
- ۱۶۶ — ایک حاشیہ (یعنی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ  
میں صلح ہو گئی تھی)
- ۱۶۷ — حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھی سب  
مومن تھے۔ ان میں سے فوت شدہ آدمی  
کے لیے غسل، کفن، دفن اور جنازہ کیا گیا

- ۱۶۹ { صفین کے مقتولین کا حکم حضرت علیؑ کے فرمان سے (یعنی سب جنتی ہیں) —
- ۱۷۱ { شرکائے جمل و صفین کا درجہ حضرت علیؑ کے فرمان کی روشنی میں —
- ۱۷۳ { بنی کے مفہوم کی وضاحت حضرت علیؑ کی زبانی —
- ۱۷۵ { خلاصہ کلام —
- ۱۷۷ { مسئلہ کی تنقیح (شرح مواقف کی عبارت میں تسامح) یہ اہل علم کے مناسب ہے) —
- ۱۷۹ { عدم فسق اور عدم جور پر اکابر کے بیانات فریقین "دینی معاملہ" میں متفق و متحد تھے۔ —
- ۱۸۱ { حضرت علیؑ نے امیر معاویہؓ اور ان کی جماعت کو سب و شتم، لعن طعن کرنا ممنوع قرار دیا۔ اس پر اہل السنۃ اور شیعہ کتب سے قابل دید حوالہ جات۔ —
- ۱۸۳ { حضرت امیر معاویہؓ کے ساتھ حضرات حسنینؑ کا صلح اور بیعت کرنا اور تنازعات کو ختم کر دینا۔ —
- ۱۸۶ { حوالہ جات دہل السنۃ کی کتابوں سے —
- ۱۸۸ { مسئلہ ہذا کی شیعہ کتب سے تائید و تصدیق —
- ۱۹۰ { سیدنا حضرت حسینؑ کا فرمان کہ بیعت کے بعد نقص عہد کی کوئی صورت نہیں —
- ۱۹۲ { فرید برآں (بابی حسن سلوک رہا اور شرائط کی پابندی کی گئی) —
- ۱۹۳ {

- ۱۹۵ - امیر معاویہ کی خلافت کے دوران بنی ہاشم کا عملی تعاون
- ۱۹۶ - مدینہ طیبہ میں ہاشمی قاضی (عبداللہ)
- ۱۹۷ - غزوات میں ہاشمی غازی (قثم بن عباس - حضرت حسین)
- ۱۹۹ - عنوان 'بذا کا خلاصہ
- ۲۰۰ { حضرت امیر معاویہ کے خزانہ سے حضرات حسینؑ و دیگر ہاشمی  
اکابر کے وظائف اور عطیات و صدایا
- ۲۰۲ - سیدنا حضرت حسینؑ اور عطیات
- ۲۰۲ - حسین شریفین کے ساتھ دیگر ہاشمیوں  
کو بھی دس لاکھ کے وظائف ملنا
- ۲۰۲ - مسئلہ 'بذا شیعہ کے نزدیک
- ۲۰۲ { حضرت سیدنا حسینؑ و ابن عباسؑ و عبداللہ بن جعفر  
کے وظائف (شیعہ کتب سے)
- ۲۰۵ { حسینؑ و عبداللہ بن جعفر کے وظائف  
(شیعہ کتب سے)
- ۲۰۶ - تنبیہ (دیگر شیعہ علماء کی تائید
- ۲۰۷ - برادر منسی حضرت عقیل کا وظیفہ (شیعہ کتب سے
- ۲۰۷ - حضرت زین العابدین کے لیے وظیفہ کا تقریر (شیعہ کتب سے)
- ۲۰۸ - سیدنا حضرت حسنؑ کو ایک گاؤں کا عطیہ (شیعہ کتب سے)
- ۲۰۶ - عنوانہائے مذکورہ کے فوائد
- ۲۱۰ - سب و شتم کا اعتراض اور اس کا ازالہ  
تمام بحث ہی قابل توجہ ہے
- ۲۱۱ - قابل اعتراض تاریخی روایات جو مطاعن کا ماخذ و محور ہیں
- ۲۱۴ - مندرجہ روایات کا متعلقہ کلام
- ۲۲۳ - ایک گزارش

## عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے متعلقات

۲۲۵

— نسب و رضاع

۲۲۵

— اسلام کے بعد ارتداد پھر اسلام لانا،

۲۲۶

بیعت کرنا، پھر دین پر پختہ رہنا۔

۲۲۸

— والی و حاکم ہونا۔

۲۲۸

— فتوحات اسلامی کے کارنامے

۲۲۹

— خاتمہ بالخیر نماز میں ہونا۔

۲۳۰

— چند شبہات کا ازالہ

۱۔ مزد و خرید رسول کے نام سے یاد کرنا، پھر اس کا جواب ۲۳۱

۲۳۲

۲۔ اور ان کو طلقاً کہہ کر تنفر دلانا پھر اس کا جواب،

۲۳۲

۳۔ عمرو بن العاص صحابی کو ہٹا کر عبداللہ بن سعد کو لگانے

کا اعتراض، پھر اس کا جواب

۲۳۷

تنبیہ: (خمس افریقیہ کا طعن جو ذکر کیا جاتا ہے

"

اس کا جواب آئندہ بحث مال میں ذکر ہوگا)

۲۳۷

افادہ، (طبری کی ایک روایت کا جواب)

۲۳۷

باعتبار روایت کے گفتگو

۲۴۰

— روایت کے اعتبار سے اس پر کلام

۲۴۲

— مروان بن الحکم کے متعلقات

۲۴۲

— مبادیات

۲۴۳

— مختصرانات

۲۴۴

— داماد عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان اور مروان کے

۲۵۰

قبیلہ کی پانچ عدد باہمی رشتہ داریاں

— علمی قابلیت اور ثقافت

- ۲۵۱ - مؤطا امام مالکؒ میں ( مروان سے متعدد روایات )
- ۲۵۲ - مؤطا امام محمدؒ میں ( مروان سے متعدد روایات )
- ۲۵۲ - مصنف عبد الرزاق ( مروان کا حضرت علیؑ سے مسئلہ کا نقل کرنا )
- ۲۵۴ - مسند امام احمدؒ میں ( مروان سے متعدد روایات )
- ۲۵۴ - بخاری شریف ( مروان کی روایت )
- ۲۵۶ - فائدہ ( تاریخ کبیر بخاری و جرح و تعدیل رازی میں )  
نقد کا نہ پایا جانا
- ۲۵۶ - مروان کا اپنی علمی مقام اور قبائلی شمار کیا جانا
- ۲۵۹ - دینی مسائل میں صحابہ کرام سے مشورہ
- ۲۶۰ - مروان کا محتاط رویہ
- ۲۶۱ - جنگ معاوت اور انزلامی صلاہیت
- ۲۶۲ - صحابہؓ نے مروان کی نیابت کی یعنی ابوہریرہؓ نے نیابت کی
- ۲۶۳ - حصول ثواب میں رغبت ( اذن عام تک )  
ٹھہرنے کا ثواب
- ۲۶۳ - موافقت و آثار نبوی کی تلاش
- ۲۶۴ - مروان کے حق میں حسین شریفین کی سفارش  
اسنی و شیعه علماء نے ذکر کی
- ۲۶۵ - مروان کی اقتدا میں حسین شریفین کی نمازیں
- ۲۶۷ - اموی خلفاء حضرت زین العابدینؑ کی نظر میں
- ۲۶۸ - حضرت علی بن الحسینؑ یعنی زین العابدینؑ مروان کی نظروں میں
- حضرت زین العابدینؑ عبد الملک بن مروان کی نظروں میں

- ۲۷۲ — ازالہ شبہات
- ۲۷۳ — اول : مروان - کہ ولد کی جلاوطنی کا مسئلہ
- ۲۷۹ — دوم : مروان کے ہاتھ تمام سلطنت کی باگ ڈور کا ہونا
- ۲۸۲ — عثمانی شہادت کے ایام اور مروان کا کردار
- ۲۸۶ — مروان کو مطعون کرنے والی تاریخی روایات کا ایک جائزہ
- ۲۹۱ — الحکم و بنو امیہ کا مبغوض و ملعون ہونا، پھر اس کا جواب
- ۲۹۲ — نسبی و غیر نسبی تعلقات و روابط
- ۲۹۷ — بنو امیہ کے حق میں حضرت علیؑ کے اقوال
- ۳۰۷ — خدمت کی روایات علماء کی نظروں میں
- ۳۱۲ — بحث ثالث (طریق اول)
- ۳۱۶ — دوزنبوی میں مناصب دہی کے چند واقعات
- ۳۱۶ — حضرت عثمانؓ کو متعدد منصب دیتے گئے
- ۳۱۸ — حضرت ابوسفیان کو چار منصب دیتے گئے
- ۳۲۰ — تنبیہ (روایات کا تجزیہ)
- ۳۲۱ — یزید بن ابی سفیان کو تین منصب دیتے گئے
- ۳۲۳ — امیر معاویہ بن ابی سفیان کے دو عہدے
- ۳۲۵ — دوزنبوی میں بنی ہاشم کے عہدہ جات
- ۳۲۵ — عہد فاروقی میں اقرباء نوازی
- ۳۲۶ — عہد مثنوی میں خویش نوازی (چھ عہدے اپنوں کو دے دیئے)
- ۳۳۲ — ایک عذر لنگ اور اس کا جواب
- ۳۳۵ — بحث رابع
- اقرباء کے لیے مالی عطیات کی بحث
- ۳۳۸ — تنبیہ

- عثمانی رشتہ داروں کے حق میں مالی عطیات کی روایات ۳۳۸
- مروان بن الحکم اور آل الحکم کے لیے ۳۳۹
- سعید بن العاص کے لیے ۳۴۳
- روایت بحت (گذشتہ روایات کے لیے) ۳۴۴
- الواقدی (پرفقد) ۳۴۵
- ابو مخنف نوط بن سبئی (پرفقد) ۳۴۶
- مالی عطیات کی دیگر روایات (نفس افریقیہ وغیرہ کے متعلق) ۳۴۷
- تنبیہ (اپنی متاثر مؤثرین طبری سے ناقل ہیں) ۳۵۲
- مالی عطیات خلیفہ اپنی رائے و اجتہاد سے دے سکتے ہیں ۳۵۲ {
- امام مالک و ابن العربی وغیرہ علماء کی طرف سے جواز کے بیانات ۳۵۳
- حضرت عمرؓ کا حضرت علیؓ کو مقام بیع عطا کرنا ۳۵۴
- حضرت عثمانؓ کا حضرت علیؓ کو بیس ہزار درہم دینا ۳۵۴
- اقارب عثمانی و ہاشمیوں کے ساتھ یہ مخصوص نہیں بلکہ ۳۵۵ {
- اس وقت کے اہل اسلام کو عطیات سے حصہ ملتا تھا ۳۵۶ {
- حضرت عثمانؓ کا بیان کہ اقارب کو اپنے مال سے دینا ۳۵۶ {
- ہوں دیگر لوگوں کے مال سے نہیں دیتا حتیٰ کہ مشاہیرہ بھی نہیں لیتا ہوں۔
- عقل و درایت کے اعتبار سے بحث۔ کیا حضرت عثمانؓ تقسیم اموال کے مسائل نہیں جانتے تھے؟ ۳۵۸ {
- عثمانی کی عظمت اور دیانت داری کا لحاظ ۳۵۹
- مسئلہ میں فتوحات افریقیہ کے موقع پر خمس افریقیہ کا ۳۶۰ {
- مسئلہ پیش آیا۔ پھر مسئلہ میں اکابر صحابہؓ نے دیگر غزوات میں شرکت کی۔ ان کی عملی کارکردگی کے ذریعہ مسئلہ نڈا کا حل

۳۶۱ --- انتقامِ بختِ رابع پر بختِ رابع کا ناسخہ

۳۶۲ بحثِ خامس

عثمانی دور کے آخری مراحل اور ان کا متعلقہ کلام

۳۶۳ --- بیانِ مراحل ---

--- (۱) ---

۳۶۴ { امام بخاری کی طرف سے صفائی کا بیان کہ عثمانی دور میں منکرات نہ تھے۔

۳۶۵ --- ابن العربی کی طرف سے صفائی کا بیان

۳۶۶ --- شیخ جیلانی کی طرف سے صفائی کا بیان

--- (۲) ---

۳۶۷ --- ارسال و فود کا واقعہ اور واپسی رپورٹ

۳۶۹ --- ایک قاعدہ اکثریت کے لحاظ کے لیے

۳۶۹ --- عثمانی دور کی کیفیت کے لیے سالم بن عبداللہ کا بیان

۳۷۱ --- عبداللہ بن زبیر کا بیان

--- (۳) ---

۳۷۲ --- آغاز تغیرات

۳۷۳ --- حسد و عناد پیش نظر تھا حضرت علیؓ کے ارشادات

۳۷۵ --- قاضی ابوبکر کا قول

۳۷۶ --- فساد مگر کرنے والے کون لوگ تھے؟

۳۷۷ --- عبداللہ بن سبا کی کارکردگی اور طریق کار

۳۷۸ --- اس پر ابن کثیر کا بیان

۳۷۹ --- پھر اس پر ابن خلدون کا بیان



- ۳۸۱ ابن سبکی کی شیعوں کے نزدیک پوزیشن  
 ۳۸۳ ماسل کلام  
 ۳۸۴ مدافعت عثمانی میں صحابہ اور اہل مدینہ کا کردار  
 ۳۸۷ مدافعت کی اجازت متعدد صحابہ نے طلب کی  
 ۳۸۹ تاریخ شہادت عثمان اور قاتلین کے اسماء  
 ۴۰ جوازہ، تجھیز و تکفین و تدفین میں تعجیل

— (۵) —

- ۳۹۱ قاتلین عثمان کیسا گروہ تھا؟  
 ۳۹۲ مُفسد و ظالم و سرکش تھے  
 ۳۹۳ صحابہ کرام کا شہادت عثمانی پر اظہارِ غم

— (۶) —

- ۳۹۵ { ان فتنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہم پر تھے  
 ان کا خاتمہ حق پر ہوا۔  
 ۳۹۶ { بشارات نبوی اور اشارات  
 حضرت عثمان کے حق میں  
 ۴۰۱ الاختتام بالصواب

# رَحْمَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِم

(دہر سہ حصص)

کتاب ہذا میں حضرات خلفاء ثلاثہ، حضرت صدیق اکبرؓ، فاروق اعظمؓ، عثمان غنی رضی اللہ عنہم اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مابین بہترین تعلقات اور عمدہ مراسم کو جدید انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ نیران حضرات کی باہمی قرابت داری اور نسبی تعلقات کو بھی واضح کیا گیا ہے۔

کتاب اپنے مضامین اور عنوانات کے اعتبار سے اپنی نوعیت کی منفرد اور قابل دید چیز ہے۔ کتاب تین حصوں پر مشتمل ہے۔

حصہ اول صدیقی ————— /- ۲۵ روپے

حصہ ثانی فاروقی ————— /- ۲۵ روپے

حصہ ثالث عثمانی ————— /- ۳۰ روپے

## شعبۂ تصنیف و تالیف

جامعہ محمدی شریف۔ ضلع جھنگ پنجاب

(پاکستان)

## پیش لفظ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ۔

— جامعہ محمدی شریف ضلع جھنگ کا معروف دینی ادارہ ہے اور بفضلِ ندا  
بین المللی شہرت کا حامل ہے۔ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی فضا قائم رکھنے میں کوشاں رہنا  
اس کی منفرد خصوصیت ہے۔ ملک میں شیعہ و سنی حضرات کے درمیان کھچاؤ رہتا ہے اس  
کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دونوں فرقوں کے عوام نے خلفائے راشدین کی زندگیوں کا قریب  
سے مطالعہ نہیں کیا ورنہ وہ قرآن مجید کی اس صداقت سے کھلی چشم پوشی نہ کرتے کہ اللہ  
نے ان سب کو رُحَمَاءُ بَيْنِهِمْ فرمایا ہے یعنی آپس میں محبت اور مودت کے رشتوں میں  
مسلک ہیں۔

— ضرورت تھی کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ جو علم و فضل کی دولت سے مالا مال  
ہو، اس موضوع پر قلم اٹھاتے۔ الحمد للہ کہ مولانا محمد نافع صاحب کو جو دارالتصنیف  
جامعہ محمدی شریف کے سرکردہ رکن ہیں، خدا نے یہ توفیق دی اور انہوں نے فریقین  
کی مشہور کتابوں کے حوالہ سے منصفانہ اور مصالحانہ انداز میں ”رُحَمَاءُ بَيْنِهِمْ“ کے نام سے  
جامع تحقیقی کتاب لکھی۔ کتاب تین حصوں پر مشتمل ہے۔ صدیقی حصہ، فاروقی حصہ  
اور عثمانی حصہ۔ ہر حصہ حصص زیور الطباع سے آراستہ ہو کر بفضلہ تعالیٰ پورے ملک  
میں مقبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ ان میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ حسنة ت علی کہیم اللہ وہ۔

کے تعلقات خلفائے ثلاثہ سے نہایت دوستانہ اور برابرانہ تھے۔ تیسرے حصے میں حضرت عثمانؓ پر مخالفین کی طرف سے کیے گئے ”اقرباء نوازی“ کے اعتراضات کا مسئلہ محتاج وضاحت تھا مگر اس اندیشہ سے کہ عثمانی حصہ کا حجم بڑھ جائے گا، یہ طے پایا تھا کہ مسئلہ ”اقرباء نوازی“ کے نام سے جداگانہ کتاب چھاپ دی جائے گی۔ چنانچہ مذکورہ کتاب اب پیش کی جا رہی ہے۔ اُمید ہے احباب کو اس سے استفادہ کرنے میں آسانی رہے گی اور مسائل الجھنے نہیں پائیں گے۔ اس کتاب کے پانچ باب ہیں۔ ہر باب کو بحث کا نام دیا گیا ہے۔ ہر بحث ایک جداگانہ موضوع سے متعلق ہے۔

— بحث اول :- اس میں عہدِ عثمانی کے حکام اور مناصب پھر ان کا باہمی تناسب ذکر کیا گیا ہے۔ سترہ مقامات میں بیسٹل عدد غیر اموی حکام تھے۔ اور صرف چار مقامات پر چند اموی حاکم تھے۔

— بحث ثانی :- میں عہدِ عثمانی کے ان حکام کی صلاحیت و اہلیت کا ذکر ہے۔ جن پر مقررین نے عثمانی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اعتراض وارد کیا۔ مثلاً ولید بن عقبہ، سعید بن العاص، عبداللہ بن عامر، امیر معاویہؓ، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح اور مروان بن حکم۔ مولف نے ثابت کیا ہے کہ یہ لوگ پختہ مزاج حکام، عالم و عامل اور انصاف پسند تھے اور اُمت کے ممتاز دانشور اور باصلاحیت منتظم تھے۔

— بحث ثالث :- میں اس چیز کا بیان ہے کہ صرف عہدِ عثمانی میں ہی اقرباء کو منصب نہیں دیتے گئے بلکہ عہدِ رسالت میں اور عہدِ فاروقی اور مرتضوی میں بھی اپنے اپنے اقرباء کو مناصب دیتے گئے۔ جن کو واقعات کے ذریعہ ثابت کیا گیا ہے۔

— بحث چہارم :- میں عطیہ جات کے ضمن میں یہ وضاحت معتبر اسناد کے ساتھ کر دی گئی ہے کہ حضرت عثمانؓ اپنے اقرباء کو ذاتی وسائل سے عطیے دیتے تھے بیت المال سے نہیں دیتے تھے۔

— بحث پنجم :- میں اس اعتراض کی صفائی پیش کی گئی ہے کہ حضرت عثمانؓ نے اپنے عہد کے آخری مراحل میں شرعی احکام کی خلاف ورزی کی تھی اور حدود اللہ کو پامال کیا۔ اس سلسلے میں امام بخاریؒ، علامہ ابن عربی اور شیخ عبدالقادر جیلانی وغیرہم کے صفائی کے بیانات پیش کیے گئے ہیں۔

نیز شہادت عثمانی کے اصل اسباب اور موجبات کو واضح کیا گیا ہے کہ اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ اعداء اسلام کو دشمنی تھی جس کو انہوں نے قتل عثمانی کے ذریعہ پورا کیا۔ دور عثمانی کے نقائص اور خامیاں موجب شہادت نہیں تھیں۔

— ”مسئلہ اقرباء نوازی“ کا طرز استدلال اور انداز بیان اتنا واضح ہے کہ مؤید اس کے مطالعہ سے مزید الشراح حاصل کرے گا اور معترض یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ میں نے ذوالنورین کے نورانی کردار کو دھندلکے میں ڈالنے کی جسارت کیوں کی۔ وباللہ التوفیق۔

ناشرین

# کتاب حدیث ثقلین

(زیر تجویز اشاعت)

== یہ کتاب ”رحمۃ منیم“ کے مؤلف کی تالیف ہے۔ اس میں مشہور روایت ”ترکت فیکم الثقلین...“ کی علمی و تحقیقی تشریح کی گئی ہے کہ لوگوں کا اس روایت کے ساتھ ”خلافت بلا فصل“ میں استدلال کرنا صحیح نہیں بلکہ کتاب اللہ کے ساتھ ”سنت نبوی“ کو اصل مرکزیت حاصل ہے۔

== کتاب کے پہلے حصہ میں روایت ہذا کے متعلقہ اسانید (کتاب اللہ و عترتی اصل بنتی) کے الفاظ پر اولاً بحث کی گئی ہے۔ دوسرے حصہ میں (کتاب اللہ و سنتی) کے الفاظ کو بہت سی باسند کتب سے جمع کر دیا گیا ہے۔

== مؤلف نے اہل تحقیق کے لیے روایت ہذا کے الفاظ و اسانید فراہم کرنے میں مقدور بھر قابلِ قدر سعی کی ہے جو ملاحظہ کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔

شعبۃ تصنیف و تالیف

جامعہ محمدی شریف

ضلع جھنگ (پنجاب)

## بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد الاولين  
والاخرين امام المرسل وخاتم النبيين وعلى بناته الاربعة  
الطاهرات وازواجه المطهرات وعلى آله الطيبين واصحابه  
المزكئين المنتخبين الذين اجتهدوا في دين الله حق اجتهاداً  
ونصروه في هجرته وهاجروا نصرته وجاهدوا في سبيل  
الله حق جهاداً وعلى جميع عباد الله الصالحين وسائر اتباعه  
باحسان الى يوم الدين -

خطبہ سنونہ کے بعد بندہ ناچیز محمد نافع عفا اللہ عنہ کی جانب سے ناظرین کی خدمت  
میں گزارش ہے کہ :

امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین میں سے خلیفہ  
راشد ہیں اور جمہور امت مسلمہ میں شیخین کريمین کے بعد تیسرے مقام پر فائز ہیں۔ اور اسلام  
میں لاتعداد فضائل کے حامل ہیں۔ امانت، دیانت، صداقت، سخاوت، حیا، صلہ  
رحمی وغیرہ صفات میں کامل و اکمل ہیں۔ ان کے یہ اوصاف حمیدہ مسلمات میں  
سے ہیں۔

تاہم بعض لوگ حضرت عثمان کے خلاف ہیں اور یہ مخالفت عناد کی بنا پر ہی  
معلوم ہوتی ہے اور کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی۔ حضرت موصوف پر کئی قسم کے  
مطاعن مرتب کیے گئے ہیں۔ مخالفین عثمان ان کی جو فہرست مرتب کرتے ہیں ان  
میں سرفہرست جو طعن رکھا جاتا ہے وہ ”اقربا نوازی کا مسئلہ“ ہے۔ طعن قدیمی ہے

اس کے جوابات بھی باقی مطاعن کے ساتھ ہر دور میں علماء دیتے رہے ہیں۔

اس دور میں پھر اس طعن کو جدید زیب و زینت کے ساتھ سجا کر عوام کے سامنے پیش کیا گیا ہے حالانکہ یہ ایک مردہ و فرسودہ بحث تھی، اس کو پھر زندہ کرنے کی امت کو ضرورت نہ تھی اور نہ اس دور کا تقاضا تھا۔

خدا جانے کن مسالحوں اور کن مقاصد کے تحت اس خوابیدہ بحث کو باحوالہ مرتب کر کے بیدار کیا گیا۔ اس سے عوام و خواص پریشان و مغموم ہوئے اور مخالفین عثمان سرور و مخطوط ہوئے اور مزید افتراق و انتشار کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ جس دور میں امت مسلمہ کو جوڑنے کی ضرورت ہے اس دور میں قوم کے توڑنے کے سامان فراہم کرنا دین و ملت کی خیر خواہی نہیں ہے۔

”مقام صحابہ“ کی حمایت کے لیے اور ”خلیفہ راشد“ سے سوءظنی رفع کرنے کی خاطر اس مسئلہ کو مناظرانہ انداز میں نہیں بلکہ واقعات و حقائق کی صورت میں تحریر کیا جاتا ہے۔ بس یہی مقصود ہے۔

ان معروضات کو ملاحظہ فرمانے کے بعد مسئلہ کی حقیقت واضح ہو جائے گی اور طعن مذکور زائل ہو جائے گا۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)  
ناظرین کرام صرف دو باتوں کی تکلیف کریں۔ ایک تو مسئلہ ہند کی پوری بحث پر نظر ڈالیں۔ دوسرا تعصب دور فرما کر تھوڑا سا انصاف ساتھ ملا لیں۔ پھر یہ مسئلہ اچھی طرح حل ہو جائے گا۔

(وما توفیقی الا باللہ)



## ابتدائی معروضات

- (۱) کتاب ہذا کے مندرجات پیش کرنے سے پہلے چند چیزیں ذکر کی جاتی ہیں  
 » مسئلہ اقراباً نوازی « سمجھانے کے لیے ہم یہاں ان شاء اللہ تعالیٰ پانچ  
 بحثیں درج کریں گے۔ اور ان میں جہاں اس مسئلہ کو مثبت انداز میں  
 سمجھایا جائے گا وہاں ساتھ ساتھ اس دور کے اکابر بنی ہاشم و بنی امیہ  
 کو ایک دوسرے کے قریب دکھانے کی بھی کوشش کی جائے گی۔
- (۲) عام متداول طرز تصنیف کے خلاف اس کتاب میں یہ صورت اختیار کی  
 گئی ہے کہ عموماً ایک مضمون و مفہوم کو عام ناظرین کرام کے لیے حوالہ  
 کتاب کی عبارت سے پہلے خلاصہ کے طور پر درج کر دیا گیا ہے پھر اس  
 کے بعد اصل حوالہ کی عبارت عموماً درج کی گئی ہے تاکہ اہل علم حضرات  
 عبارت ملاحظہ فرما کر مضمون کی تسلی حاصل کر سکیں۔ یہ طرز رواجاً بالکل متروک  
 ہے اور جدید اہل قلم حضرات اس کو پسند بھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ بطور معذرت  
 یہ گزارش پیش کی گئی ہے کہ اس کو محسوس نہ فرمادیں۔
- (۳) مسئلہ مندرجہ کی تائید کے لیے بعض اوقات حوالہ جات کی کثرت درج کر  
 دی گئی ہے۔ اس سے مضمون مندرجہ کی تائید و توثیق مطلوب ہوتی ہے۔  
 دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص کے پاس ذخیرہ کتب مشکل سے دستیاب ہوتا  
 ہے۔ متعدد کتب درج کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو کتاب جس شخص کے پاس موجود

ہوگی اس کی طرف رجوع کر کے مضمون مندرجہ کی تائید حاصل کر سکے گا۔  
 اس کے بعد چند تمہیدات پیش کی جاتی ہیں اور تمہیدات کے بعد اصل مواد  
 کو پانچ بحثوں کی صورت میں پیش خدمت کیا جائے گا۔  
 (بعونہ تعالیٰ)

---

# تمہیدات

(۱)

پہلے یہاں قابل توجہ یہ بات ہے کہ کسی نص شرعی (آیت و صحیح حدیث) میں یہ کوئی ضابطہ ہے؟ کہ مسلمانوں کا حاکم اور والی اپنے دور حکومت میں اپنے کسی رشتہ دار کو حکومت کے عہدہ پر فائز نہیں کر سکتا۔ اور اسے کسی اپنے قریبی عزیز کو عہدہ دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ جو اور

— تو یہ واضح چیز ہے کہ اس قسم کا کوئی قانون شرعی موجود نہیں جس کی سیدنا عثمان بن عفان نے مخالفت کر دی ہو اور اس کی خلاف ورزی کے دانستہ طور پر مرتکب ہوئے ہوں۔

دور عثمانی کے ناقدین حضرات بھی اس بات کو تسلیم تو کرتے ہیں کہ حضرت ذوالنورینؓ نے اس معاملہ میں کسی ضابطہ شرعی کو نہیں ٹوڑا، لیکن اقرباہ نوازی کا اعتراض فرمانے سے چوکتے بھی نہیں۔ جدید عنوانات کے ساتھ اس کو خوب تازہ رکھتے ہیں۔ اور بار بار اعادہ کیا کرتے ہیں تاکہ حضرت عثمانؓ کے حق میں تنقیر قائم رہے اور بدظنی جاری رہے۔  
(لکل امرأ ما نوى)

(۲)

دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے عہدہ داروں اور کارندوں (جن کو عمال و "ولاء" کہا جاتا ہے) کے نصب و عزل کا مسئلہ ایک اجتہادی امر ہے جو خلیفہ اسلام

کی رائے کی طرف تفویض کیا گیا ہے۔ اس معاملہ کے نشیب و فراز کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ امیر المومنین ان مواقع کی ضرورتوں کو بہتر سمجھتا ہے۔ اپنی بصیرت کے موافق جب حکام کا تقرر و تعین کرتا ہے تو مصلحت کے تحت کرتا ہے۔ یہ چیز اکابر علماء نے اپنے کلام میں درج فرمادی ہے۔

(۱) القاضی ابوبکر بن العربی الاندلسی "العواصم من القواصم" میں ایک مقام میں لکھتے ہیں کہ

— "الولاية اجتهاد یعنی کسی کو والی و حاکم بنانا ایک اجتہادی کام ہے۔

(العواصم ص ۸۷)

دوسری جگہ تحریر کرتے ہیں کہ

— الْوَلَايَاتُ وَالْعَزَلَاتُ لَهَا مَعَانٍ وَحَقَائِقُ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ - الخ

یعنی حکام کے نصب و عزل میں کئی مقاصد و حقائق ہوتے ہیں جن کو بہت لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ (مطلب یہ ہے کہ ان تقاضوں کو ذمہ دار حضرات ہی صحیح سمجھ سکتے ہیں۔

(العواصم من القواصم، ص ۲۴۳۔ تحت نکتہ

طبع لاہور)

(۲) — اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین میں

فرماتے ہیں :-

”... میگویم کہ نصب و عزل مفوض ست برائے خلیفہ۔ اگر اجتہاد خلیفہ مؤدی شود بانکہ از فلاں شخص کار امت سرانجام می یابد لازم میشود بروئے نصب او“

یعنی ہم کہتے ہیں کہ نصب و عزل کا کام خلیفۃ المسلمین کی رائے کے سپرد ہے

اور اس کو تفویض کیا گیا ہے۔ اگر خلیفہ کی رائے یہ ہو جائے کہ امت کا کام فلاں شخص سے سرانجام پاسکتا ہے تو لازم ہوتا ہے کہ اس کو اس عہدہ پر فائز کرے۔“

ذکرۃ العینین فی تفصیل الشیخین، ص ۲۷۲۔ بحث

مطالعن حقین۔ طبع مجتہبائی دہلی)

حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے عمال و حکام کے عزل و نصب کے

مسئلہ کو اپنی صوابدید کے موافق بہتر طریق سے سرانجام دیا۔ اور اس میں قوم و ملت کی خیر خواہی مد نظر رکھی۔ اپنی مجتہدانہ مساعی میں کوئی تقصیر نہیں واقع ہونے دی۔

اس کے باوجود اگر عہد ہذا کے حکام (جو نہ فرشتے تھے نہ معصوم عن الخطا تھے) سے

اپنے فرائض میں کچھ کوتاہی واقع ہوتی یا ان سے غلطیاں سرزد ہوتیں اور کسی فعل قبیح کے

مرتکب ہوتے تو ان تمام چیزوں کو حضرت عثمانؓ کے کردار و کارکردگی میں ڈال دینا قرین

انصاف نہیں۔ جو کچھ امور ان سے سرزد ہوتے وہ سیدنا عثمانؓ کے ایمان یا فرمان سے

نہیں ہوتے۔ اسی مفہوم کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی تصنیف ذکرۃ العینین

فی تفصیل الشیخین کی عبارت ذیل میں بطور جواب پیش کیا ہے :-

”..... میگوئیم ہرچہ ازیشان بوقوع آمد نہ بامر ذی النورین بود و نہ بوقوع صلاح

دیدوے و در خلافت علم غیب خود شرط نیست۔ آنچه شرط خلافت است

اجتہاد است و ذی النورین در اجتہاد تقصیر نہ کرد۔“

ذکرۃ العینین فی تفصیل الشیخین، ص ۲۷۲۔ بحث

مطالعن حقین۔ طبع مجتہبائی دہلی)

یعنی ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ ان کے کارکنوں اور کارندوں سے صادر ہوا وہ

حضرت ذوالنورینؓ کے فرمان سے نہیں تھا اور نہ ان کی صوابدید کے موافق

ہوا۔ خلافت کے معاملہ میں علم غیب شرط نہیں ہے۔ خلافت کے مسائل کے لیے جو چیز شرط ہے وہ اجتہاد ہے اور اجتہادی امور میں حضرت عثمانؓ نے کوئی کمی نہیں کی۔“

(۳) — اشکال مذکور رفع کرنے کے لیے حضرت شاہ صاحب موصوف نے اپنی کتاب ”ازالہ الخفاء عن خلافت الخلفاء“ کے مآثر امیر المؤمنین عثمانؓ میں مزید کلام فرمایا ہے جس کے ملاحظہ کرنے سے معترضین کا مذکورہ بالا شبہ بالکل زائل ہو جاتا ہے۔ منصف احباب کی خاطر ہم کتاب کی اصل عبارت پیش کرتے ہیں اس کے بعد عوام کے لیے اس کا مفہوم اردو میں ذکر کر دیں گے۔

— ازاں جملہ آنکہ اصحاب آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) را از حکومت بلاد مغزول ساخت و حدیث بنی امیہ را کہ در اسلام مسابقت نداشتند حاکم گردانید مثل عزل ابی موسیٰ بعبداللہ بن ابی عامر از بصرہ و عزل عمرو بن العاص از مصر بہ ابن ابی سرح۔

و جوابِ ایں اشکال آنست کہ عزل و نصب را خدا تے عز و جل بر راتے خلیفہ باز گذاشتہ است می باید کہ خلیفہ تحریمی کند در صلاح مسلمین و نصرت اسلام و بر حسب ہماں تحریمی بعمل آرد اگر اصابت کرد فلعہ اجرہ مرتین و اگر در تحریمی خطا واقع شد فلعہ اجرہ مرتہ۔ ایں معنی ازاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بجد تو اتر رسید۔ و در بعض احیان مولیٰ را مغزول ساختند و دیگرے را بجائے او نصب فرمودند براتے مصلحتے چنانکہ در غزوہ فتح رأیت انصار از سعد بن عبادہ گرفتند بہ سبب کلمہ کہ از زبان او جسته بود و بہ پسر اوقیس بن سعد داوند۔

و گاہے مفضل را منصوب می ساختند بنا بر مصلحتے چنانکہ اسامہ را

امیر شکر فرمود کہ بار مہاجرین را تابع وے گردانیدند در آخر حال -  
 و پچیس شیخین نیز در ایام خلافت خود بعمل آوردند۔ و بعد حضرت  
 عثمان حضرت مرتضیٰ و دیگر خلفاء ہمیشہ ہمیں دستور لکھ آندند۔ پس  
 بر حضرت ذی النورینؓ ازیں وہ بہ بازخواست نیست۔ اگر بحکم تخریمی خود  
 شخصی از حدت را والی کردہ باشد و شخصی از قدام اصحاب را معزول  
 ساخت خصوصاً در قصص کہ نقل کردہ اند چون تامل نمودہ می آید اصحاب  
 راستے ذی النورینؓ اوضع من الشمس فی رابعۃ النہار بظہوری رسد۔  
 زیر آنکہ ہر عزے و ہر نصیبے یا منقمنہ اجماد فتنہ اختلاف جنہ و رعیت  
 بودہ است یا متمرغ اقلیمے از اقلیم دار الکفر لیکن ہوائے نفسانی بھما  
 بتدعین را اعلیٰ ساختہ ہ

وَعَيْنُ الرَّضَا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ

وَلَكِنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبَدِي الْمَسَاوِيَا

کتاب ازالہ الخفا عن خلافتہ الخلفاء مقصد دوم

ص ۲۴۷ تحت آثار امیر المؤمنین عثمان بن عفانؓ

طبع قدیم بریلی

یعنی حضرت عثمانؓ کے متعلق جو اشکالات وارد کیے جاتے ہیں ان

میں سے ایک یہ اشکال ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو

بڑے شہروں کی حکومت سے معزول کر کے بنی امیہ کے نوخیز نوجوانوں

کو جو اسلام کے سابقین میں نہ تھے، والی و حاکم بنا دیا۔ مثلاً بصرہ

سے ابو موسیٰ اشعریؓ کو معزول کر کے عبداللہ بن عامر کو، اور مصر سے

عمرو بن العاص کو معزول کر کے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو حاکم

بنایا۔

— اس کا جواب یہ ہے کہ غزل و نصب کے معاملہ کو خدا تعالیٰ نے خلیفہ اسلام کی رائے پر چھوڑ دیا ہے۔ امیر المؤمنین کو مسلمانوں کی خیر خواہی اور اسلام کی امداد کرنے میں تخری اور سعی کرنی چاہیے اور اپنی تخری کے موافق عمل درآمد کرے۔ اگر خلیفہ کی رائے درست ہوئی تو اس کے لئے دگنا اجر ہے۔ اگر اس میں خطا سرزد ہوگئی تو اسے ایک اجر ملے گا۔

یہ مسئلہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے تو اتر معنوی کی حد تک پہنچا ہے۔

— مقامی مصلحت کے پیش نظر بعض اوقات ایک حاکم کو معزول کر دیتے تھے اس کی جگہ دوسرے کو نصب فرما دیتے تھے جیسا کہ غزوہ فتح میں سعد بن عبادہ سے انصار کا علم لے لیا گیا ان کی زبان سے ایک کلمہ نکل گیا تھا، اور ان کے فرزند قیس بن سعد کو دے دیا گیا۔ اور وقتی تقاضے کی بنا پر کبھی کم مرتبہ کے آدمی کو امیر بنا دیتے تھے جس طرح اسامہ بن زید کو امیر شکر بنا دیا اور کبار مہاجرین کو اسامہ کے تابع و ماتحت کر دیا۔

شیخین حضرات نے اپنے ایام خلافت میں اسی طرح عمل درآمد کیا۔ حضرت عثمان کے بعد حضرت مرتضیٰ نے اور دیگر خلفاء نے یہی دستور جاری رکھا۔ پس حضرت ذوالنورینؑ پر اس وجہ سے باز پرس نہیں۔

اپنی جستجو کی بنا پر نو عمر لوگوں میں سے اگر ایک شخص کو انہوں نے حاکم بنا دیا اور قدیم اصحاب سے بعض کو معزول کر دیا خصوصاً ان مواقع میں



جنہیں نقل کیا گیا ہے اگر بغور دیکھا جائے تو حضرت عثمانؓ کی رائے کی اصابت و درستگی اظہر من الشمس ہے کیونکہ ان کا عزل و نصب یا تو کسی لشکر و عیت کے فتنہ اختلاف کو فرو کرنے کے ضمن میں تھا یا پھر کنارے ممالک کو اسلام کی فتح مندی کا ثمرہ دینے کے لیے تھا۔ لیکن اہل بدعت کی آنکھیں (اس معاملہ میں) ہوائے نفس کی وجہ سے نابینا ہو رہی ہیں۔

”یعنی رضا مندی کی آنکھ عیب بیان کرنے سے تھکی ماندی ہے۔ لیکن ناراضگی کی آنکھ بڑایتوں کو ظاہر کرتی ہے۔“  
اسی کے مناسب کسی نے فارسی میں خوب کہا ہے کہ  
”بمنز بچشم عداوت بزرگ نر عیب است“

(۴) — اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ نے بھی اشکال ہذا کے جواب میں  
”تحفہ اثنا عشریہ“ میں یہی فرمایا ہے کہ

— جواب ازیں طعن آنکہ امام رامی باید کہ ہر کمر الاثنیٰ کارے داند۔  
آن کار را با وس پار دو علم غیب اصلاً نزد اہل سنت بلکہ جمع طوائف  
مسلمین غیر از شیعہ شرط امامت نیست۔ و عثمانؓ با ہر کہ حسن ظن داشت  
و کار آمدنی دانست و امین و عادل شناخت و مطیع و منقاد خود گمان  
بر در ریاست و امارت باو داد۔

(تحفہ اثنا عشریہ فارسی، ص ۳۰۵۔ مطاعن عثمانی)

تحت جواب طعن اول۔ طبع جدید، لاہور)

”یعنی اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ امام و خلیفہ کے لیے پابندی کہ جس  
شخص کو اس کام کا اہل سمجھے وہ کام اس کے سپرد کر دے۔ شیعہ کے علاوہ

تمام اہل اسلام کے نزدیک خلافت و امامت کے لیے علم غیب شرط نہیں حضرت عثمان نے جس شخص کے حق میں اچھا گمان کیا، کام کرنے والا معلوم کیا، امانت دار، منصف جانا، مطیع اور تابعدار خیال کیا اس کو عہدہ امارت و حکومت دے دیا۔

— حاصل یہ ہے کہ

- امت کے اکابر علماء نے یہ تصریح کر دی ہے کہ  
 — عزل و نصب کا مسئلہ اجتہادی ہے۔ خلیفۃ المسلمین کی طرف مفوض ہے بتقاضائے وقت اپنی تہمتی و جستجو کے مطابق خلیفہ اسے سرانجام دے سکتا ہے۔  
 — عمال کا انتخاب اگر درست ہو تو خلیفہ کو دگنا ثواب ہے۔ اگر کچھ خطا ہو گئی تو ایک گنا ثواب ہے اور خطا معاف ہے۔  
 — اگر بالفرض خلیفہ کی صوابدید کے موافق عمال (یعنی کارندوں) نے کام سرانجام نہیں دیا تو اس میں خلیفہ ماخوذ نہیں۔

(۳)

حکومت کے عاملین (و عمال) کا عزل و نصب حضرت عمرؓ بھی اپنے دورِ خلافت میں اپنی صوابدید کے موافق کیا کرتے تھے اور بوقتِ ضرورت حکام میں تبدیلی فرمایا کرتے تھے۔  
 یہ چیز خلیفہ کے لیے ناگزیر ہوتی ہے اور اس سے چارہ کار نہیں ہوتا حضرت فاروق اعظمؓ کے چند مشہور صحابہ کرام کو معزول کرنے اور ان کی جگہ دوسرے حضرات کو نصب کرنے پر دو چار مثالیں ناظرین کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔

(۱)

— بصرہ سے حضرت عمرؓ نے مشہور صحابی میغرہ بن شعبہؓ کو معزول کر دیا۔ ان کی

جگہ ابو موسیٰ اشعریٰ کو متعین کیا۔

”الاصابة“ میں درج ہے کہ ”... واستعمله (ابا موسیٰ) عمدہ

على امرأة البصرة بعد ان عزل المغيرة الخ

(۱) الاصابة مع الاستيعاب، ص ۳۵۲، ج ۲

تحت عبد اللہ بن قیس (ابی موسیٰ)

(۲) الاستيعاب مع الاصابة، ص ۳۶۳، ج ۲

تحت ابی موسیٰ (عبد اللہ بن قیس)

(۳) تاریخ طبری، ص ۲۰۷، جلد رابع تحت

سنة ۱۷ھ، طبع مصری قدیم۔

(۲)

سیدنا فاروق اعظم نے اسلام کے مشہور سپہ سالار خالد بن الولید کو ایک دفعہ ایک عطیہ دینے کی وجہ سے معزولی کا حکم دیا اور ابو عبیدہ کی طرف فرمان تحریر کیا کہ ”اس منصب سے خالد کو الگ کر دیں اور اس کا کام خود سنبھال لیں“

”... اعذله على كل حال واضم اليك عمله الخ

(۱) تاریخ ابن جریر الطبری، ص ۲۰۵، جلد ۴

تحت سنة ۱۷ھ - طبع مصری قدیم

(۲) کتاب الخراج لا امام ابی یوسف، ص ۱۴۸

طبع ثانی، مصری - فصل فی الکناس والبیع

والصلبان -

(۳)

— اسلام کے مشہور مجاہد، ملت کے عظیم کارکن سعد بن ابی وقاص کو حضرت عمر نے

اہل کوفہ کی شکایت کی بنا پر معزول کر دیا۔ ان کے قائم مقام عمار بن یاسر کو صلوة پر مقرر فرما دیا۔

وفیہا (سلسلہ) شکا اهل الكوفة سعد بن مالك (ابی وقاص)  
الی عمر فعزلہ و ولی عمار بن یاسر بالصلوة ۛ

(۱) تاریخ خلیفہ بن خیاط (المتوفی ۲۲۰ھ)

جلد اول، ص ۱۲۲۔ طبع اول عراق۔

(۲) سیر اعلام النبلا للذہبی، ص ۷۹، جلد اول

تحت تذکرہ سعد بن مالک۔

(۴)

تذکرہ واقعہ ۲۱ھ میں پیش آیا۔ پھر ۲۲ھ میں حضرت عمرؓ نے عمار بن یاسر کو کوفہ سے معزول کر دیا۔

”وفیہا (سلسلہ) عزل عماراً عن الكوفة ۛ“

(تاریخ خلیفہ ابن خیاط، ص ۱۲۵، جلد اول ملبوعہ عراق)

— فاروقی دور کے یہ پیدا کیے واقعات بطور مثال عرض کیے گئے ہیں یہاں سے اندازہ ہو گیا کہ یہ سب کچھ وقتی تقاضوں اور مقامی مصلحتوں کے پیش نظر ہو کر تا ہے۔ حضرت فاروق اعظمؓ پر ان تبدیلیوں کے باعث کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا، تو انصاف یہ ہے کہ سیدنا عثمانؓ پر بھی عزل و نصب کے مسئلہ میں طعن نہ کیا جائے۔

— البتہ یہ چیز باقی ہے کہ فاروق اعظمؓ نے تبدیلیاں کیں تو ان کی جگہ پر اپنے قبیلہ کے آدمیوں کو نہیں نصب کیا لیکن حضرت عثمانؓ بن عفان نے اپنی برادری کے لوگوں کو متعین کر دیا تو اس شبہ کے ازالہ کے لیے قلیل سا انتظار فرماویں۔

## چند اہم بحثیں

عزل و نصب کا مسئلہ ناظرین کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے  
مسئلہ کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے اس قدر کافی ہے۔

تاہم اس مقام پر مزید بحثیں ہم پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام تعصب اور گروہ  
بندی سے الگ ہو کر انصاف کے ساتھ ان پر نظر غائر فرمائیں گے تو انشاء اللہ  
اطمینان بخش ثابت ہونگی۔ اور سیدنا عثمانؓ کی پوزیشن بے داغ معلوم کرنے کے  
لیے بے حد مفید رہیں گی۔ معترض دوست کہتے ہیں کہ:

”عثمان بن عفان نے اپنی حکومت کے عہدوں کو اپنے قبیلہ کے لوگوں میں  
تقسیم کر ڈالا“

”قسم الولایات بین اقاربہ الخ“

(منہاج الکریم، ص ۶۶ لابن المطہر الحلی الشیبی

طبع لاہور، تحت مطاعن عثمانی، مطبوعہ درآفر

منہاج السنہ لابن تیمیہ الحرانی۔

مختصر یہ کہ عثمان نے اپنوں کو غلط مناصب دے دیتے، بے جا تقریریاں  
کیں اور ناجائز عہدے تقسیم کیے جس کی وجہ سے قبائلی عصبیتوں اور گروہ بندی کی فضا  
پیدا ہو گئی۔ آخر یہی چیز فتنہ و فساد کا موجب بنی اور قتل عثمانؓ پر منتج ہوئی۔  
اس چیز کے متعلق قارئین کرام کے لیے پانچ بحثیں پیش خدمت ہیں۔

اولاً :-

یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جن مناصب پر طعن کی بنیاد ہے وہ کتنی تعداد میں اتارے  
عثمانی کو دیتے گئے؟ اور کتنے مناصب غیر اقرباء کے لیے تجویز کیے گئے نیز اس طرح

عثمانی رشتہ داروں میں کتنی تعداد میں عمال و حکام مجوز تھے؟ اور کتنے لوگ غیر رشتہ داروں میں سے مختلف مقامات پر حاکم بنائے گئے تھے؟

ثانیاً:

یہ چیز قابل وضاحت ہوگی کہ جن اقرباء کو یہ عہدے اور مناصب دیتے گئے وہ کس قسم کے لوگ تھے؟ کس کردار کے مالک تھے؟ کیا ان کی وجہ سے ملت اور دین کو نقصان پہنچا؟ اسلام کی بربادی ہوئی؟ یا اس کے برعکس وہ اچھے آدمی تھے۔ عمدہ کردار رکھتے تھے، کئی فضیلتوں کے حامل تھے۔ ان کی وجہ سے ملت اسلامیت کو بہت فائدہ ہوا۔ مذہب کی ترقی ہوئی، اسلام کا بول بالا ہوا، دین کی آواز افضائے عالم تک پہنچی۔

ثالثاً:

یہ بات لائق توجہ ہوگی کہ اپنے قبیلہ اور خاندان کو مناصب دہی کی رعایت آیا صرف دور عثمانی میں ہوتی ہے؟ یا اس دور سے قبل یا بعد کسی دوسرے دور میں بھی یہ حمایت پائی گئی؟ اس مسئلہ میں باقی ادوار کے ساتھ عثمانی دور کا تقابل و توازن قائم کرنا مناسب ہے تاکہ عثمانی عہد کے موردِ طعن ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کیا جاسکے۔

رابعاً:

یہ چیز قابل بیان ہے کہ حضرت عثمانؓ اگر مالی عطیات کثیرہ اپنے اقرباء کو عطا فرماتے تھے تو کیا حضرت موصوف کا یہ مال دینا شرعاً صحیح تھا اور اس کی نوعیت کیا تھی؟

اس مسئلہ کے لیے عقلاً و نقلاً بحث کی جائے گی جو ازالہ شبہات کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔

خامساً:-

یہ آخری بحث ہوگی کہ حضرت عثمانؓ کے دورِ خلافت میں اقرباء و نوازی منصب کے اعتبار سے ہو یا عطائے اموال کے اعتبار سے (قبائل میں تعصب و نفرت کا موجب بن کر آخری ایام میں فسادات کا باعث ہوئی؟ یا ان فسادات کے لیے دواعی و اسباب دوسرے امور تھے؟ آخر بحث میں اس چیز کا (انشاء اللہ تعالیٰ) پوری طرح تجزیہ کیا جائے گا جو اصل واقعات کے مطابق ہوگا۔

مندرجہ ہر پانچ ابحاث کی اب کچھ قدر تفصیل درج کی جاتی ہے۔ اطمینان قلبی کے ساتھ مطالعہ فرمادیں، فائدہ بخش ثابت ہوگی۔

ان پانچ بحثوں پر کتاب ہذا تمام ہوگی۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

# بحث اول

## عہد عثمانیؓ کے مناصب اور حکام پھران کا باہمی تناسب

— حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں اسلامی مملکت ایک وسیع ترین رقبہ پر مشتمل تھی۔ مصر کا تمام ملک، شام کا علاقہ، افریقہ کا ایک بہت بڑا حصہ۔ انتہائے مغرب میں مراکش و اندلس تک۔ ادھر حجاز کے تمام علاقے مکہ و مدینہ اور یمن وغیرہ سمیت۔ دوسری طرف فارس کے تمام علاقے خراسان وغیرہ تک۔ مشرق میں مکران کی حدود تک۔ یہ طویل و عریض اسلامی سلطنت حضرت عثمانؓ کے زیر انتظام تھی۔

ظاہر چہ ہے کہ اتنے وسیع ملک میں انتظامات قائم رکھنے کے لیے چند عہدے اور چند عمال و حکام کافی نہیں ہو سکتے۔ بلکہ صرف بڑے بڑے عہدوں کے لیے بھی ایک خاصی جماعت کی ضرورت تھی۔

تو اس صورتِ حال کے پیش نظر مسئلہ ہذا کی تمام متعلقہ تفصیلات کو صحیح طور پر معلوم کر لینا سخت مشکل ہے اور اوراقِ تاریخ بھی حسبِ غٹنا ساتھ نہیں دیتے۔ تاہم مالایدرک کلاہ لایتوک کلاہ کے قاعدہ کے موافق مناصب اور حکام کے مسئلہ کو ہم کسی قدر بیان کرتے ہیں جو سہوات سے دستیاب ہیں۔ اس سے عہدہ داری میں باہمی تناسب کا مسئلہ بخوبی معلوم ہو سکے گا۔



# چند عہدے اور مناصب

— (۱) —

## قضا (رجحی)

عثمانی خلافت میں قضا (رجحی) کے منصب پر متعدد اکا بر مختلف اوقات میں متعین رہے ہیں ان میں مندرجہ ذیل حضرات بھی ہیں۔

(۱) — حضرت سیدنا عثمانؓ کی جانب سے مدینہ منورہ میں قضا کے عہدہ پر زید بن ثابت انصاریؓ (صحابی) تھے۔

”... وكان على قضاء عثمان يومئذ زيد بن ثابتؓ“

(۱)۔ تاریخ ابن جریر للطبری، ص ۱۴۹، ج ۵

تحت عمال عثمانؓ، سنہ ۳۵ھ

(۲)۔ الکامل لابن اثیر الجزیری، جلد ۳، ص ۹۵

تحت اسماء عمال عثمانؓ

(۳)۔ البدایہ لابن کثیر، ج ۴، ص ۲۲۷ تحت

ذکر بیعة علیؓ بالخلافة۔

(۲) — خلافت عثمانی میں میغرہ بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب البہاشمی قاضی تھے۔

”... وكان المغيرة بن نوفل قاضيا في خلافة عثمانؓ“

(۱) — الاستیعاب لابن عبد البر، ج ۳، ص ۳۶۶

معہ اصحابہ — تحت المغیرہ مذکور۔

(۲) — اسد الغابہ لابن اثیر، ج ۴، ص ۴۰۸

تحت المغیرہ مذکور۔

(۳) — الاصابہ لابن حجر، ص ۴۳۳، ج ۳۔

معہ استیعاب تحت المغیرہ بن نوفل

— (۲) —

## بیت المال (یا خزانہ)

— مؤرخین نے عہد عثمانی میں اسلامی بیت المال پر متعدد لوگوں کا مقرر کیا جانا تحریر کیا ہے۔ ان میں سے بعض حضرات کو ذیل میں نقل کیا جاتا ہے۔

— بیت المال کے منصب پر عبداللہ بن ارقم (صحابی) فائز تھے۔ پھر انہوں نے استعفا پیش کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے منظور کر لیا۔

”..... وكان علي بيت المال عبد الله بن ارقم ثم استعفى

فعاة“

(۱) تاریخ خلیفہ بن الحیاط، ج ۱، ص ۱۵

جزء اول تحت عمال عثمان رضی

(۲) اسد الغابہ، ج ۳، ص ۱۱۵ تحت

عبداللہ بن ارقم۔

عہد عثمانی میں بیت المال پر عبداللہ بن ارقم کے نگران و ناظر رہنے کو

حافظ ابن حجر نے بھی الاصابہ جلد ثانی میں درج کیا ہے۔

(الاصابہ، ج ۲، ص ۲۶۵ تحت عبداللہ بن ارقم)

— بعض اوقات اس منصب پر زید بن ثابت انصاریؓ کا متعین

ہونا بھی اسماء رجال کی کتابوں میں منقول ہے۔

”... وکان (زید) علی بیت المال لعثمانؓ۔“

(اسد الغابہ لابن اثیر الجزیری، ج ۲، ص ۲۲۳)

تحت زید بن ثابت انصاریؓ طبع طهران)

— ابن جریر و ابن اثیر و ابن کثیر وغیرہ مورخین نے ذکر کیا ہے کہ عثمانی خلافت

میں بیت المال کے عہدہ پر عقبہ بن عمرو فائز تھے۔

”... وعلی بیت المال عقبہ بن عمرو“

(۱) — تاریخ طبری ج ۵، ص ۱۴۹۔ تحت

عمال عثمانؓ۔

(۲) — الکامل لابن اثیر، ج ۳، ص ۹۵۔

تحت عمال عثمانؓ۔

(۳) — البدایہ، ج ۷، ص ۲۲۷۔ تحت ذکر

بیعت علی بالخلافتہ۔

— (۳) —

## خراج و عشر وغیرہ کی وصولی کا صیغہ

— دور عثمانی میں بعض لوگوں کو خراج و عشر وغیرہ (اسلامی ٹیکس) کی

وصولی پر مقرر کیا جاتا تھا۔ آج کل کی اصطلاح میں ٹیکس کی وصولی کے لیے تحصیلدار

کا تجویز کیا جانا سمجھ لیا جائے۔

چنانچہ عراق وغیرہ کے علاقے کے لیے جابر بن فلان المزنی اور سماک الانصاری متعین تھے۔

... وعلی خراج السواد جابر بن فلان المزنی ...  
وسماک الانصاری، الخ۔

(۱) — تاریخ طبری، ج ۵، ص ۱۴۸۔ تحت  
عمال عثمان - ۳۵ھ

(۲) — الکامل لابن اثیر الجزیری، ج ۳، ص ۹۵  
تحت اسماء عمال عثمانی -

(۳) — البدایہ لابن کثیر، ج ۷، ص ۲۲۷۔ تحت  
ذکر بیعة علی بالخلافة -

(۴) کتاب التمهید والبیان، ص ۱۴۹۔ تحت الباب  
الثامن - طبع بیروت، لبنان

— (۴) —

## فوجی افسر

اسلامی فوج کا الگ شعبہ تھا اس میں حسب مراتب لوگ متعین کیے جاتے تھے مختلف علاقہ بات کے لیے متعدد جرنیل اور نگران مقرر تھے۔ کوفہ کے علاقہ کے لیے القعقاع بن عمرو نامی فوجی آفیسر تھے۔

”وعلی حربها القعقاع بن عمرو“

(۱) تاریخ طبری، ج ۵، ص ۱۴۸۔ تحت عمال عثمان ۳۵ھ

(۲) — الکامل لابن اثیر، ج ۳، ص ۹۵۔ تحت  
اسماء عمال عثمانی۔

(۳) — البدایہ، ج ۷، ص ۲۰۷۔ تحت ذکر  
بیعت علی بالخلافتہ۔

(۴) — کتاب التہدید والبیان فی مقتل الشہید  
عثمان، ص ۱۴۹۔ الباب الثامن۔

— (۵) —

## شرطہ پولیس

پبلک میں مقامی انتظامات درست رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس قسم  
کے امور کے لیے خلافت عثمانی میں شرطہ یعنی پولیس کا شعبہ قائم تھا۔ اس کام پر مجوزہ  
آفیسر عبداللہ بن قنفذ، قبیلہ بنی تیم کے قریشی تھے۔

... وكان علی شرطہ عبد اللہ بن قنفذ من بنی تیم

قریشی

(تاریخ خلیفہ بن خیاط، جزو اول، ص ۱۵۷۔

تحت عمال عثمانی، مطبوعہ عراق)

۶

## الکاتب (منشی و محرر)

خلیفہ اسلام کے لیے تحریری ضروریات کی خاطر ایک محرر و منشی درکار ہوتا ہے  
عہد عثمانی میں یہ خدمت مروان بن الحکم نے سرانجام دی۔

..... وکاتبہ مروان بن الحکم

(تاریخ خلیفہ بن خیاط، ص ۱۵۷-جزء

اول تحت عمال عثمانی، مطبوعہ عراق)

(۷)

## نیابت حج

(۳۵ھ)

عہد عثمانی میں جب آخری حج کا موقعہ آیا تو حضرت عثمانؓ کو باغیوں نے اپنے مکان میں محصور کر رکھا تھا۔ خود حج کے لیے تشریف لے جانے سے معذور تھے۔

اس وقت حضرت علیؓ کے چچا زاد برادر حضرت عبداللہ بن عباسؓ مطلبی ہاشمی کو بلوا کر اپنی طرف سے امیر حج بنا کر مکہ شریف روانہ کیا۔ ابن عباسؓ نے امیر المومنین عثمانؓ کے حکم سے مکہ شریف میں جا کر مسلمانوں کو حج کروایا۔ یہ ۳۵ھ کا واقعہ ہے۔

... عن عکرمۃ عن ابن عباسؓ ان عثمان بن عفان استعمل

علی الحج فی السنة التي قتل فیہا سنة خمس وثلاثین (۳۵)

فخرج فحج بالناس بامر عثمانؓ۔

(۱) — طبقات ابن سعد، ج ۴، ص ۴۴، قسم اول تحت

ذکر بیعت عثمانؓ۔ طبع لیدن

(۲) — تاریخ خلیفہ ابن خیاط، ج ۱، ص ۵۴

تحت ۳۵ھ۔ طبع عراق۔

تنبیہ: قبل ازیں ہم یہ واقعہ جماعہ بینہم کے حصہ سوم عثمانی کے باب پنجم کی ابتدا

میں ذکر کر چکے ہیں اور ساتھ متقدّم کتب سے حوالہ بات درج کر دیتے ہیں۔ یہاں  
عہدہ جات کے شمار کی خاطر دوبارہ نقل کیا ہے۔

یہ عہدہ حضرت عثمانؓ نے ہاشمی بزرگ کو عنایت فرمایا۔ کسی اموی کو نہیں دیا۔  
خاندانی عصبیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی اصلیت کس قدر  
ہے؟ اور پروپگنڈے کو کس قدر دخل ہے؟

## فائدہ

یہ چند ایک مناصب اور عہدے تاریخ کے اوراق سے ہم نے ناظرین کی  
خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔

ان میں صرف ایک مروان بن الحکم حضرت عثمانؓ کے چچا زاد برادر اور داماد  
ہیں۔ باقی مندرجہ بالا اہل مناصب میں سے کوئی صاحب بھی بنی امیہ سے نہیں  
بلکہ بعض بنی ہاشم سے ہیں اور بعض دوسرے قبائل سے ہیں۔

— اب یہاں رشتہ داروں اور غیر رشتہ داروں کا باہم تناسب لگانا  
اقرباء وغیر اقرباء کا شمار کرنا ناظرین کرام پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔

اپنے انصاف پسند قلب سے قبائلی عصبیت دور فرما کر خود ہی موازنہ  
فرمائیں۔ میزانِ عدل آپ کے ہاتھ میں ہے۔

”کاتب“ کے منصب کے متعلق اور مروان بن حکم کے لیے چند چیزیں عنقریب  
ہم انشاء اللہ عرض کریں گے تاکہ یہ مسئلہ بہتر طریق سے واضح ہو جائے۔

# بعض اہم مقامات اور ان کے حکام

(خلافتِ عثمانی میں)

قبل ازیں سابقہ عنوان میں چند ایک مناصب کا ذکر کیا ہے۔ اب چند مشہور مقامات کے ولایت و حکام کا بیان کر دینا مناسب ہے۔ ان مقامات کے والی و حاکم کی حیثیت اس علاقہ کے لیے ڈپٹی کمشنر یا کمشنر کی طرح ہوتی تھی۔ اس حلقہ کے انتظامات ان کے سپرد ہوتے تھے۔

ان تفصیلات کے ذریعے اموی حکام اور غیر اموی حکام کا پتہ لگانا آسان ہوگا اور معلوم ہو جائے گا کہ حضرت عثمانؓ نے کتنے افراد بنی امیہ سے لے کر حاکم بنا دیئے اور کتنی تعداد بنو امیہ کے ماسوا مقرر کی؟

(۱)

## مکہ المکرمہ

مختلف مواقع پر عہدِ عثمانی میں مکہ شریف کے لیے مندرجہ ذیل حاکم و والی متعین رہے ہیں۔

۱ اول :- خالد بن العاص بن ہشام المخزومی (صحابی)

الانتباہ لہ قارئین کرام کی خدمت میں معذرت عرض کی جاتی ہے کہ ماتخذ کی بعینہ عبارات نقل کرنے اور پھر ان کا ترجمہ دینے میں طوالت ہوتی ہے اس وجہ سے بعض مقامات میں صرف اردو میں مطلب ذکر کرنے کے بعد حوالہ بنا دیا گیا ہے تسلی فرمادیں اپنی طرف سے حوالہ کی صحت کی کوشش کی گئی ہے۔ (منہ)



(۱) — تاریخ خلیفہ بن خیاط، ج ۱، ص ۱۵۶۔ تحت  
عمال عثمانی۔

(۲) — تجرید اسماء الصحابہ، ج ۱، ص ۱۶۲، للذہبی  
دائرة المعارف بلع حیدرآباد دکن تحت خالد  
بن العاص۔

2

دوم — علی بن عدی بن ربیعہ (صحابی)

(۱) — تاریخ خلیفہ بن خیاط، ج ۱، ص ۱۵۶۔ تحت  
عمال عثمانی۔

(۲) — تجرید اسماء الصحابہ، ص ۲۲۲، ج ۱۔ للذہبی  
دائرة المعارف حیدرآباد دکن۔

3

سوم — عبد اللہ بن عمرو الحضرمی

(۱) — تاریخ طبری، ج ۵، ص ۱۴۸۔ تحت عمال عثمانی ۳۵

(۲) — الکامل لابن اثیر، ج ۳، ص ۹۵۔

(۳) — کتاب التہید والبیان فی مقتل الشہید عثمان

ص ۱۵۰، الباب الثامن۔ طبع بیروت۔

(۴) — اور صاحب تاریخ یعقوبی (شیعہ) نے ص ۱۶۹، تحت

ایام عثمان طبع بیروت۔ لبنان (بلد ثانی) میں عبد اللہ

مذکور کا مکہ شریف پر عامل عثمانی درج کیا ہے۔

4

چہارم — عبد اللہ بن الحارث بن نوفل مطلبی ہاشمی ابو محمد (لقب بئیر)

(۱) — طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۱۵۔ تحت

عبد اللہ مذکور۔ طبع لیدن۔

(۲) تہذیب التہذیب لابن حجر عسقلانی، ص ۱۸،  
جلد ۵۔ تحت عبداللہ بن الحارث۔

— (۲) —

## المدینۃ المنورۃ

پنجم<sup>5</sup> — جب حضرت عثمانؓ اپنے دورِ خلافت میں حج کو تشریف لے جاتے تو زید بن ثابت انصاریؓ (صحابی) کو مدینہ طیبہ پر اپنا نائب متعین فرما کر جاتے تھے۔

(۱) تاریخ خلیفہ ابن خیاط، ص ۱۵۶، جزء اول

تحت تسمیہ عمال عثمانی (طبع نجف اشرف عراق)۔

(۲) اُسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ للبخاری، ج ۲، ص ۲۲۲

تحت زید بن ثابتؓ۔

— (۳) —

## الطائف

ششم<sup>6</sup> — الطائف پر عہدِ عثمانی میں القاسم بن ربیعہ الثقفی والی اور حاکم تھے

(۱) تاریخ طبری، ج ۵، ص ۱۴۸۔ تحت عمال عثمانی

(۲) الکامل لابن اثیر البخاری، ج ۳، ص ۹۵۔

تحت اسماء عمال عثمانی۔

(۳) کتاب التمسد والبیان، ص ۱۵۰۔ الباب

الثامن۔ طبع بیروت، لبنان۔

(۴) تاریخ یعقوبی (شعبی)، ج ۲، ص ۶، تحت ایام عثمانؓ

(۴)

## الصنعاہدین

7  
ہفتم — صنعاہ کے علاقہ پر یعلیٰ بن منیۃ المیمی صحابی والی و حاکم تھے (سن کو  
یعلیٰ بن امیتہ بھی کہا جاتا ہے)

- (۱) — الاستیعاب، ج ۲، ص ۶۲۵، تحت یعلیٰ بن امیتہ المیمی۔
- (۲) — الاصابہ، ج ۳، ص ۶۳۰۔ مع الاستیعاب تحت یعلیٰ مذکور۔
- (۳) — تاریخ طبری، ج ۵، ص ۱۴۸ تحت اسماء عمال عثمان۔
- (۴) — الکامل لابن اثیر، ج ۳، ص ۹۵۔ تحت اسماء عمالہ۔
- (۵) — کتاب التہدید والبیان فی مقتل الشہید عثمان رضی اللہ عنہ۔ طبع بیروت۔
- (۶) — تاریخ یعقوبی (شعبی)، ج ۲، ص ۱۷۶۔ ذکر ایام عثمان۔

(۵)

## الجنددین

8  
ہشتم — عبد عثمانی میں جند کے مقام پر عبداللہ بن ابی ربیعۃ المخزومی صحابی  
والی و حاکم تھے۔

- (۱) — اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ، ج ۳، ص ۱۵۵۔
- تحت عبداللہ بن ربیعۃ المذكور، طبع تہران۔
- (۲) — الاصابہ، ج ۲، ص ۲۹۷۔ تحت عبداللہ بن ربیعۃ۔
- (۳) — تاریخ طبری، ج ۵، ص ۱۴۸۔ تحت اسماء عمال عثمان۔
- (۴) — الکامل لابن اثیر، ج ۳، ص ۹۵۔ تحت اسماء عمالہ۔

(۵) — کتاب التہید والبیان فی مقتل الشہید  
عثمان رضی، الباب الثامن، ص ۱۵۰۔ طبع بیروت۔

— (۶) —

## آذربایجان

۹<sup>ہم</sup> — آذربایجان کے علاقے پر اشعث بن قیس کندی (صحابی) والی و  
حاکم تھے۔

(۱) اسد الغابہ فی معرکہ الصحابہ، ج ۱، ص ۹۸  
تحت الاشعث۔

(۲) — تاریخ طبری، ج ۵، ص ۱۴۸، تحت اسماء  
عمال عثمان رضی۔

(۳) — الکامل لابن اثیر الجزیری، ج ۳، ص ۹۵  
تحت اسماء عمالہ

(۴) — البدایہ لابن کثیر، ج ۷، ص ۲۲۷۔ تحت  
بیعتہ علی بالخلافتہ۔

(۵) — کتاب التہید والبیان، ص ۱۴۹۔ الباب الثامن

— (۷) —

## حلوان

۱۰<sup>ہم</sup> — اور حلوان کے علاقہ کے لیے عتیبہ بن النہاس حاکم تھے۔

(۱) — تاریخ لابن جریر طبری، ج ۵، ص ۱۴۹۔ تحت  
اسماء عمال عثمان رضی۔

(۲)۔ الکامل لابن اثیر خبری، ج ۳، ص ۹۵ تحت،  
اسماء عمال عثمان رضی

(۳)۔ البدایہ بابن کثیر، ج ۷، ص ۲۲۷، تحت  
بیعت علی بالخلافتہ۔

(۴)۔ کتاب التہدید والبیان فی مقتل الشہید  
عثمان رضی، الباب الثامن، ص ۱۴۹۔ طبع بیروت لبنان۔

————— ( ۸ ) —————

## ہمدان

||

یازدہم — ہمدان پر عہد عثمانی میں نسیر نامی ایک صاحبِ دلی و حاکم تھے۔

(۱)۔ تاریخ طبری، ج ۵، ص ۱۴۹ تحت اسماء عمال عثمان رضی

(۲)۔ الکامل لابن اثیر، ج ۳، ص ۹۵ تحت اسماء عمال عثمان رضی

(۳)۔ کتاب التہدید والبیان فی مقتل الشہید عثمان رضی،

ص ۱۴۹۔ باب ثامن۔

تنبیہ:۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ، ج ۸، ص ۵۶ ۵۷ ذکر جریر بن عبداللہ الجلی

میں لکھا ہے کہ قدکان (جوید) عاملًا لعثمان علی ہمدان۔

یعنی حضرت عثمان رضی کے لیے ایک مدت تک، ہمدان پر جریر بن عبداللہ الجلی

(صحابی) بھی حاکم و دالی تھے؛

— اور مشہور مؤرخ یعقوبی شیعہ نے بھی تاریخ یعقوبی میں ہمدان پر حضرت عثمان رضی

کی طرف سے جریر مذکور کا حاکم و دالی ہونا درج کیا ہے۔

(تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۷۶ تحت ایام عثمان رضی و عمال عثمانی)

— (۹) —

## اصفہان

۱۲ دوازدہم — اصفہان کے علاقہ پر حضرت عثمانؓ کی جانب سے السائب بن الاقرع والی تھے۔ (یہ سجائی ہیں)۔

(۱) — تاریخ طبری، ج ۵، ص ۱۴۹ تحت اسماء عمال عثمانؓ

(۲) — الکامل لابن اثیر، ج ۳، ص ۹۵ تحت اسماء عمالہ

(۳) — کتاب التہیید والبیان فی مقتل الشہید عثمانؓ

الباب ثامن، ص ۱۵۰۔ طبع بیروت

— (۱۰) —

## جرجان

۱۳ سیندھم — جرجان کے مقام پر ذوالجوشن الضبائی حاکم تھے۔

کتاب التہیید والبیان فی مقتل الشہید عثمانؓ

الباب الثامن، ص ۱۵۰۔ طبع بیروت لبنان

(۱۱)

## ماسبدان

۱۴ چہار دہم — علاقہ ماسبدان پر ایک شخص حبیش نامی والی تھے۔

(۱) — تاریخ طبری، ج ۵، ص ۱۴۹ تحت اسماء عمال عثمانؓ

(۲) — الکامل لابن اثیر الجزری، ج ۳، ص ۹۵ تحت اسماء عمالہ

(۳) — کتاب التہذیب والبیان، ص ۱۵۰۔ الباب الثامن۔

— (۱۲) —

## قرقیسار

15

پانزدہم — قرقیسا کے مقام پر (بعض اوقات) جریر بن عبداللہ (صحابی) حاکم و والی تھے۔

(۱) — تاریخ ابن جریر طبری، ص ۱۴۸، جلد ۵۔ تحت  
اسماء عمال عثمان رضی

(۲) — تاریخ ابن اثیر (الکامل) ص ۹۵، ج ۳۔ تحت اسماء عمالہ

(۳) — تاریخ ابن کثیر (البدایہ) ج ۷، ص ۲۲۷۔ تحت  
بیعتہ علی بالخلافتہ۔

(۴) — کتاب التہذیب والبیان لمحمد بن یحییٰ بن ابی بکر،  
ص ۱۴۹۔ باب ہشتم۔

— (۱۳) —

## ماہ

16

شانزدہم — مقام ماہ میں مالک بن حبیب نامی ایک صاحب حاکم تھے۔

(۱) — تاریخ طبری، ج ۵، ص ۱۴۹۔ تحت اسماء عمال عثمان رضی

(۲) — تاریخ الکامل لابن اثیر ج ۳، ص ۹۵۔

تحت اسماء عمالہ

(۳) — کتاب التہذیب والبیان، ص ۱۴۹۔ الباب الثامن

(۱۴)

## الرئی

۱۷

ہندھم — رئی کے علاقہ پر عہد عثمانی میں سعید بن قیس حاکم و والی تھے۔

(۱) تاریخ طبری، ج ۵، ص ۱۴۹ تحت اسماء عمال عثمان

(۲) تاریخ الکامل لابن اثیر، ج ۳، ص ۹۵ تحت اسماء عمال

(۳) کتاب التہید والبیان، ص ۱۴۹۔ الباب الثامن

(۱۵)

## قومس

۱۸

ہژدھم — قومس کے مقام پر عثمانی حاکم جبیلہ بن حیوۃ الکنانی تھے۔

کتاب التہید والبیان، ص ۱۵۰، الباب الثامن، طبع بیروت۔

(۱۶)

## الموصل

۱۹

نوزدھم — اور موصل کے علاقہ کے لیے حکیم بن سلامتہ والی و حاکم تھے۔

کتاب التہید والبیان لمحمد بن یحییٰ بن ابی بکر

الاندلسی، ص ۱۴۹، باب ہشتم

(۱۷)

## الصنعاہ (شام)

۲۰

بستم — صنعاہ کے مقام پر ثمامتہ بن عدی (صحابی) حضرت عثمانؓ کی طرف سے



دانی و حاکم تھے۔

”... کان (ثمامة) امیر العثمان علی صنعا۔“

(۱) الاستیعاب مع الاصابہ، ج ۱، ص ۲۰۵

تحت ثمامہ بن عدی

(۲) اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ، ص ۲۲۸-۲۲۹

جلد اول تحت ثمامہ بن عدی۔ طبع طهران۔

## اعتراض کنندگان کی نظروں میں چند مقامات

مشہور مقامات میں سے اب صرف آخری چار مقامات (کوفہ۔ بصرہ۔ شام۔ مصر) کے وایوں کا ذکر باقی ہے وہ اب بیان کیا جاتا ہے۔ اور عہدہ کتابت کا بھی ساتھ ذکر ہوگا۔ معتزین احباب کی طرف سے یہ مقامات خصوصاً جلتے اعتراض تصور کیے جاتے ہیں۔ ہم نے ان مقامات کی متعلقہ چیزیں پیش کی ہیں ان پر منصفانہ نظر غائر فرما کر حضرت عثمانؓ کے طریق کار کا جائزہ لیں اور معلوم کریں کہ:

آیا یہ سب کچھ کسی تعصب اور خویش پروری کی بنا پر ہوتا رہا ہے؟ یا مسلمانوں کی بہتری اور وقتی تقاضوں کی بنا پر کیا جاتا رہا ہے؟ چونکہ امیر المؤمنین سیدنا عثمانؓ کی دیانت داری اور صداقت اور امانت پر جمہور اہل اسلام کو یقین اور اعتماد ہے اس وجہ سے ان کی کارکردگی اور پالیسی کو کسی شک و شبہ کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاسکتا۔ اب ان مقامات کی متعلقہ اشیاء کو ملاحظہ فرمادیں۔

(۱۸)

### الکوفہ

ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ خلافتِ عثمانی کے دورِ اول اور آخری دور میں

کوفہ پر غیر اموی حاکم و والی تھے۔ درمیان میں دو عدد عثمانی رشتہ دار (ولید بن عقبہ اور سعید بن العاص) والی بناتے گئے۔

کوفہ میں عزل و نصب کے متعلق تھوڑی سی وساحت لکھی جاتی ہے جو حقیقت واقعہ سمجھنے کے لیے مفید ہوگی۔

— فاروقی خلافت کے آخری ایام میں کوفہ پر مغیرہ بن شعبہ (صحابی) حاکم تھے۔ عہد عثمانی میں یہ تقریباً ایک سال تک والی رہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں معزول کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص کو والی بنایا اور ساتھ یہ فرمایا کہ ان کی یہ معزولی کسی خیانت یا بُرائی کی وجہ سے نہیں ہے یعنی وقتی مصلحت کے تحت کی گئی ہے۔

تاریخ ابن خلدون جلد ثانی، ص ۹۹۸-۹۹۹۔

طبع بیروت لبنان تحت مقتل عمرؓ و امر الشوریٰ

و بیعت عثمانؓ)

— پھر ۲۶ھ میں سعد بن ابی وقاص کو معزول کیا اور ولید بن عقبہ کو حاکم بنایا۔

البدایہ لابن کثیر، ج ۴، ص ۱۵۱ تحت ۲۴ھ

طبع اول مصری

— اس کے بعد ۲۹ھ میں ولید بن عقبہ کو معزول کر دیا اور سعید بن العاص کو والی و حاکم مقرر کیا۔

(۱) تاریخ خلیفہ بن خیاط، ص ۱۳۸۔ جزء اول تحت ۲۹ھ

(۲) تہذیب التہذیب، ص ۱۲۳-۱۲۴، جلد ۱۱، تحت

ذکر ولید بن عقبہ۔

— کچھ مدت کے بعد اہل کوفہ نے سعید بن العاص کے خلاف شورش

کھڑی کر دی وجہیاً کہ عراقیوں کی فطرت ہے، اور سعید کے عزل کا تقاضا کیا تو حضرت عثمانؓ نے ان کے مطالبہ کے پیش نظر سگلمہ میں سعید کو معزول کر دیا اور ابو موسیٰ اشعریؓ کو کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا۔

پھر ابو موسیٰ حضرت عثمانؓ کی شہادت تک والی و حاکم رہے۔

یہ مضمون مندرجہ ذیل مقامات میں دستیاب ہے ملاحظہ فرمائیں :-

(۱) — تاریخ خلیفہ ابن خیاط، ج ۱، ص ۱۴۵۔ تحت سگلمہ۔

(۲) — تاریخ خلیفہ ابن خیاط، ج ۱، ص ۱۵۷۔ تحت تسمیہ عمال عثمانؓ۔

(۳) — الاصابہ لابن حجر، ج ۲، ص ۳۵۲۔ معہ الاستیعاب۔ تحت ذکر

ابی موسیٰ (عبداللہ بن قیس)

(۴) — طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۲۲۔ تحت ذکر سعید بن العاص۔

طبع اول لیدن۔

### تنبیہ

شیعہ مؤرخین نے بھی تسلیم کیا ہے کہ عثمانی خلافت کے آخری ایام میں کوفہ کے والی و حاکم ابو موسیٰ اشعریؓ تھے۔

“... و علی الکوفۃ اباموسیٰ الاشعری“

تاریخ یعقوبی شیعہ، ج ۲، ص ۱۷۶۔ بحث

عمال عثمانؓ، طبع بیروت لبنان۔

## مندرجہ کوائف کی روشنی میں

— یہ بات عیاں ہو رہی ہے کہ کوفہ پر عثمانی خلافت کے دوران

اموی حکام کو ہی مسلط نہیں رکھا گیا بلکہ اول و آخر سالوں میں غیر اموی حضرات

حاکم بناتے گئے تھے صرف درمیانی مدت میں دو عدد اموی اشخاص کو یکے بعد دیگرے والی و حاکم بنایا گیا تھا۔

پھر اس مدت میں بھی جب تبدیلی کے لیے حالات متقاضی ہوتے تو حضرت عثمانؓ نے والی کی معزولی فرمادی۔ اس موقع پر کسی قسم کی شدت نہیں پیدا ہونے دی۔ معزولی کے اسباب جو بھی لوگوں نے کھڑے کر دیئے۔ ان پر حضرت عثمانؓ نے کوئی سختی نہیں فرمائی۔

ولید بن عقبہ پر ان کے مخالفین نے شراب نوشی کا افترا باندھا حضرت عثمانؓ کے پاس اس بات کی گواہی دے دی۔ تو حضرت عثمانؓ نے ولید پر سد لگائی اور اس کو معزول کر دیا۔ اس واقعہ کے تفصیلی حوالہ جات ہم انشاء اللہ بحث ثانی میں ذکر کریں گے وہاں اس واقعہ کا پس منظر بہت عمدہ طریقہ سے معلوم ہو سکے گا۔

— اسی طرح سعید بن العاص کے خلاف شورش پسندوں نے شورش کھڑی کر دی۔ جبسیا کہ اہل عراق کے طبائع میں عموماً شر و فساد تھا تو حضرت عثمانؓ نے شر کو فرو کرنے کے لیے سعید کی تبدیلی فرمادی۔

یہ تمام حالات حضرت سیدنا عثمانؓ کی انصاف پسندی، عدل گستری، سلامت روی کی گواہی دیتے ہیں اور حتی المقدور عوام کی بہتری اور پبلک کی رعایت کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔

— حضرت عثمانؓ پر طعن و الزام قائم کرنے والے احباب نے اپنے معتضائے ذوق کے مطابق ان تمام چیزوں کو خویش پروری و قبائلی عصبیت کے پلٹے میں ڈال دیا ہے اور قبیلہ پروری کی تاریخ مرتب کرنے کی خاطر زینہ بنالیا ہے۔  
(رفیاً للعجب)۔

## البصرة

— عثمانی نلافت میں بصرہ کے حاکم پہلے ابو موسیٰ الاشعری تھے (جن کا نام عبد اللہ بن قیس ہے)۔ پھر ۳۱ھ میں قریباً پانچ سال کے بعد (وقتی تقاضوں کی بنا پر) ان کو معزول کیا گیا۔ ان کی جگہ عبد اللہ بن عامر کو حضرت عثمانؓ نے حاکم اور والی بنایا۔

”..... وولٹی ابن عامر البصرة سنة تسع وعشرين“

(۱) تاریخ خلیفہ بن خیاط، ج ۱، ص ۱۵۸۔ تحت

تسمیة عمال عثمانؓ۔

”..... واستعمله عثمان رضی اللہ عنہ علی البصرة سنة

تسع وعشرين بعد ابی موسیٰ۔ الخ

(۲)۔ اسد الغابہ فی معرقة الصحابة، ص ۱۹۱، ج ۳۔

تحت ذکر عبد اللہ بن عامر بن کریرہ

— اس معزولی و تبدیلی کو معتزین حضرات نے خدا جانے کیا کچھ رنگ

دے دیا ہے؟ حالانکہ ان حضرات کے درمیان اس موقعہ پر کسی قسم کی کشیدگی اور

رنجیدگی نہیں پیدا ہوئی۔ اس چیز پر مندرجہ ذیل اشیاء بطور شہادت پیش کی جاتی

ہیں ان میں غور فرمادیں۔

(۱)

— حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو جب معزول کیا گیا اور عبد اللہ بن عامر حاکم

مقرر ہو کہ بسرہ پہنچے تو اس وقت لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے حضرت ابو موسیٰؓ نے

عبداللہ بن عامر کے متنی میں کلام فرمایا وہ قابلِ شنید ہے اور طعن کرنے والے احباب کے لیے لائقِ عبرت ہے

— حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے فرمایا کہ :

”... قد اتاكم فتى من قریشِ كريم الاممات والعمات  
والخالات يقوم بالمال فيكم هكذا وهكذا... الخ

(۱) نسب قریش لمصعب الزبیری، ص ۱۲۷-۱۲۸

تحت حالات عامر بن کریرہ۔

(۲) سیر اعلام النبلاء للذہبی، ص ۱۳، ج ۳ -

تحت عبداللہ بن عامر

(۳) تاریخ خلیفہ بن خیاط، ج ۱، ص ۱۳۶ تحت ۲۹

یعنی قریش میں سے ایسے باعزت جوان آپ کے پاس پہنچے ہیں جن کی مائیں پھوپھیاں، خالائیں، شریف اور سخی ہیں۔ اور اس طرح اس طرح تم کو مال دیں گے“  
(یعنی خوب سخاوت کریں گے)۔

(۲)

— اور اس موقع پر عبداللہ بن عامر نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے ان

کا احترام و اکرام ملحوظ رکھتے ہوئے ایسی گفتگو کی جو ان کے اخلاص و صفائی معاملت پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ باہمی عدم تکدر و عدم مناقشتہ کا واضح ثبوت ہے۔

”... فاتا ہ ابن عامر فقال یا ابا موسیٰ ما احدث من بنی

اخیک اعرف بفضلك منی انت امیر البلد ان اقلت

والموصول ان رحلت قال جزاك الله يا ابن اخي خيراً ثم

ارتحل الى الكوفة“

طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۳۲ تحت عبداللہ

بن عامر بن کریرہ طبع اول لیڈن -

— یعنی عبداللہ بن عامر نے عرض کیا کہ اے ابو موسیٰ آپ کے بھتیجوں میں سے آپ کے فضل و شرف کو مجھ سے زیادہ پہچاننے والا کوئی نہیں۔ اگر آپ یہاں (بصرہ) میں قیام فرمادیں تو آپ کی حیثیت امیر شہر کی ہوگی اور اگر یہاں سے (دوسری جگہ) منتقل ہو جائیں تو بھی آپ کے ساتھ تعلق اور ارتباط قائم ہے۔

حضرت ابو موسیٰ نے (جواباً) فرمایا اے برادر زادے! اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، اس کے بعد وہ کوفہ کی طرف منتقل ہو گئے۔

(۳)

نیز یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ بصرہ سے یہ ان کی تبدیلی رضا مندی کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس میں کسی جبر و اکراہ یا ناخوشگوارگی کو دخل نہیں تھا ورنہ دوسری بار ابو موسیٰ اشعری کوفہ میں والی بنا قبول نہ فرماتے۔

ان واقعات نے مسئلہ صاف کر دیا کہ منصب ہذا کی تبدیلی آپس میں باعزت طریقہ سے ہوئی تھی۔ کسی قسم کی باہم کشیدگی اور پریشانی نہیں پیش آئی تھی۔

— گروہ بندی اور عصبیت کی تاریخ سازی کرنے والے حضرات کو اللہ ہدایت بخشے جنہوں نے اصل واقعات کو الٹ پلٹ کر مسئلہ کی تصویر کارخ ہی بدل ڈالا۔ یہ ان بزرگوں کا اپنا فتنی کمال ہے۔ ورنہ حقیقت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیش نظر قبائلی عصبیت بالکل نہ تھی۔

(۲۰)

## الشم

عہد نبوی | امیر معاویہ کے متعلق اتنی وضاحت ضروری ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا

کاتب نبوی ہونا تو مسلمات میں سے ہے۔ اس کے علاوہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عہد میں بعض اوقات امیر معاویہ کو عہدہ و منصب عطا فرمایا۔ جب وائل بن حجر اسلام لاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک قطعہ اراضی عطا فرمانے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ جا کر وہاں سے ایک حلقہ زمین ان کے لیے متعین کر کے ان کو دے دیں۔ اہل علم کی تسلی کے لیے حوالہ کی اصلی عبارت ذکر کی جاتی ہے۔ وائل خود کہتے ہیں کہ:

”..... فبعث رسول الله صلعم، معي معاوية بن ابي سفيان

قال و امره ان يعطيني ارضاً ففعلوا لي“

(تاریخ کبیر بخاری، ص ۱۵، ۱۶-۱۷، ج ۴، ص ۲)

تحت وائل بن حجر،

اور اسد الغابہ و اصابہ میں بھی یہ مضمون موجود ہے۔

”..... واقطعته ارضاً وارسل معه معاوية بن ابي

سفيان وقال اعطها ايتاه“

(اسد الغابہ، ج ۵، ص ۸۱، تحت وائل بن حجر۔

طبع طهران۔)

(الاصابه، ج ۳، ص ۵۹۲۔ معہ استیعاب

ذکر وائل بن حجر)

عہد صدیقی | صدیق اکبر کی خلافت میں بھی امیر معاویہ کو ایک باعزت منصب حضرت صدیق نے عنایت فرمایا۔

علاقہ شام میں امیر معاویہ کے بڑے برادر زید بن ابی سفیان فتوح اسلامی



کے سلسلہ میں گئے ہوتے تھے ان کی معاونت کے طور پر وہاں ایک امدادی جماعت بھیجنے کی ضرورت پیش آئی تو حضرت صدیق اکبرؓ نے شام کی طرف ایک جماعت روانہ کی اور اس جماعت پر امیر معاویہؓ کو امیر بنا کر دست فرمایا۔  
عبارت ہذا میں یہ مضمون ملاحظہ فرمائیں :-

..... واجتمع الی ابی بکر اناس فامر علیہم معاویة

وامرہ باللحاق بیزید فخرج معاویة حتی لحق بیزید... الخ

(۱) — تاریخ الطبری، ج ۴، ص ۳۰، تحت ۱۳ھ

(۲) — البدایہ لابن کثیر، ج ۲، ص ۸، تحت ۱۳ھ

عہد فاروقی | عہد فاروقی میں شام کے علاقہ میں یزید بن ابی سفیان فوت ہو گئے۔  
(یہ ۱۸ھ یا ۱۹ھ میں طاعون عمواس کا موقعہ ہے)۔

تو ان کے قائم مقام امیر معاویہؓ کو حضرت فاروق اعظمؓ نے اس سلقہ کا امیر متعین فرمایا۔

پھر حضرت عثمانؓ نے بھی اپنے دورِ خلافت میں شام کے علاقہ کا حاکم امیر معاویہؓ کو ہی برقرار رکھا۔

ذیل میں یہ مضمون درج ہے نسلی فرمائیں۔

“... ثم جمع عمر الشام کلہا معاویة و اقدۃ عثمان“

(۱) — سیر اعلام النبلاء للذہبی، ج ۳، ص ۸۸

تحت معاویہ بن ابی سفیان -

(۲) — الاصابہ لابن حجر، ص ۴۱۲، ج ۳، تحت

معاویہ بن ابی سفیان -

(۳) — تاریخ خلیفہ بن خیاط، ج ۱، ص ۱۵۷، تحت تسمیۃ

عمال عثمانؓ -

(۴) — تہذیب الاسماء واللغات للنووی، ج ۲، ص ۱۰۳

تحت معاویہ بن ابی سفیان -

عہد عثمانی | مندرجات بالا کے ذریعہ واضح ہوگا کہ حضرت عثمان نے امیر معاویہ کو کوئی جدید حاکم نہیں مقرر کیا بلکہ سابق خلفاء کے مقرر شدہ حاکم کو علاقہ شام کے لیے برقرار رکھا۔

امیر معاویہ اپنی طبعی صلاحیتوں کی بنا پر اپنے فرائض واجبی کو عمدہ طریقہ سے سرانجام دیتے تھے۔ حکمرانی کا سلیقہ تھا اور عوام کے مسائل حل کرنے میں کوئی خامی نہیں چھوڑتے تھے اور نہ ہی رعایا کی طرف سے کوئی خاص شکایت پیش آتی تھی۔

ان حالات کے تحت اگر مزید علاقے مفتوحہ ان کی تھوپل میں دے دیئے گئے تو اس سے فتنے و فسادات کھڑے ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس آدمی کی شخصیت کے ساتھ عناد ہو تو اس کے متعلق قدم قدم پر اعتراضات قائم کیے جاسکتے ہیں۔

— گروہی تعصب سے الگ ہو کر اگر انصاف سے کام لیا جائے تو اس مقام میں حضرت امیر معاویہ کا ایک اپنا بیان کافی وشافی ہے۔ وہ بھی ہم ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔

حضرت امیر معاویہ | ... ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان  
 کا اپنا بیان | معصوماً فولانی فادخل فی امرہ ثم استخلفت  
 ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فولانی ثم استخلف عمر فولانی  
 ثم استخلف عثمان فولانی فلم آل لاحد منهم ولم یولنی  
 الا وھوراض عنی

تاریخ ابن جریر الطبری، ج ۵، ص ۸۷، تحت  
 ۳۳۳ھ - ذکر تیسیر من سیر من اہل الکوفۃ ایہا،

یعنی امیر معاویہؓ (کوفہ کی ایک جماعت کو خطاب کر رہے تھے)،  
 فرماتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے انہوں نے مجھے  
 حاکم اور والی بنایا اور اپنے کام میں داخل کیا۔

پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، انہوں نے بھی مجھے حاکم بنایا  
 ان کے بعد عمرؓ خلیفہ ہوئے انہوں نے بھی مجھے والی مقرر کیا۔ حضرت عمرؓ  
 کے بعد عثمانؓ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی مجھے حاکم بنایا۔ پس میں ان  
 میں سے جس کے لیے والی بنا اور جس نے بھی مجھے والی بنایا وہ سب  
 مجھ سے راضی رہے (کسی کو شکایت نہیں ہوئی)۔“

### خلاصہ یہ ہے کہ

- (۱) — امیر معاویہؓ کے حق میں جو سنت نبوی تھی حضرت عثمانؓ نے اس کے  
 موافق عمل درآمد کیا۔
  - (۲) — اسی طرح صدیقی و فاروقی دور کا جو طریق کار امیر معاویہؓ کے لیے آ رہا  
 تھا، حضرت عثمانؓ نے اسی کو جاری رکھا۔ کوئی جدید طرز عمل نہیں اختیار کیا۔
  - (۳) — ان کے عوام کی طرف سے امیر کی تبدیلی کا کوئی تقاضا سامنے نہیں آیا  
 تھا جس کی وجہ سے ان کو بدل دیا جاتا۔
- اندریں حالات سیدنا عثمانؓ کے حق میں امیر معاویہؓ کو حاکمِ شام رکھنے پر گروہی تعصب  
 اور قبائلی عصبیت کا پروپیگنڈا کرنا نہایت نا انصافی ہے اور حقیقت واقعہ کے بالکل  
 خلاف ہے۔

## مصر

خلافتِ عثمانی میں حضرت عمرو بن العاص مصر کے حاکم اور والی تھے۔ وقتی تقاضوں کے موافق عثمانی دور کے سال چہارم میں یعنی ۲۷ھ میں ان کو معزول کیا گیا۔ ان کی جگہ پر عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو متعین کیا گیا۔ یہ حضرت عثمانؓ کے رضاعی برادر تھے۔ یعنی حضرت عثمانؓ نے عبداللہ کی ماں کا دودھ پیا تھا۔

(ملاحظہ ہو: اسد الغابہ، ج ۳، ص ۱۶۳۔ تحت عبداللہ)

(بن سعد بن ابی سرح)

عبداللہ بن سعد مذکور بنی امیہ سے نہیں ہیں بلکہ بنی عامر سے تھے۔ حضرت عثمانؓ کے ساتھ ان کا رضاعی برادر ہونا ہی ان کا جرم تجویز کر لیا گیا ہے۔ منصب کی یہ تبدیلی بھی کسی تعصب یا قبیلہ پرستی کی بنا پر نہیں کی گئی تھی۔ حضرت عثمانؓ کے سامنے قبائلی عصبیت وغیرہ کے نظریات بالکل نہ تھے، بلکہ اس موقع کی مصالح اور ضرورتوں کے تحت یہ تبادلے کیے جاتے تھے۔ اس چیز پر مندرجہ ذیل واقعات ہم ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان میں غور کرنے سے یہ مسئلہ صاف ہو جائے گا۔

اول — خلیفہ بن خیاط نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ

— وفيها سنة ۲۷، عزل عثمان بن عفان عمرو بن العاص

عن مصر وولاهها عبد الله بن سعد بن ابی سرح فغزا ابن ابی سرح افریقیة ومعه العبادلة عبد الله بن عمرو عبد الله

بن عمرو، عبد الله بن الزبير۔ الخ

”یعنی ۲۷ھ میں عمرو بن العاصؓ کو حضرت عثمانؓ نے مصر سے معزول کیا اور عبداللہ بن سعد کو والی بنایا تو عبداللہ نے اسی سال افریقہ کی جنگ کی مہم شروع کی۔ اس جنگی مہم میں عبداللہ بن عمر اور عمرو بن العاص کے لڑکے عبداللہ اور ابن زبیر وغیرہم اس کے ساتھ شریک جنگ ہوئے“

(۱) تاریخ خلیفہ بن خیاط، ج ۱، ص ۱۳۴۔

تحت ۲۷ھ۔

(۲) تاریخ خلیفہ بن خیاط، ج ۱، ص ۱۵۷۔  
تحت تسمیۃ عمال عثمانؓ۔

(۳) فتوح البلدان بلاذری، ص ۲۳۴۔ تحت  
عنوان فتح افریقہ۔

(۴) تاریخ ابن خلدون، ج ۲، ص ۱۰۰۳۔ جلد ثانی  
تحت عنوان ولایۃ عبداللہ بن ابی سرح علی  
مصر و فتح افریقہ۔ طبع بیروت

دوم — اس کے بعد دوسرا واقعہ (۳۷ھ) کا ہے وہ بھی ملاحظہ فرمادیں۔  
— خلافت عثمانی میں خراسان و طبرستان وغیرہ علاقوں کی فتوحات کے لیے ایک زبردست فوج تیار کی گئی۔ امیر لشکر سعید بن العاص اموی تھے۔ بڑے بڑے اکابرین اُمت اور صحابہ کرامؓ اس مہم میں شریک ہوئے۔ ان حضرات میں عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ بھی تھے اور وہ اس کا رخیر میں بخوشی شریک ہوئے تھے۔ اہل علم کی تسلی کے لیے طبری کی عبارت بلفظہ درج کی جاتی ہے اور باقی مؤرخین کا صرف حوالہ کتاب دے دیا ہے۔

... عن حنش بن مالک قال غزا سعید بن العاص من

الکوفۃ سنۃ ۳۰ھ یرید خراسان ومعه حدیفة بن الیمان وناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه الحسن والحسین وعبد اللہ بن عباس وعبد اللہ بن عمرو وعبد اللہ بن عمرو بن العاص وعبد اللہ بن الزبیر الخ

(۱) — تاریخ للطبری، ج ۵، ص ۵۷۔ ذکر الخیر عنہ

عن غزو سعید بن العاص طبرستان۔

(۲) — الکامل لابن اثیر، ج ۳، ص ۵۴۔ ذکر غزوہ طبرستان

(۳) — البدایہ لابن کثیر، ج ۷، ص ۱۵۴ تحت سنہ ۳۰ھ

(۴) — تاریخ ابن خلدون، ج ۲، ص ۱۰۱۸ تحت

غزوہ طبرستان۔ طبع بیروت۔

— اگر عمرو بن العاص کی معزولی متعصبانہ اور قابل اعتراض تھی تو اس دور کے اکابر صحابہ کرام کو اولاً حق پہنچتا تھا کہ اس کے خلاف عملاً احتجاج کرتے اگر خلیفہ اسلام اپنی قبیلہ پرستی سے باز نہ آتے تو ان کے اہم کاموں میں شریک کار ہونا ترک دیتے۔ یہاں معاملہ برعکس ہے کہ خود عمرو بن العاص کے صاحبزادے عبداللہ بن عمرو بن العاص اسی سال (۳۰ھ) میں افریقیہ کی مہم میں باقی اکابرین کے ساتھ شریک جہاد ہوتے۔ اور غنائم سے دوسروں کی طرح حصہ رسدی حاصل کیا۔ اور دوسرے کسی بزرگ نے بھی یہ اعتراض نہیں کھڑا کیا۔

— پھر سنہ ۳۰ھ میں بھی غزوہ طبرستان وغیرہ میں ہی صاحبزادے دیگر بزرگوں کی طرح شریک جنگ ہوتے اور ان مہموں میں پوری طرح حصہ لیا۔

مختصر یہ ہے کہ ان واقعات کے ذریعہ معلوم ہو گیا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص کے والد عمرو بن العاص کو ان کے منصب سے کسی گروہ بندی اور

عصبیت کی وجہ سے الگ نہیں کیا گیا تھا بلکہ وقتی مصلحت اور ملی ضرورت کے تحت یہ معاملہ پیش آیا تھا۔

اکابر صحابہ کرام کے تعامل سے یہ مسئلہ صاف اور بے غبار ہے۔  
اعراض کنندگان کی کج بختی کا کوئی علاج نہیں۔ مالک کریم سب مسلمانوں کو  
تمام صحابہ کرام کے حق میں حسن ظنی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور معترض احباب کو  
ہدایت بخشنے۔

## کاتب کا منصب

تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عثمانؓ کے لیے مروان بن الحکم الکاتب  
تھا۔

تاریخ خلیفہ بن خیاط، ج ۱، ص ۵۵، تحت عمال عثمانی،  
طبع عراق۔

حکومت کے عہدوں میں اس دور کے اعتبار سے کاتب کا صحیح مفہوم نشی  
اور محرر دفتر ہے۔ معترضین حضرات نے اس چھوٹے سے عہدہ کے مفہوم کو  
من مانی تشریحات کا جامہ پہنا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ پوری سلطنت عثمانی کا  
سیکرٹری تجویز فرما کر تمام ملک کے دروہست پر مسلط فرما دیا۔

اعراض کنندگان کے بابرکت قلم کا یہ ادنیٰ کرشمہ ہے اور ان کے فن خطابت  
کا یہ کمال ہے ورنہ اس دور میں کہاں نشی و محرر کا مقام اور کہاں تمام ملک پر مسلط  
سیکرٹری کا منصب؟

ع جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے  
غمانی  
(۱) اس سلسلہ میں ناظرین کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مروان بن الحکم عہد

میں ہمیشہ کاتب (یعنی منشی یا محرر) کے عہدہ پر نہیں تھا۔ بلکہ ایک زمانہ تو اس کو  
البحرین کے علاقہ پر حاکم و والی بنایا گیا۔

خلیفہ بن خیاط نے اس مسئلہ کو بالفاظ ذیل درج کیا ہے :-  
”..... و من و لایتہ علیہا مروان بن الحکم“

(تاریخ خلیفہ بن خیاط، ص ۱۵۹، جزء اول  
تحت تسمیۃ عمال عثمانی)

”یعنی حضرت عثمانؓ کے دور میں جو لوگ بحرین کے علاقہ کے لیے

والی و حاکم بناتے گئے ان میں مروان بن حکم بھی ہے۔“

(۲) دوسری یہ چیز ہے کہ بعض اوقات مروان نے اسلامی جنگوں میں شرکت کی

ہے۔ چنانچہ بلاذری نے غزوہ افریقیہ کے واقعات کے تحت نقل کیا ہے

عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے جنگ افریقیہ کے لیے تیاری کی تو اس

کی امداد کے لیے ایک عظیم جماعت مدینہ طیبہ سے حضرت عثمانؓ نے روانہ

کی۔ ان لوگوں میں معبد بن العباس بن عبدالمطلب ہاشمی۔ مروان بن الحکم

اموی۔۔۔ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو بن العاص

وغیر ہم بہت سے حضرات تھے۔

”..... و امداء بجلیش عظیم فیہ معبد بن العباس بن

عبدالمطلب و مروان بن الحکم بن ابی العاص... الخ

(فتوح البلدان احمد بن یحییٰ بلاذری، ص ۲۳۴-

تحت عنوان فتح افریقیہ۔ طبع مصری)

— اسی طرح ابن عذاری المراكشي نے اپنی کتاب ”البيان المغرب فی اخبار

المغرب“ کی ابتدا میں درج کیا ہے کہ فتح افریقیہ کے لیے جو مسلمانوں کا لشکر گیا



تھا اس میں مروان بن الحکم موجود تھا اور شریکِ لشکر تھا۔  
 ”... خرج جيش المسلمين الى فتح افریقیة وفي الجيش

مروان بن الحکم۔“

کتاب البیان المغرب فی اخبار المغرب، ص ۳۰ تحت

ذکر فتح افریقیہ - طبع بیروت

ان تاریخی واقعات کے ذریعہ معلوم ہو گیا کہ مروان بن الحکم، عہدِ عثمانی میں ہمیشہ ”کاتب“ بھی نہیں رہا ہے چہ جائیکہ تمام سلطنتِ عثمانی پر سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے قابض رہا ہو۔

— اس کے بعد یہ گزارش بھی قابلِ توجہ ہے کہ:

— جو شخص بھی خلیفۃ المسلمین کا کاتب و محرر مقرر ہو وہ سلطنتِ اسلامی

کا سیکرٹری بن جاتا ہے؛ یہ کوئی اصولِ ریاست میں سے نہیں ہے۔

اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل واقعات سامنے رکھیں اور

تدبر فرمادیں۔

(۱) — مثلاً حضرت سیدنا صدیق اکبرؓ کے عہد میں حضرت عثمانؓ بن عفان

ان کے کاتب و منشی تھے۔

”... وكان عثمان بن عفان كاتباً لابی بكر الصديق“ الخ

کتاب المعجز لابی جعفر البغدادی، ص ۳۷۷

تحت اسماء اشرف الکتاب - طبع دکن

(۲) — اور فاروق اعظمؓ کے عہد میں زید بن ثابت انصاریؓ کاتب و

محرر تھے اور ایک شخص معقیب بھی کاتب تھے۔

”و کاتب عمر زید بن ثابت وقد کتب له معقیب“ الخ

ذاتیرغ خلیفہ بن خیاط، ص ۱۳۰، الجزء الاول، طبع عراق۔  
 تحت تسمیۃ عمال عمر بن الخطاب کتابہ و حاجبہ و خازنہ، الخ  
 مطلب یہ ہے کہ ان خلفاء حضرات کے کاتبوں اور منشیوں کو کوئی بھی  
 سلطنت کا سیکرٹری نہیں تصور کرتا تو حضرت عثمانؓ کے محررو منشی کے متعلق ملک  
 بھر کا سیکرٹری بنانے کی کیوں تکلیف فرمائی جا رہی ہے؟

### تنبیہ

”الکاتب“ کے منصب کے ضمن میں ایک تاریخی اصطلاح ”کولمخوظرکھنا“  
 ضروری ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور کے بہت بعد عباسی  
 خلفاء وغیرہ کے ایام میں خلیفہ کے ہاں ایک منصب ”الکاتب“ کے نام سے  
 موسوم کیا جاتا تھا۔ علم و ادب میں فائق اور حالاتِ حاضرہ سے باخبر شخصیت کو  
 اس کے لیے منتخب کیا جاتا تھا۔

وہ خلیفہ کے لیے علمی، ادبی، خطابی ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ تحریر و تقریر  
 کے مقاصد حکومت اس کے ذریعہ مکمل کرتی تھی۔ اس منصب کے عہدہ دار کو  
 حاکمانہ تصرفات اور اختیارات حکومت سے کچھ تعلق نہ ہوتا تھا۔

— ایسے مخصوص منصب ”الکاتب“ کا عثمانی ایام خلافت میں سرے سے  
 کوئی وجود نہیں تھا۔ خلافتِ راشدہ کے دور میں جو ”کاتب“ خلیفہ کے لیے کام  
 کرتے تھے ان کی حیثیت ہم نے صدیقی و فاروقی دور کے کاتبوں میں اوپر عرض  
 کر دی ہے اس سے زیادہ کچھ نہ تھی وہی حیثیت حضرت عثمانؓ کے سامنے  
 مروان کی تھی۔

معرض احباب نے ”مشاکلہ لفظی“، یعنی الکاتب کے لفظ کے ذریعہ فریب

دینے کی سعی کی ہے اور عثمانی زور کے منشی و محرر کے منصب کو تمام ملک کے چیف سیکرٹری کے نام سے تعبیر کر دیا ہے اور عثمانی خلافت کے تمام اختیارات اس کے ہاتھ میں دکھلانے کی تجویز کی ہے جو بالکل خلاف واقعہ ہے اور سراسر فریبی ہے۔

انصاف پسند حضرات سے امید ہے کہ ان معروضات کے بعد منصب اہل  
کے مسئلہ کو خود حل فرما سکیں گے۔

— مروان بن الحکم کے متعلق بعض اشیاء بحث ثانی میں رجوع نہ تھالے اورج  
ہونگی۔ تھوڑے سے انتظار کی تکلیف فرمادیں۔

## عزل و نصب کے معاملہ میں

### امام بخاریؒ کی ایک روایت

اس مسئلہ کی بحث اول کا یہ آخری حصہ ہے۔ امید سے زیادہ طوالت ہو  
گئی ہے تاہم مندرجہ ذیل روایت کا اندراج عزل و نصب کی بحث میں مفید  
سمجھ کر کیا جاتا ہے۔

امام بخاریؒ نے "تاریخ صغیر" میں باسند روایت نقل کی ہے:

— حدثنا جبير حدثني جهم الفهري قال انا شاهد

الامر كله قال عثمان ليقيم اهل كل مصر كرهوا صاحبهم حتى

اعزله عنهم واستعمل الذي يحبون فقال اهل البصرة

رضينا بعبد الله بن عامر فاقره وقال اهل الكوفة

اعزل عنا سعيد بن العاص واستعمل ابا موسى ففعل

وقال اهل الشام قد رضينا بمعاقبة فاقرة وقال اهل  
مصر اعزل عنا ابن ابي سرح واستعمل علينا عمرو بن  
العاص ففعل۔

(تاریخ صغیر امام بخاری، ص ۴۴، ۴۵۔ طبع الہ آباد ہند)

”یعنی (ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ) حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ جن  
مقامات کے لوگ اپنے حاکم کو ناپسند کرتے ہوں وہ کھڑے ہو جائیں  
یہں دان کے تقاضے کی بنا پر ان کے حاکم اور والی کو معزول کر دوں گا اور  
جس شخص کو وہ پسند کرتے ہوں اس کو عامل و حاکم بنا دوں گا۔ اس  
اعلان کے بعد)

(۱) — اہل بصرہ نے کہا کہ عبداللہؓ بن عامر پر ہم راضی ہیں۔ یہ ہمیں منظور ہے  
تو ان کے لیے ابن عامر کو برقرار رکھا۔

(۲) — اور کوفہ والوں نے کہا ہمارے ہاں سے سعید بن العاص کو معزول کر  
دیجیے اور ابو موسیٰ اشعریؓ کو حاکم بنا دیجیے۔ حضرت عثمانؓ نے اسی طرح  
کر دیا۔

(۳) — اہل شام نے کہا کہ ہم امیر معاویہؓ کی حکومت پر راضی ہیں تو حضرت  
عثمانؓ نے شام کے علاقہ کے لیے انہیں برقرار رکھا۔

(۴) — اہل مصر نے کہا کہ ہمارے ہاں سے عبداللہؓ بن سعد بن ابی سرح کو معزول  
کر کے عمرو بن العاص کو عامل و والی بنا دیجیے۔ حضرت عثمانؓ نے اسی طرح  
کر دیا۔

— اس روایت کے اعتبار سے سیدنا امیر المؤمنین عثمانؓ کا کردار اس  
میں نہایت بے داغ نظر آتا ہے۔ حضرت عثمانؓ نے کامل دیانتداری کے ساتھ

عوام کے احساسات اور مفادات کو پوری طرح ملحوظ رکھا۔ کسی قسم کی جانبداری اور قبیلہ پرستی سامنے نہیں رکھی۔

اس روایت نے بڑے بڑے الجھاؤ صاف کر دیئے ہیں اور اس نوعیت کی بیشتر داستانیں ختم کر کے رکھ دی ہیں۔

معتبر ضمیمہ حضرات اگر تعصب دور فرما کر انصاف پسندی اور خدا خونی سے کام لیں تو مسئلہ صاف ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی خفا باقی نہیں رہا۔

## تنبیہ

امام بخاریؒ کی مندرجہ روایت سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مروان بن حکم کی بے اعتدالیوں کی داستانیں اور اس کے ملکی تسلط کے قصے جو سناتے جاتے ہیں وہ بیشتر بے اصل اور لغو ہیں اگر ان میں اصلیت ہوتی تو اس دور کے مسلمانوں نے حضرت عثمانؓ کے سامنے جہاں عزل و نصب کے دیگر مسائل پیش کیے تھے وہاں مروان کے الگ کروانے کا مسئلہ بھی ضرور پیش کرتے اور اس کو برطرف کروا دیتے۔ حضرت عثمانؓ کی طرف سے تو اس نوعیت کے مسائل حل کرانے کی پیش کش ہوئی تھی اور حاضرین پھر بھی مروان کے حق میں خاموش رہے۔ سچ ہے کہ

”السکوت فی معرض الحاجة الی البیان بیان“

(اصول البزوری، ص ۱۶۰، باب تقسیم الراوی

طبع نور محمد، کراچی)

## اختتام بحث اول

اس بحث کے اول سے لے کر آخر تک مناصب عثمانی اور ان کے حکام کی ایک

تفصیل دے دی گئی ہے۔ ان میں اموی وغیر اموی کا حساب لگانا اور اقربا و غیر اقربا کا شمار کرنا ناظرین کرام کے لیے بڑی سہولت سے ہو سکتا ہے۔ عہدِ عثمانی کی تمام سلطنت پر تدبیر سے نظر ڈال کر تناسب خود لگائیں اور موازنہ قائم کریں کہ کس قدر بنو امیہ کو مسلط کر دیا گیا اور کتنی تعداد باقی قبائل کے حکام کی تھی؟

کیا حضرت عثمانؓ نے اپنے دور میں جانب دارانہ سلوک روا رکھا تھا؟ اور اپنے قبیلہ کے افراد کو تمام سلطنتِ عثمانی پر قابض بنا دیا تھا؟

— ہم نے تاریخی موادِ قلیل سی سعی کر کے بحوالہ کتب آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہے۔ نتیجہ پر پہنچنا اب قارئین حضرات کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔

مختصر یہ ہے کہ اتنی عظیم و وسیع سلطنت میں صرف چار پانچ آدمی رشتہ دار حاکم بناتے گئے اور ان میں سے بھی بعض حسبِ ضرورت ادلتے بدلتے رہے۔ کیا اسی کا نام ہے ”حکومت کے تمام اختیارات ایک خاندان کے لیے جمع کر دیئے گئے؟“ انصاف فرمادیں۔

— اس کے بعد اب دوسری بحث شروع ہوگی اس میں ان حضرات کی لیاقت اور صلاحیت و کردار کا مسئلہ سامنے رکھا جائے گا۔ اور ان کی دینی، ملی خدمات کا ذکر کیا جائے گا۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

## بحث ثانی

یہاں اس اعتراض کا جواب پیش کرنا مناسب ہے جس میں معترض دوستوں نے لکھا ہے کہ:

”فانہ ولی امور المسلمین من لا یصلح للولایۃ حتیٰ

ظہر من بعضهم الفسوق و من بعضهم الخیانة ... الخ

”منہاج الکرامۃ فی معرفۃ الامانۃ لابن المطہر

الحلی الامامی الشیعی بحث مطاعن عثمانی ص ۶۶

مطبوعہ در آخر جلد رابع از منہاج السنہ (طبع لاہور)

”یعنی عثمانؓ نے مسلمانوں کے تمام امور کا ایسے کارندوں کو حاکم

بنادیا جو لوگ حکومت کرنے کی صلاحیت اور لیاقت نہیں رکھتے

تھے۔ حتیٰ کہ ان میں سے بعض افراد سے فسق و فجور ظاہر ہوا اور بعضوں

سے خیانتیں صادر ہوئیں وغیرہ وغیرہ“

— حضرت عثمانؓ کے اقرباء میں سے یہ وہی اشخاص ہیں جن کا بحث

اول میں ذکر ہو چکا ہے یعنی ولید بن عقبہ۔ سعید بن العاص، عبد اللہ بن عامر

بن کریز۔ امیر معاویہ بن ابی سفیان۔ عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح۔ مروان بن

الحکم۔

ان حضرات پر یہ طعن ہے کہ ان لوگوں کو حضرت عثمانؓ نے حکومت کی

ذمہ داریاں سپرد کیں حالانکہ یہ لوگ حکومت کی اہلیت و صلاحیت نہیں رکھتے

تھے بلکہ فاسق و خائن تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی حکومت کو نقصان پہنچایا۔ ان کی وجہ سے دین کا تنزل ہوا، اسلام کی بربادی ہوئی اور ان کو مناسب ملنے کی وجہ سے جاہلی تعصب اور قبائلی دھڑے بندی اس دور میں پھر عود کر آئی اور یہ چیز قتل عثمانی پر نتیج ہوئی۔

— اس مسئلہ کے جواب کے لیے پہلے چند تمہیدات پیش نظر رکھیں۔ اس کے بعد مندرجہ بالا افراد میں سے ہر ایک کی پوزیشن الگ الگ ملاحظہ فرمادیں۔ اس طریقہ سے معلوم ہو سکے گا یہ کس قسم کے لوگ تھے؟ ان کا کردار کیا تھا؟ ان کے سبب سے ملتِ اسلامیہ کو فائدہ ہوا یا نہ ہوا؟ اسلام کی انہوں نے کتنی خدمات سرانجام دیں۔ اور یہ لوگ اسلامی سلطنت کے حق میں اہل ثابت ہوتے یا نا اہل؟ کیا ان لوگوں کی وجہ سے کوئی قبائلی عصبیت لوٹ آئی تھی؟ یا صرف پروپیگنڈا ہے؟

## تمہیدات

(۱)

— معصیت اور خطا سے معصوم ہونا انبیاء علیہم السلام کی صفت ہے۔ مندرجہ حضرات خطا سے مبرا نہ تھے۔ نہ فرشتوں کی طرح گناہوں سے محفوظ تھے۔ انسان تھے اور انسان سے خطا سرزد ہونا کچھ بعید نہیں۔

(۲)

— اعتراض پیدا کرنے والے احباب نے ان لوگوں کے نقائص و



معائب عوام کے سامنے بڑی کوشش سے نشر فرماتے ہیں۔ ان لوگوں کے کردار کی یہی پسندیدہ تصویر ان کے پاس تھی جو انہوں نے دکھلا دی ہے۔  
 اب ہم آئندہ اوراق میں ان مطعونین کی شخصیت کی تصویر کا دوسرا رخ پیش کرتے ہیں۔ اس طریقہ سے ناظرین حضرات کے لیے ایک شخص کے محاسن و قبائح کے دونوں پہلو پیش نظر ہوں گے۔  
 بالفرض ان میں کچھ خامیاں تھیں تو ساتھ ہی ان کی خوبیوں کو بھی ملحوظ نظر رکھنا ہوگا۔ ع

”عیب وی جملہ بگفتی بنرش نیز بگو“

(۳۱)

نیز یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ حضرت سیدنا عثمانؓ نے ان لوگوں پر اعتماد کیا اور ذمہ داریاں سپرد فرمائیں اگر مفوضہ امور کے یہ اہل نہ ہوتے اور ان میں صلاحیت نہ ہوتی تو حضرت عثمانؓ ان لوگوں کو اُمت کے اہم کام تفویض ہی نہ فرماتے۔  
 اب ان چھ حضرات کے متعلقات علی الترتیب پیش کیے جاتے ہیں اس پر بحث ثانی تمام ہوگی۔

## ولید بن عقبہؓ کے متعلقات

نسب اور اسلام | پوری سلسلہ نسب اس طرح ہے :

— ولید بن عقبہ بن ابی معیط بن ابی عمرو بن امیہ بن عبد شمس ...  
یکٹی ابو وہب ...

طبقات ابن سعد، ج ۶، ص ۱۵ -  
تحت ولید بن عقبہ

— اور مادری نسب یہ ہے :

» امہ اروی بنت کریز بن ربیعہ ... وهو اخو عثمان  
بن عفان لامہ ... «

طبقات ابن سعد، ج ۶، ص ۱۵ -  
تحت ولید بن عقبہ

— وامر بنی عقبہ هؤلاء اروی بنت کریز بن ربیعہ  
... وامہا البیضاء ام حکیم بنت عبد المطلب تو امة  
ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اخوہم لامہم  
عثمان بن عفان «

(نسب قریش لمصعب الزبیری، ص ۱۲۶)

تحت اولاد عقبہ بن ابی معیط

مطلب یہ ہے کہ ولید بن عقبہؓ اپنے آباؤ اجداد کی طرف سے چھٹی پشت

یعنی عبدمناف، میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ نسب میں شریک ہیں اور چھٹا دادا مشترک ہے۔ اور ولید کی کنیت ابو سب ہے۔

اور ماں کی جانب سے تعلق اس طرح ہے کہ ولید کی ماں کا نام اروی بنت کریر بن ربیعہ ہے۔ اور اروی حضرت عثمان کی بھی ماں ہے۔ اس وجہ سے ولید اور حضرت عثمان باہم ماں جاتے برادر ہیں۔

پھر اروی بنت کریر کی ماں (یعنی ولید و عثمان دونوں کی نانی) البیضاء ام حکیم ہے جو عبدالمطلب بنی ہاشم کی لڑکی ہے۔ اور البیضاء ام حکیم نبی کریم علیہ السلام کے والد شریف حضرت عبد اللہ کی توأم ہے (یعنی ایک بطن سے پیدا شدہ ہیں) لہذا عقبہ کی اولاد (ولید وغیرہ) حضرت عثمان کے لیے ماں جاتے برادر ہیں۔

تشریح ہذا کے ذریعے ولید اور حضرت عثمان کا نسبی تعلق معلوم ہو گیا۔ اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے ساتھ جو ولید کی قرابت نسبی و خاندانی ہے وہ بھی واضح ہو گئی۔ یعنی ولید کی ماں بنی ہاشم حضرات کی بنت البنت (نواسی) ہے (۲) ولید کی ماں کے ناہال بنی ہاشم ہیں (۳) اور ولید بن عقبہ حضرت علی کی چھوٹی زاد بہن کے لڑکے ہیں۔

اور ولید فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے۔ (مشہور روایت یہی ہے) اور حضور علیہ الصلوٰۃ کے صحابہ کرام میں سے ہیں۔

..... الولید بن عقبہ بن ابی معیط..... من مسلمة الفتح.....

(۱) — تجرید اسماء الصحابہ، ج ۲، ص ۱۳۹۔ للحافظ الذہبی

طبع اول، دکن۔

... و اسلم الوليد واخوه عمارة يوم الفتح ...

(۲) — الاصابه، ج ۳، ص ۶۰۱، جلد ثالث مع

الاستيعاب تحت الوليد بن عقبه۔

یعنی ولید اور ان کا برادر عمارہ دونوں فتح مکہ کے روز ایمان لائے تھے۔

ولید فتح مکہ کے موقعہ پر ایمان لائے۔ اپنی ذاتی لیاقت کی بناء **طبعی لیاقت**

پر کئی اوصاف کے مالک تھے۔ قبیلہ قریش کے اہم لوگوں میں سے تھے۔ شرفاء قوم میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ بہادر و شجاع تھے۔ باحوسلہ آدمی اور سخی مرد تھے۔ اپنے دور کے شاعر بھی تھے۔

یہ چیزیں عبارت ذیل میں ملاحظہ فرمادیں۔

(۱) ..... وکان الوليد، من رجال قريش وشعراءهم و

كان له سخاء... الخ

(۲) ..... وکان الوليد شجاعاً شاعراً جواداً... الخ

(۳) — اسلم يوم الفتح ..... وکان من رجال قريش

ظرفاً وحلماً وشجاعاً وادباً وکان شاعراً

شريعاً... الخ

(۱) نسب قریش المصعب الزبیری، ص ۱۳۸

تحت اولاد عقبه بن ابی معیط۔

(۲) الاصابه، ج ۳، ص ۶۰۱۔ مع الاستيعاب

تحت الوليد بن عقبه۔

(۳) تهذيب التهذيب، ص ۱۴۲-۱۴۳، ج ۱۱

تحت الوليد بن عقبه۔

حاکم و عامل بنایا جانا (۱) — فتح مکہ کے بعد نبی اقدس صلی اللہ

علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو قبیلہ بنی مصطلق کے صدقات کی وصولی پر عامل و حاکم مقرر فرمایا۔

(۲) — پھر صدیق اکبرؓ نے اپنے دور خلافت میں قبیلہ بنی قضاہ کے صدقات پر ولید بن عقبہ اور عمرو بن العاص دونوں کو عامل متعین فرمایا۔ اور ان دونوں کو رخصت کرنے کے لیے حضرت صدیقؓ خود مدینہ سے باہر تشریف لے گئے۔ دونوں حضرات کو خدا خوفی کی وصیتیں فرمائیں اور روانہ کیا۔

(۳) — اور فاروقی دور میں حضرت فاروق اعظمؓ نے ولید بن عقبہ کو قبیلہ بنی تغلب کے صدقات پر عامل و حاکم کی حیثیت سے تعینات فرمایا۔ اور حضرت عثمانؓ نے بھی ولید بن عقبہ کو عامل و حاکم مقرر کیا جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے یعنی بحث اول میں گزر چکا ہے۔

مقامات ذیل کی طرف رجوع کریں۔ یہاں یہ مسئلہ درج ہے۔

(۱)..... الولید بن عقبہ بن ابی معیط علی بنی مصطلق الخ  
اسلم یوم الفتح بعثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
علی صدقات بنی مصطلق۔

(۱) — کتاب الحجر، ص ۱۲۶ تحت امراء نبوی۔

(۲) — تہذیب التہذیب، ج ۱۱، ص ۴۲ تحت الولید

(۲)..... کتب ابوبکر الی عمرو بن العاص والی ولید  
بن عقبہ وکان علی النصف من صدقات قضاہ وقد  
کان ابوبکر شیعیہما مبعثہما علی الصدقة و اوصی کل

واحدٍ منہما بوصیۃِ اتق اللہ فی السرِّ والعلانیۃ ۛ

(تاریخ للطبری، ج ۴، ص ۲۹ تحت ۳۳)

(۳) ..... وولاءہ عمر علی صدقات بنی تغلب وولاءہ

عثمان علی الکوفۃ ثم عزله ..... و فی تسع وعشرین

عزل عثمان عن الکوفۃ الولید بن عقبۃ ... الخ

(تہذیب التہذیب، ص ۱۴۳-۱۴۴، ج ۱۱)

تحت الولید بن عقبۃ

(۱)

## کارکردگی و کارنامے

اس سلسلہ میں چند چیزیں ذکر کی جاتی ہیں :-

ولید بن عقبہ میں کام کی اہلیت تھی اور انتظام کی صلاحیت بھی۔ اس بناء پر خلفائے راشدین کی طرف سے ملت کے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔

— چنانچہ حضرت عمرؓ کی جانب سے قبیلہ بنی تغلب پر عامل رہے اور عرب الجزائرہ کے علاقہ پر حاکم و والی متعین تھے۔

— جب ان کو کوفہ پر حضرت عثمانؓ نے والی بنایا تو عرب الجزائرہ سے کوفہ کی طرف پہنچے تھے۔ عہد عثمانی کے دوسرے سال میں کوفہ پر ان کا یہ تقرر ہوا تھا۔

— اپنے عہدہ کردار کی وجہ سے لوگوں میں پسندیدہ تھے اور رعیت کے ساتھ رفیق و نرمی کا برتاؤ رکھتے تھے۔

— قریباً پانچ سال تک کوفہ پر حاکم رہے۔ اس مدت میں ان کی جوہلی پر عوام کو روکنے کے لیے کوئی دربان نہیں تھا۔ یعنی مستغیث کو اپنی معروضات پیش کرنے کی ہر وقت اجازت تھی،

اہل علم کی تسلی کے لیے حوالہ کی عبارت درج ذیل ہے۔ طبری میں ہے کہ  
 ”..... وكان (الوليد بن عقبة) على عرب الجزيرة  
 عاملاً لعمر بن الخطاب فقدّم الوليد في السنة الثانية  
 من امارّة عثمان..... فقدّم الكوفة وكان احب الناس  
 في الناس وارفقهم بهم فكان بذالك خمس سنين و  
 ليس على داره باب“

اور ابن کثیر کی عبارت میں یہ مضمون اس طرح ہے۔  
 ”..... واستعمل الوليد بن عقبة وكان عاملاً لعمر على  
 عرب الجزيرة فلما قدمها اقبل عليه اهلها فاقام بها  
 خمس سنين وليس على داره باب وكان فيه رفق  
 برعيته“

(۱) — تاریخ طبری، ج ۵، ص ۴۸، ۲۶ھ، تحت  
 ذکر سبب عزل عثمان عن الكوفة سعداً و  
 استعماله عليها الوليد“  
 (۲) — البدایہ لابن کبیر، ج ۴، ص ۱۵۱ تحت  
 ۲۶ھ۔ طبع اول مصری

(۲)

جنگی کارناموں کے سلسلہ میں مؤرخین نے لکھا ہے کہ ولید بن عقبہ نے  
 آذربائیجان اور آرمینیا کے علاقہ پر کوفہ سے ایک لشکر مرتب کر کے پیش قدمی کی۔  
 یہ دونوں علاقے قبل ازیں مفتوح ہونے کے بعد نقض عہد کر کے بغاوت

کر چکے تھے۔ ولید اس حبش کے ذریعہ ان پر حملہ آور ہوئے۔ دوبارہ فتح کیا بغنا  
 حاصل کیے۔ مخالفین کو قیدی بنایا گیا۔ بے شمار اموال مسلمانوں کے ہاتھ لگے  
 —۔ آذربایجان و آرمینیہ کے لوگوں کو جب اپنی ہلاکت کا یقین ہو  
 گیا تو انہوں نے صلح اختیار کی جیسا کہ حضرت حذیفہ بن یمان کے ساتھ صلح کی تھی  
 یعنی آٹھ لاکھ درہم سالانہ مسلمانوں کو ادا کریں گے۔ امیر ولید بن عقبہ نے ان  
 یہ بطور سالانہ جزیہ کے وصول کیا اور غنائم حاصل کر کے کوفہ کی طرف بسلاست  
 واپس ہوئے۔

عبارت ذیل میں یہ مضمون مذکور ہے :-

— ان الولید بن عقبہ سار مجیش الکوفۃ نحو آذربایجان  
 و آرمینیۃ حین نقضوا العهد فوطی بلادہم و اغار  
 باراضی تلك الناحیۃ فغنم و سبی و اخذ اموالاً  
 جزیۃً فلما یقنوا بالہدکۃ صالحہم اہلہا علی ما كانوا  
 صالحوا علیہ حذیفۃ بن الیمان ثمان مائۃ الف درہم  
 فی کل سنۃ فقبض منہم جزیۃ سنۃ ثم رجع سالماً  
 غانماً الی الکوفۃ۔ الخ

دالبدایہ لابن کثیر، ص ۱۴۹-۱۵۰، ج ۷، تخت  
 ۲۴، تذکرہ خلافت امیر المومنین عثمانؓ  
 بن عفان، طبع اول مصر۔

(۳۷)

جب اہل روم نے مسلمانوں کے ساتھ شدید مقابلہ کیا۔ اہل شام کو خود



لاحق ہوا تو انہوں نے خلیفہ وقت سیدنا حضرت عثمانؓ سے جنگی امداد طلب کی۔  
 حضرت عثمانؓ نے امدادی لشکر روانہ کرنے کے لیے امیر کوفہ ولید بن عقبہ کو فرمان جاری  
 کیا کہ جب میرا یہ حکم پہنچے تو اپنے بھائیوں راہل شام، کے لیے آٹھ ہزار کے لگ بھگ  
 امدادی لشکر تیار کیجیے۔ اور ایک شریف بہادر امانتی آدمی کی ماتحتی میں روانہ کریں۔  
 فرمان ہذا پہنچنے پر ولید بن عقبہ نے اہل اسلام کو اطلاع کرائی۔ اہل شام کی معاونت  
 کے لیے بڑی مستعدی کے ساتھ لوگوں کو آمادہ کیا۔ جہاد پر آمادگی کی خاطر لیکچر دیتے۔  
 جب بہت بڑی فوج تیار ہو گئی تو سلمان بن ربیعہ کو ان پر امیر بنا کر شام کی طرف  
 لشکر روانہ کیا۔

مسلمانوں کے لشکر بلادِ روم میں جا کر جمع ہوئے تو اہل اسلام کو فتوحات  
 بہتیں۔ غنائم حاصل کیے اور بے شمار قلعوں کو اسلام کے زیرِ نگیں کیا۔  
 البدایہ میں یہ مضمون ہے کہ :

..... جاشت الروم حتی خاف اهل الشام وبعثوا  
 الى عثمان بن عفان فكتب الى وليد بن عقبة ان اذا  
 جاءك كتابي هذا فابعث رجلاً اميناً كريماً شجاعاً في  
 ثمانية آلاف . . . الى اخوانكم بالشام فقام الوليد  
 بن عقبة في الناس خطيباً حين وصل اليه كتاب عثمان  
 فاخبرهم بما امره به امير المؤمنين وندب  
 الناس وحثهم على الجهاد ومعاونة معاوية واهل  
 الشام وامر سلمان بن ربيعه على الناس الذين يخرجون  
 الى الشام . . . فلما اجتمع الجيشان شنوا الغارات على  
 بلاد الروم فغنموا وسلبوا شيئاً كثيراً وفتحوا حصوناً

کثیرۃً وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ -

البدایہ لابن کثیر، ج ۷، ص ۱۵۰، تذکرہ  
خلافت امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی

## ولید بن عقبہؓ کے متعلق بعض اشکالات

### اور ان کا حل

سابقاً چند چیزیں ولید کے مقام کے متعلق ذکر کی گئی ہیں۔ اب ان کے متعلق معتزضین کے بعض اعتراضات اور ان کے جوابات پیش خدمت کیے جاتے ہیں۔

#### (۱)

ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قبیلہ بنی مصطلق کی طرف سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو صدقات کی وصولی کے لیے روانہ فرمایا جب ولید قبیلہ ہذا کے قریب پہنچے تو بعض لوگ ان کی آمد پر بطور پیش قدمی باہر آئے۔ ولید انہیں دیکھ کر واپس ہوتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر رپورٹ دے دی کہ وہ مرتد ہو گئے ہیں، میرے قتل کے درپے تھے اور انہوں نے صدقات دینے سے انکار کر دیا ہے۔

حضور علیہ السلام یہ بات معلوم کر کے ناراض ہوئے۔ ان پر فوج کشی کا ارادہ کیا۔ اس وقت ولید کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن

تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلٰی مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ۝

(پارہ ۲۶ - سورہ حجرات)

ترجمہ :- ”اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کوئی لٹہ کا رنبر لاتے تو تحقیق کر لو۔ کہیں جانہ پڑوسی قوم پر نادانی سے پھر کل کو اپنے کیے پر لگو پھپھانے“

خلاصہ یہ ہے کہ ولید نے جھوٹ بولا تھا۔ اس وجہ سے ان کو قرآن کریم نے فاسق کہا ہے۔ ولید کی رپورٹ دینے پر مسلمانوں میں ایک بڑا حادثہ پیش آنے والا تھا اتفاقاً بچاؤ ہو گیا۔

## حل اشکال

اس آیت کے تحت کئی قسم کی روایات مفسرین نے لکھ دی ہیں۔ ان میں بیشتر تو مجاہد وقتارہ، ابن ابی لیلیٰ وغیرہم پر موقوف روایات ہیں، مرفوع نہیں اور یہ لوگ اس دور کے آدمی نہیں بلکہ بعد کے زمانہ کے ہیں۔ اور جو چند ایک رام سلمہ، ابن عباس وغیرہما کی مرفوع روایات ملتی ہیں۔ ان کے اسانید بھی کوئی بخاری و مسلم کے اسانید کی طرح غیر مجروح اور نچتہ نہیں، بلکہ ان پر نقد و تنقید کے مواقع موجود ہیں۔

— ولید کے متعلق واقعہ کو اگر درست تسلیم کر لیا جائے تو بھی یہاں چند امور قابل وضاحت ہیں۔

(۱) — جاہلیت کے دور میں ولید بن عقبہ اور قبیلہ بنی مصطلق کے درمیان سابقہ عداوت تھی۔

... وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية... الخ

- (۱) — مدارج السالکین لابن القیم، ج ۱، ص ۳۶۰  
 (۲) — تفسیر خازن معہ بغوی، ج ۶، ص ۲۲۲ تحت الآیہ

## (۲) ولید کو شیطان کی دھوکہ دہی

ولید کی آمد کی قبیلہ مذکور کو اطلاع ہوئی۔ پیش قدمی کے طور پر بعض لوگ سامنے آئے تو ایک شیطان نے ولید کو بتلایا کہ یہ تو آپ کے قتل کے ارادہ پر آرہے ہیں تو ولید خوف کھا کر واپس چل پڑے اور اگر یہ ماجرا بیان کیا کہ بنی مصطلق صدقات سے انکاری ہو گئے ہیں اور میرے قتل کے درپے ہوتے... الخ

... فحدثه الشيطان انه يريدون قتله فهابهم  
 فرجع من الطريق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 فقال ان بنى المصطلق منعوا صدقاتهم فارادوا قتلى... الخ

مدارج السالکین لابن القیم الجوزی، ج ۱، ص ۳۶۰۔  
 طبع مصر، سن طباعت ۱۳۷۵ھ  
 ۱۹۵۶ء

## تنبیہ

”... فحدثه الشيطان کے الفاظ کو مندرجہ ذیل علماء نے اس واقعہ

میں ذکر کیا ہے :-

- (۱) تفسیر ابن جریر للطبری، ص ۷۸، پارہ ۲۶۔ تحت الآیہ  
 (۲) تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۲۰۹، تحت الآیہ  
 (۳) تفسیر بغوی معہ خازن، ج ۶، ص ۲۲۲۔ تحت الآیہ  
 (۴) تفسیر خازن معہ بغوی، ج ۶، ص ۲۲۲۔ تحت الآیہ

اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ ولید کو شیطان نے بتلایا کہ یہ لوگ تمہارے قتل کے درپے ہیں اور صدقات دینے سے منکر ہو گئے ہیں۔  
 \_\_\_\_\_ شیطان کی فریب کاریاں اور مکاریاں خدا کے نیک بندوں کے ساتھ ہمیشہ سے جاری ہیں۔ اس موقع پر بھی شیطان نے فریب دہی سے کام لیا۔ یہ تفصیل نہیں مل سکی کہ انسانی شکل میں تشکل ہو کر یہ دھوکہ دیا، یا آواز دیکر یہ شر پیدا کر دیا، یا اس نے کوئی اور صورت اختیار کی۔  
 بہر کیف یہ شیطانی فریب کاری تھی جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا

\_\_\_\_\_ ولید کو ناپسند جاننے والے احباب ولید پر برس پڑے اور ان کو خوب بدنام کیا رانسا لامراً مانوی، حالانکہ مفسرین نے "فحدثہ الشیطان" کا لفظ نقل کر کے ولید بن عقبہ کے دامن کو بچا دیا تھا۔ اور حقیقت واقعہ بیان کر دی تھی۔

### ۳۔ ولید پر فاسق کا اطلاق ٹھیک نہیں ہے

واقعہ ہذا اور اس آیت کے پیش نظر علماء نے جو تحقیق درج کی ہے اس کو بھی ملحوظ رکھیں۔ وہ قابل توجہ ہے :-

(۱) علامہ فخر الدین الرازی نے اپنی تفسیر کبیر میں آیت ہذا کے تحت لکھا ہے :-  
 "ہم کہتے ہیں کہ آیت ہذا ان جملہ کفار فاسق بنیاء کا نزول عمومی طور پر کسی شخص کے بیان کے ثبوت اور فاسق کے قول پر عدم اعتماد کی خاطر ہوا ہے۔ اور جس شخص نے یہ قول نقل کیا ہے کہ صرف واقعہ ولید کے لیے اس آیت کا نزول ہے۔ یہ ضعیف ہے اور اس کے ضعف پر یہ چیز دال ہے کہ :-

”اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں آدمی کے لیے میں نے یہ آیت نازل کی“

اور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بھی یہ منقول نہیں کہ آیت کا ورد صرف ولید کے بیان کے لیے ہے اور بس۔

غایت مافی الباب یہ ہے کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی اور نزول آیت کی تاریخ کے طور پر یہ واقعہ ہے۔

— اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس کی تائید ہوتی ہے کہ ولید پر لفظ ”فاسق“ کا اطلاق ایک بعید چیز ہے۔ اس وجہ سے کہ شیطانی دھوکہ کی بنا پر، ولید نے وہم اور گمان کیا تھا۔ اس میں وہ چوک گئے اور چوک جانے والے کو فاسق نہیں کہا جاتا“

اہل علم کی تسلی کے لیے بعینہ عبارت درج ذیل ہے :-

..... بل نقول ہونزل عاماً لبيان تثبت وترك

الاعتماد علی قول الفاسق ویدل علی ضعف قول من يقول

انها نزلت لكذا ان الله تعالى لم يقل اني انزلتها لكذا

والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه بين

ان الآية وردت لبيان ذلك فحسب - غاية مافی

الباب انها نزلت في ذلك الوقت وهو مثل التاريخ

لنزول الآية ونحن نصدق ذلك ويتأكد ما ذكرنا

ان اطلاق لفظ ”الفاسق“ علی الوليد شیخ بعید لانه

توہم و ظن فاخطا والمخطئ لا یسئ فاسقاً... الخ

تفسیر کبیر للرازی، ص ۵۸۹، ج ۷۔ تحت الآیہ (المسئلہ الاولى)

(۲) — تفسیر خازن میں بھی اسی کے موافق مسئلہ ہذا لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ

”قيل هو عام نزلت لبيان التثبيت وترك الاعتماد  
على قول الفاسق وهو اولى من حكم الآية على رجل  
بعينه لان الفسوق خروج عن الحق ولا يُظن بالوليد  
ذلك إلا أنه ظن وتوهم فأخطأ“

(تفسیر خازن معہ لغوی، ج ۶، ص ۲۲۲  
تحت الآیہ - طبع ثانی مصری)

(۳) — تفسیر صاوی علی الجلالین، ص ۱۰۹-۱۱۰ (تحت الآیہ) میں بھی

یہی مسئلہ درج ہے۔ اہل علم کے لیے اطلاع کر دی گئی ہے۔

— مندرجہ بالا امور کی روشنی میں یہ چیز واضح ہو گئی کہ :-

• — اس قسم کے مواقع میں یہ قاعدہ ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ

”العبرة لعموم الالفاظ لا لخصوص الموارد“

یعنی الفاظ کے عموم کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ خصوصی واقعہ

کا لحاظ نہیں ہوتا۔“

• — جاہلیت کے دور کی سابقہ عداوت کی وجہ سے ولید بن عقبہ

کو اگر شیطان نے دھوکہ میں ڈال دیا اور وہ اس معاملہ میں چوک گئے

تو ان حالات میں ان کو فاسق کے لقب سے یاد کرنے رہنا کسی طرح

درست نہیں۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ خطا اجتہادی مُسقطِ عدالت نہیں ہوا

کرتی۔ لہذا ان کی عدالت ثابت ہے اور ان پر ”فاسق“ کا لقب تجویز کرنا

مناسب نہیں۔

— اس اشکال اور اس کے حل کے آخر میں اتنی چیز مزید ذکر کی جاتی ہے

کہ دورِ نبوت میں، اور دورِ صدیقی و دورِ فاروقی میں ولید بن عقبہ کو فاسق کے نام سے نہیں یاد کیا گیا۔ اور نہ ہی ان کو یہ طعنہ دیا جاتا تھا۔ بلکہ حضرت صدیق اور حضرت فاروقؓ نے اپنی اپنی خلافتوں کے دوران ولید پر پورا اعتماد کیا۔ نظامِ خلافت میں شریکِ کار کیا۔ عہدے و منصب انہیں عطا کیے۔ بالفرض اگر ولید بن عقبہ فاسق اور قابلِ مذمت شخص تھے تو شیخینؓ نے ان کے ساتھ یہ قابلِ عزت اور لائقِ احترام سلوک کیوں روا رکھا؟ کیا ولید کے متعلقہ واقعات اور آیات ان حضرات سے مخفی ہو گئی تھیں؟ یہ چیز غور کرنے کے قابل ہے۔ تعصب سے الگ ہو کر تذبذب فرمائیے۔

(۲)

عثمانی دور پر معترض احباب اس موقع پر دوسری یہ چیز بھی ذکر کیا کرتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے حضرت عثمانؓ کو وصایا میں فرمایا کہ آلِ ابی معیط (جو ولید بن عقبہ کے دادا ہیں) کو لوگوں کی گردنوں پر مسلط نہ کر دینا۔ حضرت عثمانؓ نے وصیت کی پرواہ نہ کی اور آلِ ابی معیط کو لوگوں پر مسلط کر ڈالا۔ حضرت عثمانؓ نے جس خطرہ کو محسوس کیا تھا وہ پورا ہو کر رہا، وغیرہ۔ اس چیز کو صاف کرنے کے لیے آئندہ سطور ملاحظہ فرمائیے۔

## رفع اشتباہ

جن روایات سے یہ اعتراض مستنبط کیا گیا ہے وہ کوئی بخاری کی طرح صحیح السند نہیں۔ ان کے رواۃ میں کئی طرح سے مجروح لوگ موجود ہیں۔ علیٰ سبیل التثرتل اگر روایت بالا کو ٹھیک فرض کر لیا جائے تو



اس روایت میں جہاں مذکورہ وصیت حضرت عثمانؓ کے لیے درج ہے اسی روایت میں حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ کو بھی وصیت فرمائی ہے اور قسم دے کر فرمایا کہ  
 "اے علی! اگر تم لوگوں کے امور کے متولی بنو تو لوگوں کی  
 گردنوں پر بنو ہاشم کو سوار نہ کر دینا۔"

پوری عبارت ملاحظہ فرمادیں۔ طبری اور طبقات ابن سعد میں مذکور ہے  
 کہ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں:-

"انشدك الله يا علي! ان وليت من امور الناس  
 شيئاً ان تحمل بنى هاشم على رقاب الناس انشدك الله يا عثمان!  
 ان وليت من امور الناس شيئاً ان تحمل بنى ابى معيط  
 على رقاب الناس - الخ"

(۱) - (تاریخ طبری، ج ۵، ص ۱۳ - تحت سنۃ ۲۳ھ  
 عنوان ذکر الخیر عن مقتلہ (عمر) طبع مصری قدیم طبع)  
 (۲) - طبقات ابن سعد، ج ۳، ص ۲۴۹، تحت  
 تذکرۃ عمرؓ، طبع لیدن -

(مطلب عبارت یہ ہے) - حضرت عمرؓ نے وصیت کے طور پر علیؓ  
 بن ابی طالب کو فرمایا -

"اے علی! اگر آپ لوگوں کے امور کے والی و متولی بنائے  
 جائیں تو لوگوں کی گردنوں پر بنی ہاشم کو سوار نہ کر دینا۔ پھر حضرت  
 عثمانؓ کو خطاب کر کے فرمایا کہ:-

"اے عثمان! اگر آپ لوگوں کے امور کے والی و متولی بنائے  
 جائیں تو ابو معیط کی اولاد کو لوگوں کی گردنوں پر مسلط نہ کر دینا۔"

روایت ہذا کی بنا پر معترض حضرات کو اگر اعتراض کرنا ہی مقصود ہے تو  
اعتراض دونوں بزرگوں پر مساوی طور پر قائم ہو سکتا ہے کیونکہ حضرت علیؑ نے  
بھی حضرت عمرؓ کی وصیت قبول نہ کی اور اپنے رشتہ داروں (یعنی بنو ہاشم) کو  
اپنے دورِ خلافت میں "اہم عہدے" اور "کلیدی مناصب" عطا فرما دیئے۔  
جس کی تفصیل عنقریب بحث ثالث میں انشاء اللہ آرہی ہے۔

— ہمارا موقف تو یہ ہے کہ دونوں بزرگوں پر اس مسئلہ میں نقد و  
تنقید کرنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے  
درست صورت اختیار کی تھی لیکن معترض دوستوں نے روایت بالا کے ذریعہ اپنی کمال  
حداقت کی وجہ سے حضرت عثمانؓ پر نقد کر ڈالا اور حضرت علیؑ کو ترک کر دیا۔  
یہ تو ایسی مثال ہوتی جیسے مقولہ مشہور ہے کہ

”نزلہ بر عضو ضعیف می ریزد“

ان کے خیال میں حضرت عثمانؓ بن عفان کمزور تھے۔ ان پر وار کر لیا۔ حضرت  
علیؑ بن ابی طالب مضبوط تھے ان کو بچا دیا۔ (تعصب کے یہ نمونے ہیں۔ قدم قدم  
پر ناظرین ملاحظہ فرماتے رہیں)۔

— عوام ناظرین کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ حضرت عثمانؓ نے آل  
ابی معیط میں سے صرف ایک فرد واحد (ولید بن عقبہ بن ابی معیط) کو چند سال  
کے لیے کوفہ کا والی بنایا تھا (جیسا کہ بحث اول میں مفصلاً ذکر کیا گیا) غالباً  
دوسرے کسی کو حاکم بنایا ہی نہیں۔ باقی چند اقرباء کو جو عہدے دیتے تھے وہ  
حضرات آل ابی معیط میں سے نہیں ہیں۔ اس اعتراض کی حقیقت یہی کچھ ہے  
جو پیش کر دی ہے۔ معترض حضرات کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔  
حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام قابل احترام اور لائق عقیدت

ہیں۔ ان میں تفریق پیدا کر کے بنو امیہ کے صحابہ کو مطعون کرنا اور بنو ہاشم صحابہ کو بری قرار دینا یہ نہایت ناروا تقسیم ہے۔ جو دین کے تقاضوں اور اسلام کے مقتضیات کے بالکل برخلاف ہے اور فرمان خداوندی ان اقبیہوا الذین ولا تتفرقوا فیہ، یعنی دین کو قائم کرو اور اس میں تفرق و تفریق نہ پیدا کرو، کے بالکل برعکس ہے۔

## الاستیباہ

(اہل علم کے لیے)

معرض حضرات نے سیدنا حضرت عثمانؓ کے کردار کو داغدار کرنے کے لیے اس مقام میں "کتاب الاستیباہ" سے مندرجہ ذیل روایت نقل کی ہے۔ اس میں حضرت عمرؓ نے اپنے امکانی جانشینوں کے متعلق کلام کیا۔ ہاں مذکور ہے کہ :-

”ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت عمرؓ کے ساتھ چل رہا تھا۔ حضرت عمرؓ نے زور سے ٹھنڈا سانس لیا۔ ایسا معلوم ہوا کہ پسلی ٹوٹی ہے۔ عرض کیا کہ کوئی عظیم معاملہ پیش آیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں اُمت کے بارے میں اپنے قائم مقام کے متعلق کیا صورت اختیار کروں؟ یہ چیز سامنے ہے۔

ابن عباسؓ نے کہا کہ معتمد شخصیت کو آپ متعین کر دیں تو کر سکتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ علی المرتضیٰؓ لوگوں میں زیادہ حق رکھتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں۔ وہ سابق الاسلام عالم اور قرابت دار ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن وہ :-

(۱) کثیر الدعا بہ ہیں (ان میں مسخرہ پن زیادہ ہے)۔ پھر میں نے کہا کہ عثمان بن عفان مناسب ہیں تو فرمایا کہ

(۲) — ان کو اگر میں جانشین تجویز کر دوں تو وہ (بنو امیہ سے) بنو ابی معیط کو لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیں گے۔ وہ خدا کی نافرمانی کریں گے۔۔۔۔۔ پھر لوگ عثمانؓ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے۔

پھر میں نے طلحہ بن عبید اللہ کا نام پیش کیا تو فرمایا کہ

(۳) — ان میں بڑائی اور تکبر ہے، ایسا والی ٹھیک نہیں۔

پھر میں نے کہا کہ زبیر بن عوام کو بنا دیں تو فرمایا کہ

(۴) — یہ لوگوں کو صاع اور مد کے معاملہ میں بھی مارنے لگیں گے (یعنی

سخت گیر ہیں) ایسا نہیں چاہیے۔

پھر میں نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص کو مقرر کر دیں تو فرمایا کہ

(۵) — یہ صرف جنگی صلاحیت رکھتے ہیں (جنگی سوار ہیں)۔

پھر میں نے عبد الرحمن بن عوف کا نام ذکر کیا تو فرمایا کہ

(۶) — وہ آدمی اچھے ہیں لیکن اس مسئلہ میں ضعیف اور کمزور ہیں۔

قوی آدمی چاہیے۔

الاستیعاب لابن عبد البر تذکرہ علی بن ابی طالب

جلد ثانی، ص ۴۶۷۔ طبع حیدرآباد دکن

— روایت ہذا کے ذریعہ حضرت عثمانؓ کے کردار کو مطعون کرنا

اور ان کی پالیسی کو غلط ثابت کرنا مقصود ہے۔ اس ضمن میں ولید بن عقبہ (جو

بنی ابی معیط سے ہیں) وہ بھی ملزم ہو سکیں گے۔

— قارئین کرام کی تفہیم کی خاطر مندرجہ بالا روایت کے متعلق ہم

چند تشریحات پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ وہ مغالطہ دور ہو جائے گا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کارکردگی اور پالیسی کے متعلق لوگ دینا چاہتے ہیں۔

مندرجہ بالا روایت کے متعلق دو طرح کا کلام کیا جائے گا۔ روایت و درایت پہلے اس کی سند کے اعتبار سے مختصر سی بحث کی جاتی ہے۔ اس کے بعد باعتبار "درایت" کے کلام کیا جائے گا۔

### — اول —

— ایک بات تو یہ ہے کہ مندرجہ بالا روایت (جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے) الاستیعاب کے مصری نسخہ (جس کے ساتھ "الاصابہ" لابن حجر مطبوعہ ہے) میں منفقود النجبر ہے۔ اس نسخہ کے متوقع مقامات کو (خصوصاً تذکرہ علی بن ابی طالب) تو دیکھا گیا لیکن یہ روایت مجھے نہیں دستیاب ہو سکی۔ پھر الاستیعاب کے نسخہ مطبوعہ حیدرآباد دکن کی طرف رجوع کیا تو تذکرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں ملی ہے اور اپنے طویل اسناد کے ساتھ درج ہے۔

گویا یہ روایت الاستیعاب کے بعض نسخوں میں منفقود ہے اور بعض میں پائی جاتی ہے۔ یہاں سے شبہ پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ مصنف کتاب نے نظر ثانی کے وقت اس روایت کو اصل کتاب سے خارج کر دیا ہو۔ پھر بعض ناقلمین کی طرف سے دوسرے نسخہ میں اس کو داخل رکھا گیا ہو۔ بہر کیف اختلاف نسخ کے ذریعہ اس کا معاملہ مشتبه اور محتمل سا ہو گیا۔ تسلی بخش نہ رہا۔

— دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کا سلسلہ اسناد بڑا طویل ہے۔ اس کے تمام رواۃ پر بحث کرنے کی فرصت ہی نہیں اور حاجت بھی نہیں۔ صرف ان میں سے ایک راوی محمد بن اسحاق کی پوزیشن معلوم کر لینی کافی ہے۔

اس کی وجہ سے روایت کا غیر معتبر اور غیر معتمد ہونا خوب واضح ہو جائے گا۔

## محمد بن اسحاق پر کلام

ابن اسحاق کے حق میں علماء رجال نے توثیق و تضعیف مدح و جرح

دونوں چیزیں مفصل نقل کی ہیں۔ اس مقام میں مندرجہ ذیل اشیاء کا لحاظ رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی نتیجہ پر پہنچنے میں آسانی ہو سکے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے کتاب المدلسین میں  
ابن اسحاق کی تدلیس کو بالفاظ ذیل درج کیا ہے

### ابن اسحاق کی تدلیس

”محمد بن اسحاق بن یسار المطلبی المدنی صاحب المغازی

صدوق مشہور بالتدلیس عن الضعفاء والمجهولين و

عن شر منہم وصفہ بذالك احمد والدارقطنی وغیرہا۔

(کتاب المدلسین، ص ۱۹ تحت المرتبة الرابعة)

(طبع مصری - قدیم طباعت)

یعنی ابن اسحاق صدوق ہے۔ تاہم ضعیف اور مجہول لوگوں

سے تدلیس کرنے میں مشہور ہے اور جو ان لوگوں میں شر ہیں ان سے

بھی تدلیس کرتا ہے یعنی جن لوگوں سے روایت کرتا ہے ان کا

نام نہیں ذکر کرتا بلکہ نام حذف کر دیتا ہے۔

اس مقام میں علماء نے ضابطہ نقل کیا ہے کہ  
جو شخص مدلس ہو اور کلمہ ”عن“ سے روایت

### ایک قاعدہ برائے مدلس

کرے تو وہ چیز قابل حجت نہیں رہتی۔ چنانچہ نصب الرایہ کے حواشی میں امام

نووی سے یہ مسئلہ منقول ہے۔

قال النووی فی شرح المہذب، ج ۵، ص ۱۳۳...  
 "اسنادہ ضعیف فیہ محمد بن اسحاق صاحب المغازی  
 وهو مدلس واذ قال المدلس "عن" لا یحتج بہ انتہی  
 کلامہ -

روحانی نصب الرایہ ص ۲۵۱، ج ۲ - تحت

باب الجنائز، طبع مجلس علمی ڈابھیل (ہند)

یہاں الاستیعاب کی مذکورہ روایت میں راوی محمد بن اسحاق ہے اور صیغہ  
 "عن" سے اپنے شیخ زہری سے یہ روایت نقل کی ہے۔ ابن اسحاق نے حسب  
 عادت تدلیس کرتے ہوئے خدا جانے کیسے راوی کو حذف کر کے روایت  
 چلا دی۔

ابن اسحاق کا تفرّد اور شدوز | (۱) حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب

التهذیب جلد تاسع میں لکھا ہے  
 کہ ایک شخص ایوب بن اسحاق بن سامری نے امام احمد سے محمد بن اسحاق کی اس  
 حدیث کے متعلق سوال کیا۔ جس میں وہ منفرد ہوں تو امام احمد نے جواب میں فرمایا  
 کہ نہیں قبول کی جائے گی۔

... قال ایوب بن اسحاق بن سامری سألت احمد  
 فقلت له يا ابا عبد الله اذا انفرد ابن اسحاق بحديث  
 تقبله قال لا

تہذیب التہذیب، ج ۹، ص ۴۳، تحت

محمد بن اسحاق مذکور۔ طبع حیدرآباد دکن)

(۲) علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ابن اسحاق پر بڑی بحث کی

ہے۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ ... ما انفراداً بیدہ ففیہ نکارۃ ... یعنی اس کی منفرداً روایات منکر ہوتی ہیں (معروف روایات کے خلاف لاتا ہے)۔

(میزان الاعتدال للذہبی، ص ۲۴ - جلد ۳ -

تحت محمد بن اسحاق - طبع مصری قدیم)

(۳) — اسی طرح علامہ بدرالدین العینی نے شرح بخاری میں امام بیہقی سے

نقل کیا ہے کہ جن روایات میں ابن اسحاق منفرد ہو ان کے قبول کرنے سے علماء اجتناب کرتے ہیں۔ (یعنی درخور اعتناء نہیں سمجھتے)۔

”... فقال البيهقي الحقاظ يتوقون ما ينفرد به ابن

اسحاق... الخ

(عمدة القاری شرح البخاری للعینی، ج ۶، ص ۱۷۸،

باب الجمعة فی القری والمدن)

(۴) — ابن اسحاق کی کئی منفردانہ، شاذ روایات کتابوں میں درج ہیں مثلاً

۱۔ ”عشر صنعات“ کی روایت حضرت عائشہؓ سے مروی ہے۔ اس میں مذکور

ہے کہ :-

”ولقد كان في صحيفة تحت سويري فلما مات رسول

الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن

فاكلها“

سنن ابن ماجہ، ص ۱۴۱، باب رضاع البکیر،

طبع نظامی دہلی)

یہ روایت قرآن کی سالمیت اور حفاظت کے منافی ہے۔ راوی محمد

اسحاق ہے۔



(۲) ابذا ماتم کے اثبات و جواز کے لیے ماتمی لوگ مندرجہ ذیل روایت پیش کرتے ہیں۔ اس میں مذکور ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ  
 ”..... ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض و  
 هوفى حجرى ثم وضعت رأسه على وسادة و قمت التدم  
 مع النساء و اضرب وجهى“

ذنا ریح ابن جریر للطبری، ج ۳، ص ۱۹۷، ۱۹۸

ذکر الاحداث التي كانت فيها،

یہ روایت بھی ابن اسحاق کی مرثون منت ہے اور شاذ ہے۔ ماتم کی  
 تائید کنندہ ہے۔

(۳) اسی طرح زیر بحث روایت جو الاستیعاب سے معترض احباب نے نقل  
 کی ہے۔ یہ محمد بن اسحاق کی شاذ روایات اور متفردانہ مرویات میں سے ہے  
 اور اس کے متفردات کا حکم متعدد علماء سے گذشتہ سطور میں ہم نقل کر چکے ہیں  
 وة قابل قبول نہیں اور غیر معتد ہیں۔ لہذا یہ روایت غیر مقبول اور متروک ہے۔

## دوم

پہلی بحث روایت کے اعتبار سے مختصر سی کی گئی۔ اب ثانی بحث درایت  
 کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔

(۱) — شیعہ اور سنی دونوں فریق کی کتابیں اس مسئلہ پر متفق ہیں کہ حضرت  
 فاروق اعظم نے مرض الوفا میں مذکور چھ اشخاص (سیدنا علی المرتضیٰ،  
 سیدنا عثمان، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر بن العوام، سیدنا سعد بن ابی وقاص،  
 سیدنا عبد الرحمن بن عوف) پر اعتماد کر کے مسئلہ خلافت ان کے سپرد کر

ریا تھا۔

(۱) — بخاری شریف، ج ۱، ص ۵۲۲، جلد اول، باب مناقب عثمان بن عفان، قصۃ البیعة والاتفاق علی عثمان — طبع نور محمدی دہلی۔

(۲) — الامالی للشیخ ابی جعفر الطوسی اشعری، ص ۱۶۷-۱۶۹، ج ۲۔

مجلس یوم الجمعہ، ۲۶ محرم ۱۳۵۷ھ مطبوعہ نجف اشرف عراق۔

ناظرین کرام غور فرمادیں۔ الاستیعاب والی مذکورہ روایت نے یہ بتلایا کہ حضرت عمرؓ نے ان ہر چھ اشخاص (جو امکانی جانشین حضرت عمرؓ کے ہو سکتے تھے) کی فطری خامیاں اور نفسیاتی کمزوریاں ایک ایک کر کے بیان کر دیں اور ان میں سے کسی کو خلافت کا اہل نہ قرار دیا۔ اور مرض الموت کے واقعہ نے (جو بخاری شریف و دیگر حدیث و تاریخ کی کتابوں میں متفق علیہ طور پر درج ہے) واضح کیا کہ حضرت عمرؓ نے انہی چھ حضرات مذکور پر اعتماد کرتے ہوئے خلافت اسلامی کا تمام بوجھ ان پر رکھا۔ دوسرے لفظوں میں امت اسلامیہ کی تمام باگ ڈوران کے ہاتھ میں دے دی تاکہ ان میں سے جس کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ وہ تمام اہل اسلام کے لیے حاکم و والی متصور ہوگا۔

(۱) — ادھر ناقابل اعتمادی کے اوصاف بیان کرنا، ادھر انہی حضرات پر انتہائی اعتماد کرنا یہ چیز "فاروقی بصیرت کے خلاف اور فاروقی تدبیر کے بالکل برعکس ہے۔

(۲) — نیز لطف کی بات یہ ہے کہ جس ذات (یعنی عثمانؓ) کے متعلق مذکورہ روایت کی بنا پر، اس قدر خطرات کا اظہار بطور پیش گوئی و پیش بینی کے ہو چکا تھا۔ مجوزہ مجلس شوریٰ نے اسی کو ہی خلیفہ منتخب کیا اور عثمانؓ کے حق میں

° مجوزہ خدشات " ان لوگوں کو معلوم ہی نہ ہو سکے۔ یا پھر (معاذ اللہ) یہ لوگ خطا کر گئے (انا للہ وانا الیہ راجعون)۔

خلاصہ یہ ہے کہ الاستیعاب کی مذکورہ روایت تسلیم کر لینے سے کئی خرابیاں پیش آتی ہیں۔ مثلاً :

(۱) — حضرت فاروقؓ کے کلام اور ان کے عملی کارنامہ میں بالکل تضاد اور تخالف پایا جاتا ہے یعنی جس شخصیت (حضرت عثمانؓ) کے متعلق اس قدر خدشات کا اظہار فرمایا۔ پھر اسی کو انتخاب میں زیر تجویز رکھ دیا۔ صحیح فکر اس طریقہ کو درست نہیں تسلیم کر سکتی۔

(۲) — مذکورہ چھ آدمیوں کی مجلس نے جو اسلام کے سب سے سربر آوردہ اشخاص پر مشتمل تھی، جو انتخابی کارنامہ انجام دیا وہ غلط تھا، صحیح نہیں تھا۔

(۳) — تیسری خرابی یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ کی (مبعہ دیگر حضرات کے) پوزیشن خراب کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت علیؓ کے وقار کو داغدار کر دیا یعنی ان کے حق میں کثیر الدعایہ (بہت مسخرہ ہونا) تجویز کر دیا جو ایک خفت آمیز بات ہے۔ ان کے ثنایان شان نہیں۔

— بہر کیف اس قسم کی خرابیوں کی بجائے یہ فیصلہ سہل ہے کہ یوں کہا جائے کہ روایت ہذا سے پیدا کردہ خدشات و خطرات سب مفروضے تھے۔ ان میں کوئی صداقت نہیں۔

— یہ روایت بے سرو پا وبے اصل ہے۔ جس پر طعن کی بنیاد قائم

کی گئی ہے۔

— دوسرے لفظوں میں بناء الفاسد علی الفاسد ہے جس کو معترض احباب

نے عثمانی دور کی قباحت و فضیحت کو نشر کرنے کے لیے عوام میں پھیلا دیا، اور

ثواب داریں حاصل کیا۔ (منہ)

(۳)

اس موقعہ پر تیسرا طعن یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ ولید بن عقبہ شراب خور تھے۔ ان پر گواہوں نے شراب خوری کی شہادت دی۔ یہ الزام ثابت ہو گیا۔ لہذا حضرت عثمان نے ولید پر حد لگوائی اور ان کو معزول کر دیا جیسا کہ قبل ازیں کتاب "حماہ بینہم" حصہ سوم عثمانی کے باب چہارم میں گزر چکا ہے۔

## دفع الزام

آئی بات درست ہے کہ ولید کے خلاف شراب خوری کی لوگوں نے شہادت دی۔ اس کے بعد ان پر حد لگائی گئی۔

روایات میں بھی یہی کچھ مذکور ہے اور اس واقعہ کے پس منظر کے متعلق محدثین عموماً خاموش ہیں۔

محدثین حضرات نے اس واقعہ کے پس منظر کے متعلق کچھ کلام نہیں کیا۔ واقعہ کی صحت و سقم کی طرف توجہ ہی مبذول نہیں کی۔ صرف شراب نوشی پر شہادت پاتے جانے سے حد لگوانے کا واقعہ نقل کر دیا ہے۔

— شہادت فراہم کرنے والے کیسے لوگ تھے؟ کون افراد تھے؟

شہادت انہذا کسی سازش کا نتیجہ تھی؟ یا بناوٹ تھی؟

اس چیز کی بابت سابق محدثین عموماً خاموش نظر آتے ہیں۔

البتہ بعض قدیم مؤرخین مثلاً طبری وغیرہ نے یہ کرپید کی ہے اور پھر متاخرین

محدثین نے بھی اس معاملہ پر ناقدانہ نگاہ کی ہے، جیسا کہ آئندہ سطور میں ہم اس پر

حوالہ جات پیش کر رہے ہیں۔

یہاں سے عیاں ہوتا ہے اہل سازش کی طرف سے ولید کے خلاف بناوٹ تھی۔ ولید کو مطعون کر کے ان کے منصب سے الگ کروانا مطمح نظر تھا اور بس!

یہ چیز کہ ولید نے شراب خوری کی ہو، یہ بات درست نہیں۔ اس واقعہ کا پس منظر مورخین نے لکھا ہے اور اصل واقعہ سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ اس کو معلوم کرنے کے بعد مسئلہ نڈا صاف ہو سکے گا اور الزام دُور ہو جائے گا۔

تاریخ ابن جریر طبری میں مذکور ہے :-

”... اجتمع نفر من اهل الكوفة فعملوا في عزل الوليد فان تدب ابو زينب بن عوف (الازدي) وابو مورع بن فلان الاسدي للشهارة عليه فغشوا الوليد واكبوا عليه فيناهم معه يوم في البيت... فنام الوليد و تفرق القوم عنه و ثبت ابو زينب وابو مورع فتناول احدهما خاتمه ثم خرجا... وقد اراد داهية فطلبها فلم يقدر عليهما وكان وجههما الى المدينة فقدموا على عثمان ومعهما نفر من يعرف عثمان ممن قد عزل الوليد عن الاعمال فقالوا له فقال من يشهد؟ فقالوا ابو زينب وابو مورع... فقال كيف رأيتما؟ قالنا من غاشيته فدخلنا عليه وهو يقي الخمر فقال ما يقي الخمر الا شاربها فبعث اليه فلما دخل على عثمان... فحلف له الوليد واخبره خبرهم فقال نقيم الحدود ويبيئوا شاهد

الزور بالنار فاصبر يا اخي... الخ

(تاریخ طبری، ص ۶۱، ۶۲، جلد ۵ تحت ۳۰)

یعنی اہل کوفہ کی ایک جماعت جمع ہوئی۔ ولید کے معزول کرنے کے لیے عملی پروگرام بنایا۔ ایک شخص ابو زینب بن عوف ازدی قبیلہ سے۔ دوسرا ابو مورع بن فلان اسدی قبیلہ سے ان دونوں نے ولید کے خلاف گواہی دینے کا کام اپنے ذمہ لیا۔

ایک روز ولید بن عقبہ کے پاس گئے مجلس میں قریب تر ہو کر شریک ہوتے۔۔۔۔۔ اتفاق سے ولید سو گئے اور دوسرے لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ ابو زینب اور ابو مورع بیٹھے رہے (موقع پاکر) ان میں سے ایک نے ولید کی انگوٹھی (مہروالی) پکڑ لی اور وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔۔۔۔۔ ایک سنگین معاملہ ان کے ارادہ میں تھا۔۔۔۔۔ (ولید بیدار ہوتے) انہوں نے ان دونوں کو طلب کر لیا۔ یہ دونوں نہ ملے۔ دونوں نے (کوفہ سے نکل کر) مدینہ شریف کا رخ کیا حضرت عثمانؓ کی خدمت میں پہنچے۔ ابو زینب و ابو مورع کے ساتھ دیگر لوگ بھی تھے۔۔۔۔۔ رجن کو ولید نے اپنے مناصب سے الگ کر دیا تھا، ان سب نے مل کر ولید کی شکایت پیش کی حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ تم میں سے کون اس واقعہ کی گواہی دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو زینب اور ابو مورع گواہی دیتے ہیں۔۔۔۔۔ حضرت عثمانؓ نے ان سے دریافت فرمایا کہ ولید کو تم نے کس حالت میں دیکھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ولید کے پاس آنے جانے والے لوگ ہیں۔ ہم ولید کے پاس گئے تو وہ شراب کی قے کرنے لگے حضرت عثمانؓ

نے فرمایا کہ شراب کی تفتے وہی کرتا ہے جس نے شراب پی ہو۔  
 پھر حضرت عثمانؓ نے ولید کی طرف آدمی ارسال کر کے اسے مدینہ  
 منورہ میں طلب کیا۔ جب ولید حضرت عثمانؓ کے پاس آئے ...  
 تو ولید نے اس کام (یعنی شراب خوری نہ کرنے) کا حلف اٹھایا،  
 اور اپنا معاملہ بیان کیا۔

(شہادت کی بنا پر، حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ ہم حد قائم  
 کرتے ہیں (یعنی شراب خوری کی سزا دیتے ہیں) گواہ اگر جھوٹے  
 ہیں تو وہ دوزخ کی آگ کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اے برادر،  
 صبر کیجیے۔ (پھر حد لگوائی، وغیرہ)

(تاریخ طبری، ص ۶۱-۶۲، ج ۵)

— طبری کی اس روایت کے ذریعہ واضح ہو گیا کہ:  
 — کوفہ کے شراب طبع لوگوں نے ایک مستقل سکیم تیار کی تھی تاکہ ولید کو مغزول  
 کرایا جائے۔

— اس منصوبہ کے تحت انہوں نے جعلی شہادت دی جس پر حد لگوائی گئی۔ درحقیقت  
 ولید نے شراب خوری نہیں کی تھی۔

— بظاہر شہادت ہذا قانون شرعی کے اعتبار سے مکمل تھی۔ اس لیے حضرت عثمانؓ  
 نے اس کو رد نہ کیا۔ بلکہ اس پر عمل درآمد کیا۔

— اور قرینہ موجود ہے کہ حضرت عثمانؓ اس واقعہ کو جعلی خیال کرتے تھے، اس  
 وجہ سے کہ فرمایا "جھوٹے لوگ دوزخ کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔"

یہ تمام کوفہ کے فساد و عنادی طبع لوگوں کی داستان ہے۔ جس میں انہوں  
 نے ایک اچھے باکردار شریف انسان کو بلوٹ کر دیا۔

دیکر علماء کے اقوال | اب ہم ذیل میں چند دیگر علماء کے اقوال نقل کرتے ہیں جنہوں نے اس واقعہ کو بعض کوفیوں کی طرف سے ایک

متعصبانہ کارروائی ذکر کی ہے اور شہادت کو ناحق گواہی قرار دیا ہے۔

(۱) — "الاصابة" میں منقول ہے کہ ویقال ان بعض اهل الكوفة

تعصبا عليه فشهدوا عليه بغير الحق "

(الاصابة، ج ۳، ص ۶۰۱ تحت الوليد بن عقبہ)

(۲) — قيل في الوليد بخصوصه ان بعض اهل الكوفة تعصبا

عليه فشهدوا عليه بغير الحق "

(فتح المغيب للسخاوی شرح الفیئۃ الحدیث، ج ۳، ص ۳۸)

تحت معرفة الصحابة - طبع مدینہ طیبہ)

یعنی حافظ ابن حجر عسقلانی اور شمس الدین السخاوی فرماتے ہیں کہ بعض کوفی لوگوں نے ولید کے ساتھ تعصب کیا اور ناحق شہادت ان کے خلاف دے دی۔

— اب روزِ روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ ولید کے خلاف یہ سب کچھ سازش تھی جس کی بنا پر کوفیوں نے معزولی کرائی تھی۔

— معترض حضرات ان قصہ ہائے پارینہ کو دوبارہ تازہ کر کے ولید کے

خلاف نفرت پھیلانے کی سعی فرما رہے ہیں۔ حالانکہ کبار علماء نے ولید کی ان چیزوں کے

سلسلہ میں لکھا ہے کہ "والصواب السکوت" کہ صحیح اور درست یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔

تہذیب التہذیب لابن حجر عسقلانی، ج ۱۱، ص ۱۴۲

طبع اول - دکن تحت تذکرہ ولید

اللہ تعالیٰ ان معتضبین کو ہدایت بخشے اور فرمان الہی (وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا



لِّلَّذِينَ آمَنُوا) پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرماتے۔

## سعید بن العاصؓ کے متعلقات

سعید بن العاص بنی امیہ میں سے ہیں۔ یہ ولید بن عقبہ کے بعد کوفہ پر حضرت عثمانؓ کی طرف سے والی بنائے گئے تھے۔ مخالفین ان پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ  
 "... فظہر منہ ما ادى الی ان اخرجہ اهل الکوفۃ منہا"  
 سعید بن العاص سے ایسی چیزیں صادر ہوئیں جن کی وجہ سے اہل کوفہ نے ان کو کوفہ سے نکال دیا۔

(منہاج الکرامۃ لابن مطہر الحلی الشیعی، ص ۶۶۔  
 تحت مطاعن عثمانی طبع لاہور، مع منہاج السنہ)  
 اس کے بعد سعید بن العاص کا اجمالی تذکرہ ہم قارئین کرام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جس کے پیش نظر سعید مذکور کی شخصیت و کردار، اخلاق و عادات اور اسلامی خدمات واضح ہو سکیں گی۔ اور وارد کردہ اعتراضات کے ساتھ ان کا موازنہ کیا جاسکے گا۔

علماء کرام نے لکھا ہے کہ سعید بن  
 العاص بن سعید بن العاص بن امیہ القرشی الاموی کو حضورؐ

نام و نسب اور صحابی ہونا  
 اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہے۔ اور بعض نے یہ فرمایا ہے کہ  
 انتقال نبوی کے وقت سعید کی عمر نو سال کی تھی (یعنی صغار صحابہ میں ان کا شمار تھا)

"قال ابن ابی حاتم عن ابیہ لہ صحبۃ رقت، کان لہ یوم

مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسع سنین -

(۱) — الاصابہ، ج ۲، ص ۴۵ تحت سعید بن العاص -

(۲) — تہذیب التہذیب، ص ۴۹، ج ۴ تحت

تذکرہ سعید مذکور -

زبان عرب کے بہت بڑے بلیغ اور فصیح اللسان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لب و لہجہ میں مشابہت نام رکھتے تھے۔

... ان عربیۃ القرآن اقیمت علی لسان سعید بن العاص  
لانہ کان اشبهہم لمجة برسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وسلم۔

(۱) — الاصابہ، ج ۲، ص ۴۵ تحت سعید بن العاص

(۲) — تہذیب التہذیب، ج ۴، ص ۴۹ تحت سعید

(۳) — الاستیعاب، ص ۹، جز ثانی، الاصابہ، تحت

سعید بن العاص -

سعید بن العاص کے سیرت نگار علمائے لکھا ہے کہ سعید بڑے حلیم الطبع اور باوقار تھے۔ قوم کے باسٹھا لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ نہایت عمدہ سیرت رکھنے والے تھے اور بھلائی میں بہت ہی مشہور تھے۔

”روی عن صالح بن کیسان قال کان سعید بن العاص حلیمًا

وقوراً۔

(۱) الاصابہ، ص ۴۶، ج ۲ تحت سعید -

” وكان من سادات المسلمين والاجواد المشهورين  
 . . . . . وقد كان حسن السيرة، جيد السريرة . . . . . وكان  
 كريماً جواداً صمدوحاً -

(۱) — البدایہ لابن کثیر، جلد ۸، ص ۸۷، تذکرہ سعید۔

(۲) — البدایہ لابن کثیر، ص ۸۴، جلد ۸، تحت

۱۵۷، طبع اول۔

حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ کی خلافت کے (آخری) دور  
**کارنامے** میں سعید بن العاص عراق کے علاقہ پر حضرت عمرؓ کے عاملین  
 میں سے تھے۔

اور حضرت عثمانؓ کے دورِ خلافت میں کوفہ کے حاکم بنائے گئے تو انہوں  
 نے طبرستان اور جرجان کے علاقے کو فتح کیا۔ ان کے لشکر میں حضرت حذیفہؓ جیسے  
 کبار صحابہ شامل تھے۔

آذربائیجان کے لوگوں نے نقضِ عہد کیا تو سعید نے ان پر چڑھائی کر دی  
 اور دوبارہ فتح کر لیا۔

” وكان سعيد هذا من عمال عمر رضي الله عنه على

السواد “

(البدایہ، ص ۸۴، ج ۸ تحت تذکرہ سعید ۱۵۷ھ)

” وولى الكوفة وغزا طبرستان وفتحها وغزا جرجان

وكان في عسكره حذيفة وغيره من كبار الصحابة “

(الاصابه، ص ۴۵، ج ۲، تحت سعید)

” ونقض العمد اهل آذربايجان فغزا هم ففتحها “

(البدایہ، ص ۸۴، جلد ۸ - تحت ۵۸)

(۱) سابقاً اس چیز کا ذکر ہو چکا ہے کہ عہد عثمانی میں جب سعید

بن العاص مدینہ پہنچے تو اکابر مہاجرین اور انصار کی طرف کئی قسم کے عطیات اور پوشاکیں روانہ کیں۔ اس کے ضمن میں حضرت علیؓ کی طرف ہدایا و عطایا ارسال کیے اور آپ نے ان چیزوں کو قبول فرمایا۔

..... و قدّم سعید بن العاص لمدينة و اقدماً علی

عثمان فبعث الی وجوه المهاجرین و الانصار بصلات و کسّی و بعث الی علی ابن ابی طالب ایضاً فقبل ما بعث الیہ۔

(طبقات بن سعد، ج ۵، ص ۲۱ - تحت

سعید بن العاص، طبع لیدن)

(۲) — سعید بن العاصؓ نے امّ کلثوم بنت علی المرتضیٰ سے خطبہ منگنی،

کیا اور ان کی طرف ایک لاکھ درہم ارسال کیے۔ اس معاملے میں حضرت امام حسنؓ اور حضرت امّ کلثومؓ رضامند تھے لیکن حضرت امام حسینؓ کی رائے اس کے خلاف تھی۔ مقررہ وقت پر دونوں فریق مجلس میں حاضر ہوئے تو سعید بن العاص نے کہا کہ ابو عبد اللہ کہاں ہیں؟ حضرت حسنؓ نے فرمایا کہ اس معاملہ میں میں کافی ہوں تو سعید کہنے لگے کیا حضرت امام حسینؓ اس کو ناپسند کرتے ہیں تو حضرت امام حسنؓ نے جواب دیا۔ ہاں۔ سعید بولے "میں ایسے معاملے میں داخل نہیں ہوتا جس کو حضرت امام حسینؓ ناپسند کرتے ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت سعید مجلس سے واپس چلے گئے اور جو مال (یعنی ایک لاکھ درہم) دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لیا۔

..... خطب سعید بن العاص ام کلثوم بنت علی بعد  
 عمرو بعت لها بمائة الف فدخل عليها اخرها الحسين  
 وقال لا تزوجيه فقال الحسن انا ازوجه واتعد و  
 لذا لك محضروا فقال سعید واین ابو عبد الله؟ فقال الحسن  
 ساكفيك قال فلعلّ ابا عبد الله كره هذ اقال نعم قال  
 لا ادخل في شيء يكرهه ورجع ولحق ياخذ من المال شيئاً-

سیر اعلام النبلاء للذہبی، ص ۲۹۵- ج ۳-  
 تحت سعید المذكور)

..... ان سعیداً خطب ام کلثوم بنت علی من فاطمة  
 التي كانت تحت عمر بن الخطاب فاجابت الى ذلك..  
 .... انما كره ذلك الحسين و اجاب الحسن :-

(البدایہ، ص ۸۶، ج ۸- تحت ذکر سعید ۵۸ھ)

ان ہر دو حوالہ جات سے مندرجہ ذیل چیزیں ثابت ہوتی ہیں :-

- (۱) — حضرت امام حسینؑ اگرچہ اس نکاح کے خلاف تھے، تاہم سیدنا حضرت  
 حسنؑ اور سعیدہ ام کلثوم بنت علیؑ اس خطبہ پر راضی تھے اور نکاح کر  
 دینے کے لیے آمادہ تھے۔ لیکن بعض وجوہ کی بنا پر یہ رشتہ نہ ہو سکا۔
- (۲) — حضرت سعید بن العاص کا ایک لاکھ درہم دینا اور پھر واپس نہ لینا  
 ان کے جو دو کرم کی واضح علامت ہے۔
- (۳) — حضرت امام حسنؑ اور حضرت ام کلثوم کا ایک لاکھ درہم قبول کرنا  
 حضرت سعید بن العاص کے ساتھ بہترین رفاقت کا بین ثبوت ہے۔

## آخری گزارش

مندرجاتِ بالا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سعید بن العاصؓ بڑے سخی، ہمت اور صاحبِ اخلاق آدمی تھے، اسلامی فتوحات میں ان کے عظیم کارنامے ہیں۔ بنی ہاشم کے ساتھ ان کے روابط بہت عمدہ تھے۔

ان اوصاف کی حامل شخصیت کے متعلق مخالفین نے جو الزامات عائد کیے ہیں وہ سراسر بے اصل اور بے سرو پا ہیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وقتی تقاضوں کے پیش نظر جو ان کی معزولی فرمائی تھی اس کے اسباب دوسرے تھے۔ انہوں نے کوئی شہریوں کے پروپیگنڈہ کو فرو کرنے کے لیے ایسا کر دیا تھا۔

## عبداللہ بن عامر کے متعلقات

ان کے متعلق منہاج الکرامہ لابن مطہر الحلی الشیبی نے لکھا ہے کہ :  
 ”ولی عبد اللہ بن عامر العراق ففعل من المناکر  
 ما فعل۔“

(منہاج الکرامہ، ص ۶۷، تحت مطاعن عثمانی،  
 ”یعنی حضرت عثمانؓ نے عبداللہ بن عامر کو (جو آپ کے ماموں اور  
 بھائی تھے) عراق (بصرہ) کا والی بنایا، ان سے وہاں بُرے کام صادر  
 ہوئے۔“

— اس کے بعد عبداللہ بن عامر کا مختصر سا تذکرہ ہم پیش کرتے ہیں جس میں  
 سے ان کی شخصیت، اخلاق و کردار اور ان کی زندگی کے نمایاں کارنامے آشکارا  
 ہو سکیں گے اور معتزین کے اعتراضات کی حقیقت سامنے آجائے گی۔

ان کا اسم گرامی عبداللہ بن عامر بن کریز ہے۔ اور ماں کا نام دجاہ  
**نام و نسب** بنت اسماء بن صلت ہے۔

عبداللہ بن عامر حضرت عثمانؓ کے ماموں (عامر) کے بیٹے ہیں۔ حضرت  
 عثمانؓ، حضرت عبداللہ بن عامر کی پھوپھی (اروی بنت کریز) کے بیٹے ہیں۔ عامر  
 اور اروی بھائی بہن ہیں۔ ان کی والدہ ام حکیم بنت عبدالمطلب بن ہاشم  
 ہاشمی خاندان سے ہیں۔

(۱) — نسب قریش، ص ۱۴۷، تحت اولاد عامر بن کریز۔  
 ۱۴۹

(۲) — طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۳۱ تحت عبد اللہ بن کریر۔

(۳) — اسد الغابہ، جلد ۳، ص ۱۹۱ تحت ذکر عبد اللہ بن عامر۔

صغیر سنی میں عبد اللہ بن عامر کو کعبہ  
 عمرۃ القضا کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ

## ایام طفولیت اور حصول برکات

علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کے دہن میں ڈالا اور انہوں نے لعاب مبارک کو چوس لیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عبد اللہ بن عامر کے بارے میں ارشاد فرمایا ”یہ ہمارا بیٹا ہے۔ اور ہمارے ساتھ زیادہ مشابہ ہے اور یہ مستقی (سیراب شدہ) ہے“ اس بنا پر جہاں سے وہ زمین کریدتے وہاں سے پانی کا چشمہ ظاہر ہو جاتا تھا۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دیا تھا۔

”أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَغِيرٌ فَقَالَ هَذَا  
 يَشْبِهُنَا وَجَعَلَ يَتْفَلُّ عَلَيْهِ وَيَعُوذُ بِهِ وَجَعَلَ عَبْدُ اللَّهِ يَتْلَعُ  
 رَيْقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ الْمُسْتَقِيُّ فَكَانَ لَا  
 يَبَالِغُ أَرْضًا إِلَّا ظَهَرَ لَهُ الْمَاءُ . . . . . فَكَانَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔“

(۱) — الاستيعاب، ص ۳۵۱، جلد ۲، مع اصابع، تحت

عبد اللہ بن عامر

(۲) — اسد الغابہ، ص ۱۹۱، جلد ۳، تحت عبد اللہ مذکور

(۳) — الاصابہ، ص ۱۶۰، جلد ۳، تحت عبد اللہ مذکور

”وفي روايته الطبقات . . . . . قال هذا ابننا وهو اشبهكم

بنا وهو مستقي فلم يزل عبد الله شريقا . . الخ



(۴) طبقات ابن سعد، ص ۳۱، ج ۵، تحت

تذکرہ عبداللہ بن عامر بن کریر۔ طبع اول لندن۔

عبداللہ بن عامر نہایت سخی مرد اور بہادر

تھے۔ اپنی قوم کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے

**سخاوت، شجاعت، شفقت**

تھے۔ اور قرابت داروں میں محبوب و شفیق تھے۔

» وكان ابن عامر رجلاً سخياً شجاعاً وصولاً لقومه ولقرابته

محبباً فيهم رحيماً «

(۱) — طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۳۲۔ تحت

عبداللہ بن عامر۔

(۲) — الاستيعاب لابن عبد البر، ج ۲، ص ۳۵۲۔

تحت عبداللہ مذکور۔

(۳) — کتاب نسب قریش۔ ص ۱۴۹۔

جب عبداللہ بن عامر کو حضرت عثمان کی طرف سے بصرہ

پر حاکم بنایا گیا تھا تو ان کی عمر اس وقت قریباً پچیس سال

**جنگی کارنامے**

تھی۔ آپ نے حضرت عثمان سے غزوات اور جہاد کے لیے اجازت طلب کی۔

اجازت ملنے پر آپ نے ۳ھ میں خراسان اور فارس کے اطراف فتح کیے سجستان

کرمان، زابلستان وغیرہ علاقہ جات ان کی مساعی سے مفتوح ہوئے اور اسلام کا

جھنڈا سر بلند ہوا۔

وولاء بلاد فارس وكان عمراً خمساً وعشرين (۲۵)

سنة فافتتح خراسان كلها واطراف فارس وسجستان و

کرمان وزابلستان... الخ

(۱) — اسد الغابہ، ج ۳، ص ۱۹۱ تحت عبداللہ بن عامر

(۲) — طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۳۳ تحت ابن عامر

”... ہوا فتقم خراسان وقتل کسریٰ فی ولایتہ“

(۳) — الاستیعاب، ج ۲، ص ۳۵۲ معہ الاصابہ

تحت عبداللہ بن عامر۔

کتاب البلدان للیعقوبی الشیعی کے بیان کے مطابق عبداللہ بن

عامر بن کرمز کی نگرانی میں مندرجہ ذیل علاقے بھی مفتوح ہوئے۔ مثلاً:

قومس، نسا، ابرشہر، جام، طوس، اسفرائین، سرخس، مرو، بوشنج،  
زرنج، مرورد، وغیرہ

کتاب البلدان لابن احمد بن واضح الیعقوبی الشیعی، ص ۲۵ تا ۴۵۔

مطبوعۃ الحیدریہ النجف (عراق)، الطبعة الثالثة، سن طباعت

(۱۳۷۷ھ)  
۱۹۵۷

— اور خلیفہ بن خیاط نے اپنی تاریخ جلد اول میں عبداللہ بن عامر کی نگرانی میں

مفتوح ہونے والے مزید مقامات بھی ذکر کیے ہیں۔ مثلاً

الکاریاں، الفیشجان (دار بجد)، زالق، ناشب، باشرورز، ہرآہ، شہق

تخارستان، الجوزجان، الفاریاب، الطاقان، بلخ، خوارزم، باذغیس

اصبہان، حلوان۔

(۱) — تاریخ خلیفہ بن خیاط، جز اول، ص ۱۴۰-۱۴۱۔

تحت سن ثلاثین۔ طبع اول عراق۔

(۲) — تاریخ خلیفہ بن خیاط، ج ۱، ص ۱۵۸۔

تحت القضاة عثمانی۔

عبداللہ بن عامر نے مسلمانوں کی نفع رسانی کے لیے کئی مقامات  
امورِ رفاہِ عامہ میں حوض بنوائے، باغات لگوائے، نہریں کھدوائیں اور  
 ان کے علاوہ متعدد رفاہِ عامہ کے کام سرانجام دیئے۔ خصوصاً مقامِ عرفات میں  
 پانی کے حوضوں کا انتظام کرایا۔

(۱) — وهو اول من اتخذ الحيض بعرفة و اجري اليها العين و  
 سقى الناس الماء فذاك جار الى اليوم۔

- ۱۔ طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۳۴۔ تحت عبداللہ بن عامر
- ۲۔ اسد الغابہ، ج ۳، ص ۱۹۱۔ تحت عبداللہ بن عامر بن کریز۔
- ۳۔ البدایہ لابن کثیر، جلد ۸، ص ۸۸۔ تحت تذکرہ عبداللہ بن عامر۔

(۲) — وهو الذي عمل السقايه بعرفه ... وله النجاج

(موضع) الذي يقال له نجاج ابن عامر وله المحفة وله بستان  
 ابن عامر بنخلة على ليلة من مكة وله آثار في الارض كثيرة۔

کتاب نسب قریش، الجزء الخامس، ص ۳۸ طبع مصری

ابن عامر اپنی ولایت کے دوران ایک  
 دفعہ حضرت عثمانؓ کے پاس بہت سا

اہلِ مدینہ کے لیے خدمات

مال لے کر مدینہ پہنچے تو حضرت عثمانؓ نے انہیں فرمایا ”اپنی قوم اور قرابت داروں کے  
 ساتھ صلہ رحمی کیجیے اور ان کے ہاں اموال پہنچائیے“ پس ابن عامر نے قریش اور  
 انصار میں بہت سے اموال اور پوشاکیں تقسیم کیں اور کثیر چیزیں اہلِ مدینہ کو  
 پہنچائیں تو اہلِ مدینہ نے تعریف کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔

”وقدم على عثمان بالمدينة فقال له عثمان صل قرابتك

وقومك ففرق في قریش والانصار شيئا عظيما من الاموال

واللسوات فاثنوا علیہ۔

(۱) — اسد الغابہ، جلد ۳، ص ۱۹۱ تحت عبداللہ بن عامرؓ

(۲) — الاصابہ، ج ۳، ص ۶۱ تحت عبداللہ بن عامر

ابن تیمیہؒ نے اپنی تصنیف منہاج السنۃ  
ابن عامر ابن تیمیہؒ کی نظروں میں | میں عبداللہ بن عامر کی خوبیاں اور

ان کا لوگوں کے ہاں مقبول عام ہونا بیان کیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔

”ان له من الحسنات والمحبۃ فی قلوب الناس ما لا ینکر“

(منہاج السنۃ، ص ۱۸۹-۱۹۰-ج ۳)

”یعنی ابن عامر کے لیے بے شمار خوبیاں ہیں۔ اور عوام کے قلوب میں

ان کی خوب محبت تھی جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔“

مندرجات بالا کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عبداللہ بن عامر

ایک عظیم شخصیت اور باکردار انسان تھے۔ جنہوں نے اسلام اور اہل اسلام کی  
بے شمار خدمات سرانجام دیں۔ ان اوصاف کے پیش نظر مخالفین کے تمام اعتراضات

بے جا اور بے محل نظر آتے ہیں۔ یہ اعتراضات محض گروہی تعصب کی بنا پر وارد  
کر دیتے گئے ہیں تاکہ ان کے حق میں لوگوں کے قلوب میں تنفر اور بغض قائم رہے۔ اس  
”نیک مقصد“ کے بغیر اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔

جزاہم اللہ تعالیٰ علی حسب مرامہم۔

## سیدنا امیر معاویہؓ کے متعلقات

حضرت امیر معاویہؓ کے ساتھ مقرض دوستوں کو خصوصی عداوت ہے۔ ان کے دورِ ولایت اور دورِ خلافت کو نہایت مکروہ تعبیرات کے ساتھ ذکر کیا کرتے ہیں۔ مخالفین کے نزدیک یہ ایک سیاہ دور ہے جس میں اسلام کے ایک دستور کا خاتمہ کر دیا گیا۔ آئینِ اسلامی کو ختم کر کے جبر و استبداد کے طریقے رائج کر دیئے گئے۔ دینی طرز و طریق کے بجائے آمرانہ دستور کو فروغ دیا گیا۔

ابن المطہر الحلی الشیبی نے اپنی تصنیف ”منہاج الکرامہ فی اثبات الامامہ“ میں امیر معاویہؓ کے حق میں مختصر سا جملہ لکھا ہے جس میں ان کے متعلقہ سب مطاعن کو سمودیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ:

”وولی معاویۃ الشام فاحدث من الفتن ما احدث“

”یعنی امیر معاویہؓ شام کے والی بنائے گئے، پس انہوں نے بے شمار فتنے پیدا کر ڈالے“

(منہاج الکرامہ فی اثبات الامامہ، ص ۶۷۔ تحت مطاعن عثمانی

طبع لاہور در آخر منہاج السنۃ لابن تیمیہ)

— قبل ازیں بحث اول (تحت عنوان الشام) میں حضرت امیر معاویہؓ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمات عہدِ نبوت میں، عہدِ صدیقی میں، دورِ فاروقی میں مختصراً درج کی گئی تھیں۔ اب ہم قارئین کرام کی خدمت میں امیر معاویہؓ کے متعلق روایات اور اسلامی تاریخ سے ان کی قابلیت اور صلاحیت دینی و

مٹی کا زلمے پیش کرینگے جن کی وجہ سے وارد کردہ اعتراضات کا جواب ہوگا اور اس دور کے متعلقہ شکوک و شبہات کا خاتمہ ہوگا۔

اس کی صورت یہ ہوگی کہ پہلے امیر معاویہؓ کے مقام اور کردار کو پیش کیا ہے۔ اس کے بعد خاندان بنی ہاشم کے ساتھ ان کے حسن روابط اور حسن سلوک کے واقعات کو درج کیا ہے۔ تمام بحث کے آخر میں سب و شتم وغیرہ کے اعتراض کو زائل کیا گیا ہے اور ان اباحت کو عہد عثمانی کے ساتھ مخصوص نہ تصور کریں۔ یہ چیزیں ان کی شخصیت کے اعتبار سے ذکر کی جاتی ہیں۔

سیدنا امیر معاویہؓ کا پدری نسب اس طرح  
**نام و نسب اور قبول اسلام**  
 ہے۔ معاویہ بن ابوسفیان بن حرب بن

امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔

دکتاب نسب قریش، ص ۱۲۴ تحت ولد ابی سفیان  
 اور مادری سلسلہ نسب یہ ہے :- ان کی والدہ کا نام ہند بنت عتبہ ہے۔ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔

(۱) — نسب قریش، ص ۱۲۵ تحت ولد ابی سفیان (الصخر)

(۲) — الاصابہ، ص ۴۰۹، ج ۴۔ تحت ہند بن عتبہ۔

نسب ہذا سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویہؓ اور حضور علیہ السلام کا پانچواں دادا ایک ہے جس کا نام عبد مناف ہے۔

آپ کی عمر کا قریباً اٹھارواں سال تھا کہ عمرۃ القضاء کے موقع پر آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام قبول کیا۔ آپ نے اپنے اسلام کو فتح مکہ تک اپنے والدین سے چھپاتے رکھا۔ اور ان کے والدین (یعنی ابوسفیان والد اور ہند بنت عتبہ والدہ) فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔

— وكان معاوية يقول انه اسلم عام القضيده وانه لقي  
رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلماً وكتما سلامه من  
ابيه وامه... الخ

(۱) — اسد الغابہ جلد رابع، ص ۳۸۵ تحت تذکرہ معاویہ

(۲) — البدایہ لابن کثیر، جلد ۸، ص ۱۱۷ تحت معاویہ

بن ابی سفیان -

(۳) — تاریخ بغداد جلد اول، ص ۲۰۷ تحت تذکرہ معاویہ

بن ابی سفیان -

(۴) — نسب قریش، ص ۱۲۴ تحت اولاد ابی سفیان ابن حرب

(۵) کتاب دول الاسلام، جزء اول للذہبی تحت سنۃ

ستین، ص ۲۸، ج ۱ (طبع حیدرآباد دکن)

(۶) تہذیب الاسماء واللغات للنووی، ج ۲، ص ۱۰۲ -

تحت معاویہ بن ابی سفیان -

(۷) تاریخ الاسلام للذہبی - ج ۲، ص ۳۱۸ تحت ترجمہ معاویہ

ناظرین کرام مطلع رہیں کہ عام مؤرخین اور اہل تراجم امیر معاویہ کے اسلام کے  
متعلق یہی ذکر کیا کرتے ہیں کہ وہ فتح مکہ (آٹھ ہجری) کے موقع پر اسلام لائے لیکن  
ہم نے جو قول ذکر کیا ہے وہ حضرت امیر معاویہ کا اپنا بیان ہے۔ اور قدیم مؤرخین  
(صاحب نسب قریش، صاحب تاریخ بغداد وغیرہ) نے اس کو باسند نقل کیا ہے  
لہذا دوسرے لوگوں کے اقوال کے مقابلہ میں امیر معاویہ کے اپنے قول کو ترجیح دی  
جاتے گی۔

## خاندان امیر معاویہؓ اور نبوہاشتم کے نسبی روابط

ایک خاندان کا دوسرے خاندان کے ساتھ دائمی تعلق قائم کرنے کے لیے نسبی تعلقات ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان تعلقات کی بنا پر ایک قبیلہ دوسرے کے قریب تر ہو جاتا ہے، دونوں قبیلوں کے درمیان گہرے اور دائمی روابط مضبوط ہو جاتے ہیں اور ان کے درمیان شفقت و محبت ہمدردی و خیر خواہی جیسے جذبات پائے جاتے ہیں۔

اب ہم ناظرین کرام کی خدمت میں حضرت امیر معاویہؓ کے خاندان اور قبیلہ بنی ہاشم کی چند ایک رشتہ داریاں ذکر کرتے ہیں تاکہ ان دونوں قبائل کا ایک دوسرے کے قریب ہونا لوگوں پر واضح ہو سکے۔

**رشتہ اول** حضرت امیر معاویہؓ کی بہن ام حبیبہ بنت ابی سفیان نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں اس لیے انہیں اُمّ المؤمنین ہونے کا اور حضرت امیر معاویہؓ بن ابی سفیان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برادر نسبتی ہونے کا شرف حاصل ہے اور اُمّ حبیبہ کا نام رملہ ہے۔

(۱) — نسب قریش، ص ۱۲۳-۱۲۴۔ تحت لدابی سفیان بن حنظلہ

(۲) — طبقات بن سعد، ص ۶۸-۶۹-ج ۸۔ تحت ام حبیبہ

(رملہ بنت ابی سفیان)، طبع لیدن یورپ۔

**دوم** حضرت امیر معاویہؓ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہیں۔ (یعنی جس کو ساندو کہتے ہیں)۔ امّ المؤمنین ام سلمہؓ کی بہن قرینہ الصغریٰ امیر معاویہؓ کے نکاح میں تھیں اور ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔

... . . . . . وسالفہ من قبل ام سلمة معاویة بن ابی سفیان



بن حرب بن امیة كانت عندة قریة الصغری بنت امیة  
بن مغیره اخت ام سلمة لابها الحر تلده -

دکتاب المحبر، ص ۱۰۲ - طبع حیدرآباد دکن،

حضرت امیر معاویہ کی بہن ہند بنت ابی سفیان بن حرب حضرت علیؓ کے  
سوم چچا زاد بھائیوں کی اولاد میں سے حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب  
بن ہاشم کے نکاح میں تھی اور اس سے اولاد بھی ہوئی - ایک بیٹے کا نام محمد تھا -

”ہند بنت ابی سفیان بن حرب بن امیة الامویة اخت

معاویة كانت زوج الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب

بن ہاشم فولدت له ابنه محمداً -

(۱) — الاصابہ، ص ۵۸، ۵۹ - ج ۳ تحت عبداللہ بن

حارث بن نوفل - الخ

(۲) — الاصابہ، ص ۴۰۹، ج ۴ - تحت ہند بنت ابی

سفیان بن حرب -

(۳) — تہذیب التہذیب، ص ۱۸۱، ج ۵ - تحت عبداللہ

بن الحارث -

(۴) — طبقات ابن سعد، ص ۱۵، ج ۵، تحت عبداللہ اللذکر

طبع لیدن -

حضرت سیدنا حسینؓ کے لڑکے علیؓ (شہید کربلا) کی ماں لیلیٰ بنت مرہ بن  
چہارم مسعود ثقفی ہیں اور لیلیٰ کی ماں میمونہ بنت ابی سفیان بن حرب ہے جو  
امیر معاویہ کی بہن ہیں - دوسرے لفظوں میں حضرت حسینؓ کی ساس (خوشدامن)،  
میمونہ بنت ابی سفیان ہیں اور میمونہ علی اکبرؓ کی نانی ہیں - امیر معاویہ علی اکبرؓ کی ماں

کے سگے ماموں ہیں اور سیدنا حضرت حسینؑ کے گھرا میر معاویہؓ کی سگی بھانجی یعنی خواہر زادی ہے۔

”ولد الحسين بن علي بن ابي طالب علياً اكبـر قتل بالطـفـت مع ابيه وامـة ليلى بنت ابي مرثـة بن عروـة بن مسعود الثقـفي . . . . . و امها ميمونة بنت ابي سفيان بن حرب بن امية۔“

(۱) کتاب نسب قریش، ص ۵، تحت ولد حسین بن علی بن ابی طالب۔

(۲) تاریخ خلیفہ بن خیاط، ج ۱، ص ۲۵۵ تحت مقتل حسین و اصحابہ۔

اور شیعہ علماء نے رشتہ انڈا کو مندرجہ ذیل مقامات میں تحریر کیا۔

۱۔ مقاتل الطالبین لابن الفرج الاصبہانی الشیعی، ص ۵۴، ج ۱۔ طبع بیروت باب ذکر خیر الحسین بن علی و مقتله و من قتل معه۔

۲۔ منتہی الآمال للشیخ عباس قمی الشیعی، ص ۴۶۴۔ ج ۱ تذکرہ ازواج حسین بن علی۔

حضرت علیؑ کے چچا عباس بن عبدالمطلب کی پوتی لبابہ بنت عبید اللہ بن عباس حضرت امیر معاویہؓ کے بھتیجے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے نکاح میں تھیں۔

”وتزوجت لبابة بنت عبید اللہ بن عباس بن عبدالمطلب العباس بن علی بن ابی طالب ثم خلف علیها الولید بن عتبہ بن ابی سفیان۔“

- (۱) کتاب الحجر، ص ۴۴۱، لابی جعفر البغدادی
- (۲) کتاب نسب قریش لمصعب الزبیری، ص ۱۳۳ تحت  
ولد عتبہ بن ابی سفیان -
- (۳) حواشی عمدة الطالب فی الساب آل ابی طالب لابن  
عتبہ (شمعی)، مطبوعہ نجف، عراق تحت اولاد جعفر  
بن ابی طالب - ص ۴۳ -

**ششم** حضرت جعفر طیار کی پوتی رملہ بنت محمد نے پہلے سلیمان بن ہشام بن عبد الملک  
سے نکاح کیا اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے بھتیجے کے لڑکے  
ابو القاسم کے ساتھ نکاح کیا۔

”و تزوجت رملہ بنت محمد بن جعفر بن ابی طالب  
سلیمان بن ہشام بن عبد الملک ثم ابوالقاسم بن ولید بن  
عتبہ بن ابی سفیان -

(کتاب الحجر، ص ۴۴۹)

مندرجہ چند رشتہ داریاں ملاحظہ کرنے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ:

(۱) خاندان امیر معاویہ اور بنی ہاشم باہم قریب تر ہیں۔ اس لیے انہیں کسی صورت  
میں بھی بُرا بھلا کہنا روا نہیں۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک خاندان کو  
بُرا بھلا کہا گیا تو وہ گویا دوسرے خاندان کو بُرا بھلا کہنے کے مترادف ہوگا۔  
اور ایک رشتہ دار کو بُرا کہنے سے دوسرا قریبی ضرور متاثر ہوگا۔

(۲) دوسری یہ چیز عیاں ہو رہی ہے کہ ان خاندانوں کے درمیان قبائلی عصبت  
اور نسلی تعصب بالکل نہیں تھا۔ اسلام کے بعد عصبتیں اور دھڑے بندیاں  
ختم ہو گئی تھیں حضرت عثمانؓ کے دور میں پھر سے قبائلی تعصبات کے عود

کر آنے کا نظریہ بالکل واقعات کے برخلاف ہے اور خاص اختراعی اور جعلی ہے جس کو بڑی کوشش سے تصنیف فرمایا گیا ہے۔ اس قسم کے باہمی روابط و دیگر تعلقات اس مسئلہ کے لیے مستقل شواہد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان دلائل کو پس پشت ڈال کر پھر بھی خاندانی تعصبات کا پرچار کرتے رہنا عدل و انصاف کو ختم کر دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے اکابرین کے ساتھ حُسن عقیدت نصیب فرماتے جو آخرت میں کام آتے گی اور ان کے ساتھ ضد و عناد اور نفرت سے محفوظ فرماتے جو قیامت میں نقصان دہ ثابت ہوگی۔

## سیدنا امیر معاویہؓ کے حق میں زبانِ نبوت سے دعائیں

حضرت امیر معاویہؓ نے جو دینِ اسلام کی خدمات انجام دی ہیں اور اچھے دین کے لیے جو مساعی فرمائی ہیں، بقائے ملت کی خاطر جو کارنامے پیش کیے ہیں یہ ان دعاؤں کے اثرات ہیں جو ان کے حق میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وقتاً فوقتاً صادر ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے زبانِ نبوت کے وہ فرمودات منظور فرماتے جو ان کے لیے جاری ہوئے تھے۔ ان کی برکات کی وجہ سے امیر معاویہؓ کو دینی خدمات کی توفیق نصیب ہوئی۔

ان دعائیہ کلمات میں سے چند ایک دعائیں ذکر کی جاتی ہیں جو اکابر علماء نے پاسند ذکر کی ہیں یا باسند علماء کا حوالہ دے دیا ہے۔

(۱) ہادی اور مہدی ہونے کی دعا

عبدالرحمن بن عمیرۃ المزنی کہتے ہیں کہ میں نے سردارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ بن ابی سفیان کے حق میں ارشاد فرما رہے تھے کہ اے اللہ! معاویہؓ کو ہادی بنا اور ہدایت یافتہ بنا۔ یا اللہ!

ان کو ہدایت دے اور ان کے ذریعہ دوسروں کو ہدایت دے۔“

..... عبد الرحمن بن عمیرة المزنی يقول سمعت

النبي صلی الله علیه وسلم يقول فی معاویة بن ابی سفیان

اللهم اجعله هادياً مهدياً واهداه واهد به۔“

(۱) — التاريخ الكبير للامام البخاری، ج ۴، ص ۳۲۷ - القسم الاول، ج ۴ - تذکرہ معاویہ بن ابی سفیان طبع حیدرآباد دکن۔

(۲) — التاريخ الكبير للبخاری، ص ۲۴، ج ۳ - القسم الاول، باب عبد الرحمن۔

(۳) — طبقات ابن سعد، ج ۷، ص ۱۳۶ - قسم ثانی، تحت عبد الرحمن بن عمیرة المزنی۔

(۴) — جامع الترمذی، کتاب المناقب، ص ۵۴ - باب مناقب معاویہ بن ابی سفیان طبع قدیم اصح المطابع <sup>بکھنؤ</sup>

(۵) — تاریخ بغداد للخطیب، جلد اول، ص ۲۰۸ - تحت ترجمہ معاویہ بن ابی سفیان۔

(۶) — اسد الغابہ، ج ۴، ص ۳۸۶ - تحت معاویہ بن ابی سفیان طبع تہران

(۷) — البدایہ لابن کثیر، ج ۸، ص ۱۲۱ - بحوالہ الطبرانی والامام احمد وغیرہما تحت ترجمہ معاویہ بن ابی سفیان۔

(۸) — الفتح الربانی لترتیب مسند الامام احمد بن حنبل الشیبانی، ج ۲۲، ص ۳۵۶، باب ماجاء فی معاویة ابی سفیان۔

(۹) — امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیرہ تذکرہ حضرت معاویہ میں ایک اور روایت

باسند ذکر کی ہے۔ عمیر بن سعد کہتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ کا تذکرہ خیر و خوبی کے بغیر مت کیا کرو۔ میں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ ان کے حق میں فرماتے تھے کہ اے اللہ! انہیں ہدایت عطا فرما۔“  
 فائدہ :- جب حضرت عمر بن الخطابؓ نے عمیر بن سعد صحابی رسولؐ کو حصہ کی حکومت سے ہٹا کر حضرت امیر معاویہؓ کو وہاں متعین کیا تو اس وقت لوگ کہنے لگے کہ عمیر کو ہٹا کر امیر معاویہؓ کو والی بنا دیا۔ حضرت عمیرؓ نے اس موقع پر امیر معاویہؓ کے حق میں یہ روایت ذکر کی :-

”..... عن ابی ادریس الخولانی عن عمیر بن سعد قال لا تذکروا معاویة الا بخیر فانی سمعت رسول الله صلی الله علیہ وسلم یقول اللهم اهدہ“

(التاریخ البکیر للبخاری، ج ۱، ص ۳۲۸، القسم الاول تحت تذکرہ معاویہ بن ابی سفیان، طبع حیدرآباد دکن)

عبدالرحمن بن عمیرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے امیر معاویہؓ کے حق میں دعا فرمائی۔ اے اللہ انہیں حساب کا علم عطا فرما اور عذاب

(۳) علم کتاب و حساب کے حصول اور عذاب سے حفاظت کی دعا

سے بچالے۔“

”... عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم علم معاویة الحساب و قد العذاب“

(۱) ————— التاریخ البکیر، ج ۲، ص ۳۲۷۔ القسم الاول تحت معاویة بن ابی سفیان۔

(۲) — مجمع الزوائد لنور الدین لہستانی، ج ۹، ص ۳۵۶۔

تذکرہ باب ماجاء فی معاویۃ بن ابی سفیانؓ۔

(۳) — نیز عریاض بن ساریہ (صحابی) فرماتے ہیں کہ میں نے سردار دو جہاں صلی

اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت معاویہؓ کے حق میں آپ فرماتے تھے کہ اے

اللہ! کتاب اور حساب کا علم انہیں عنایت فرما اور عذاب سے محفوظ فرما۔

..... یقول (عریاض بن ساریہ) سمعت رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم یقول اللهم عظم معاویۃ الكتاب و

الحساب وقہ العذاب۔

(۱) الاستیعاب (معہ الاصابہ) ج ۳، ص ۳۸۱ تحت

معاویہ بن ابی سفیانؓ۔

(۲) موارد النظمآن لنور الدین لہستانی، ص ۵۶۶۔ باب

فی معاویہ بن ابی سفیانؓ۔

(۳) البدایہ، ج ۸، ص ۱۲۰، بحوالہ احمد و ابن جریر، تحت

ترجمہ معاویہ بن ابی سفیانؓ۔

(۴) الفتح الربانی، ج ۲۲، ص ۳۵۶۔ باب ماجاء فی

معاویہ بن ابی سفیانؓ۔

امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر جلد رابع

میں درج کیا ہے کہ ایک دفعہ امیر

(۵) ان کے علم اور علم کے لیے دعا

معاویہؓ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار ہو کر تشریف لے

جا رہے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ آپ کے

جسم کا کون سا حصہ میرے قریب تر ہے تو حضرت معاویہؓ نے عرض کیا کہ میرا شکم

آپ کے نزدیک ہے۔ اس وقت آنحضرتؐ نے فرمایا ”اے اللہ! اسے علم و حلم (درباری) سے پُر فرما دے۔“

”... صدقہ بن خالد حدثنی وحشی بن حرب بن وحشی عن ابيه عن جدّه قال کان معاویة ردّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معاویة ما یلینی منک قال بطنی قال اللّٰهُ اَمْلَاہُ عَلْمًا وَحِلْمًا“

(التاریخ الکبیر لامام البخاری، ج ۴، ق ۲، ص ۱۸۰۔  
باب وحشی (وحشی الحبشی) مولیٰ جیسیر بن مطعم)

## — فائدہ —

— سیدنا امیر معاویہؓ کے حق میں یہ دعائیں ایسی ہی موثر ہوتی ہیں جیسا کہ سیدنا علی المرتضیٰؓ کے حق میں دعائے نبویؐ مفید ہوتی اور قدرت کی طرف سے منظور و مقبول ہوتی حضور علیہ السلام حضرت علیؓ کو یمن روانہ کرنے لگے تو حضرت علیؓ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میں نو عمر ہوں، قضا (یعنی فیصلہ کرنے) کا تجربہ نہیں ہے تو جناب نے ان کے سینے پر ہاتھ مبارک رکھا اور فرمایا کہ اللّٰهُمَّ ثَبِّتْ لِسَانَهُ وَاهْدِ قَلْبَهُ ”اے اللہ ان کی زبان کو درست رکھ اور قلب کی صحیح رہنمائی فرما۔“

(البدایہ، ج ۵، ص ۱۰۷، بحث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)

علی بن ابی طالب و خالد بن ولید الی یمن قبل حجۃ الوداع  
بحوالہ امام احمدؒ

— اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہؓ کو بیشک بڑا عمدہ علم و فہم عطا فرمایا اور ساتھ ہی حوصلہ اور بردباری نصیب فرمائی۔ بے شمار مخلوق کی ہدایت کا ان کو ذریعہ بنایا۔



کئی ممالک ان کی کوششوں سے فتح ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اسلام کا کلمہ بلند  
ہوا اور ہمیشہ کے لیے دین کے قیام کی صورتیں پیدا ہو گئیں اور دینی نظام کو ان  
ملکوں میں قائم فرمایا۔ یہ سب کچھ دعائے نبوی و صحبت نبوی کے اثرات تھے۔  
— حضرت امیر معاویہ کے دور کو اگر دینی نظام ختم کر دینے اور  
اسلامی آئین برباد کر دینے کا دور تصور کر لیا جائے تو پھر نبوت کی ان دعاؤں  
کا کیا اثر ہوا؟ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رشد و ہدایت کی دعائیں، علم و علم  
کی دعائیں معاذا اللہ سب بے اثر و بے تاثیر ثابت ہونگی انا اللہ وانا الیہ  
راجعون۔ حضرت علی کے حق میں دعائیں تو مفید، مؤثر اور نتیجہ خیز ثابت ہوں  
اور وہی دعائیں اگر امیر معاویہ کے حق میں مقدس زبان سے صادر ہوں تو کوئی  
ثرہ مرتب نہ ہو سکے، یہ مشکل ہے۔ مسلمانوں کو اس مسئلہ میں غور و فکر کرنے  
کی ضرورت ہے۔ خدا تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے نبی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے  
تمام صحابہ کرام کے ساتھ صحیح عقیدت مندی نصیب فرمائے جس میں قبائلی  
تعصب نہ ہو اور افراط و تفریط سے پاک ہو۔

## لیاقتِ علمی اور قابلیت

اس عنوان کے تحت چند ایک چیزیں ذکر کی جاتی ہیں۔ اس سے حضرت امیر معاویہؓ کی علمی لیاقت اور ان کی صلاحیت واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔

(۱)

### کاتبِ نبویؐ ہونا

سیدنا امیر معاویہؓ کے متعلق یہ چیز مسلمات میں سے ہے کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں ان کو کاتب ہونے کی سعادت نصیب تھی۔ اور یہ کاتبانِ نبویؐ میں شمار ہوتے تھے۔ یہ ان کی صلاحیت اور صداقت و اعتماد کی بین دلیل ہے۔

سیرتِ طیبہ میں جہاں کاتبانِ نبویؐ کا ذکر ہوتا ہے وہاں امیر معاویہؓ کا اسم گرامی بھی درج ہے۔

(۱) — الاستیعاب، ج ۳، ص ۳۵، معہ الاصابہ، تحت

معاویہ بن ابی سفیان۔

(۲) — زاد المعاد لابن القیم، ج ۱، ص ۳۰، فصل فی کتابہ

صلی اللہ علیہ وسلم۔

(۳) — الاصابہ لابن حجر، ج ۳، ص ۳۱۲، تحت معاویہؓ

بن ابی سفیان۔

(۴) مجمع الزوائد للہیثمی، ج ۹، ص ۳۵۷۔ باب معاویہ رضی

(۵) جوامع السیرة لابن خرم، ص ۲۷۔ تحت عنوان کتابہ

صلی اللہ علیہ وسلم۔

————— (۲) —————

## ابن عباس رضی اللہ عنہما کا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر

### علمی اعتماد اور صلاحیت کا اقرار

(۱) — حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے متعدد احادیث نبوی نقل کی ہیں اور کئی مسائل شرعی میں ان پر اعتماد کیا ہے۔ اور ان کو دینی مسائل میں فقیہ کا مقام دیا ہے۔ اسی سلسلہ کی چند چیزیں ذیل میں ملاحظہ فرمائیں :-

۱۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو حضرت علی المرتضیٰ کے چچا زاد برادر ہیں، کی خدمت میں مسئلہ وتر کی بحث ہوئی تو اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر ہوا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا "ہمارے دور میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہما سے زیادہ عالم ہیں"۔

" فقال ابن عباس . . . . . لیس احد منا اعلم من معاویة "۔

والسنن الکبریٰ للبیہقی، ج ۳، ص ۲۶۔ باب التور

طبع حیدرآباد دکن

(۲) — نیز بخاری شریف میں آیا ہے کہ بحث وتر میں جب گفتگو ہوئی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ان کی بات کو رہنے دیجیے وہ صحابی رسول اللہ ہیں۔ انہوں نے

درست عمل کیا ہے اس لیے کہ وہ دینی مسائل میں فقیہ ہیں۔

”... فقال دعہ فاتتہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم... قال اصاب انہ فقیہ“

(۱) بخاری شریف، ج ۱، ص ۵۳۱۔ باب ذکر معاویہؓ۔

(طبع نور محمدی دہلی)

(۲) الاصابہ مع الاستیعاب، ج ۳، ص ۳۱۳۔ تحت تذکرہ

معاویہؓ بن ابی سفیان۔

(۳) أسد الغابہ، ج ۴، ص ۳۸۶۔ تحت تذکرہ معاویہ بن

ابی سفیان۔

(۳) — ایک بار ابن عباسؓ نے اپنے دو مشہور شاگردوں (مجاہد و عطاء) کو امیر

معاویہؓ سے نقل کر کے یہ روایت بیان کی کہ امیر معاویہؓ نے مجھے خبر دی ہے

کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مقراض کے ساتھ اپنے مومے مبارک تراشے۔

تو ہم نے ابن عباسؓ سے عرض کیا کہ امیر معاویہؓ کے ماسوا کسی صاحب سے ہم کو

یہ بات نہیں پہنچی تو جواب میں عبد اللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلمؐ پر امیر معاویہؓ نہمت لگانے والے نہیں ہیں (ان کی یہ اطلاع صحیح ہے)۔

”... عن مجاہد و عطاء عن ابن عباس ان معاویۃ اخبرہ

انہ رأی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصر من شعورہ

بمشقص فقلنا لابن عباس ما بلغنا ہذا الا عن معاویۃ

فقال ما کان معاویۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مُتَّصِماً“

رُسنَد احمد، ج ۴، ص ۹۵۔ تحت مسندات

معاویہؓ بن ابی سفیان)

(۴) — حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت امیر معاویہ کی انتظامی صلاحیت و لیاقت بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ میں نے حکمرانی کے لائق ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں دیکھا۔

”... عن ابن عباس قال ما رأيت احداً اخلق للملك

من معاوية“

(۱) — التاريخ الكبير لامام بخاری، ج ۴، ص ۳۲، تحت ذکر معاویہ بن ابی سفیان۔

(۲) — تاریخ طبری، ج ۶، ص ۱۸۸، تحت سنہ ۶۷ھ۔ آخر تذکرہ معاویہ۔

(۳) — البدایہ، ج ۸، ص ۱۳۵، تحت امیر معاویہ، بحوالہ محدث عبدالرزاق۔

(۴) — الاصابہ، ج ۳، ص ۱۳، تحت ذکر معاویہ بن ابی سفیان۔

(۵) — عبداللہ بن عباس حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں شام تشریف لے جاتے وہاں ان کے ہاں قیام فرماتے۔ نمازیں ان کے ساتھ مقام مقصورہ میں مل کر ادا کرتے تھے۔ (مقصورہ صفت اول میں خلفاء کے لیے مخصوص و محفوظ مقام بنا ہوا ہوتا تھا)۔

نیز ابن عباس کو امیر معاویہ کی جانب سے عطیات و وظائف بھی دیتے جاتے تھے جن کا ذکر عطیات و وظائف کے عنوان کے تحت عنقریب آ رہا ہے، انشاء اللہ تعالیٰ۔

”... ان کدیبا مولیٰ ابن عباس اخبرہ انہ رأی ابن

عباس یصلی فی المقصورة مع معاویة۔

المصنف لعبد الرزاق مج ۲، ص ۴۱۴، باب الصلوة

فی المقصورة مطبوعہ علمی، کراچی۔ ڈابھیل)

— (۳) —

محمد بن حنفیہ ہاشمی کا امیر معاویہ سے حدیث

نبوی اور مسئلہ شرعی نقل کرنا

حضرت علی المرتضیٰ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ نے امیر معاویہ سے حدیث شریف نقل کی ہے کہ امیر معاویہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے عمری جن لوگوں کے لیے کر دیا جائے وہ ان کے لیے درست ہے۔ یعنی ایک شخص نے دوسرے کو عمر بھر کے لیے کوئی چیز دے دی تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ہو گئی۔

”..... عن محمد بن علی الحنفیة عن معاویة بن ابی سفیان قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول العمری جائزۃ لاهلہا۔“

مسندا امام احمد، ج ۴، ص ۹۷۔ تحت حدیث معاویہ بن ابی سفیان، طبع اول مصری)

— (۴) —

امیر معاویہ اصحابِ فتویٰ سے تھے | ابن القیم نے اپنی تصنیف اعلام المتقین کے ابتدائی فصول میں ذکر کیا ہے کہ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو صاحبِ فتویٰ حضرات تھے جن کی طرف لوگ شرعی فتویٰ حاصل کرنے میں رجوع کرتے تھے، ان کے تین طبقات و درجات قائم کیے جاتے ہیں۔

۱۔ ایک جماعت کثیر الفتویٰ تھی۔ وہ حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت عائشہؓ

وغیر ہم حضرات ہیں۔

۲۔ ان کے بعد دوسرا طبقہ المتوسطون تھے۔ وہ صدیق اکبرؓ، ام سلمہؓ، عثمان

ذوالنورینؓ وغیر ہم ہیں۔ ان متوسطین کے زمرہ میں متعدد صحابہ (مثلاً حضرت طلحہؓ،

زبیرؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ، عمران بن الحسینؓ کو ذکر کیا ہے۔ ان میں امیر معاویہؓ بھی شامل ہیں۔ لکھتے ہیں کہ:

«..... ویضاف الیہم طلحة والزبیر وعبدالرحمن بن

عوف..... ومعاویة بن ابی سفیان»

۳۔ اس کے بعد قلیل الفتویٰ حضرات مذکور ہیں۔ مثلاً ابودرداءؓ، ابوسلمہؓ،

سعید بن زید وغیر ہم۔

(۱) — اعلام الموقعین لابن القیثم، ج ۱، ص ۵ (ابتدائی فصول)

طبع اشرف المطابع۔ دہلی۔

(۲) تدریب الراوی شرح تقریب النواری، ص ۴۰۴ تحت

بحث واكثرهم فتيا ابن عباسؓ۔

(۳) — جوامع السیرة لابن خزم، ص ۳۲۰ (الرسالة الثالثة

اصحاب الفتيا من الصحابةؓ)

— مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہؓ اپنی علمی لیاقت کے اعتبار سے

جس طرح فقہائے امت میں شمار کیے جاتے تھے اسی طرح صحابہ کرام کے دور میں

اہل فتاویٰ میں ان کا مستقل مقام تھا اور ان کا اہل تدبیر و سیاست ہونا تو تاریخی مسلمات میں سے ہے۔

(۵)

— حضرت امیر معاویہ کی دینی وثاقت اور علمی ثقاہت کے لیے یہ چیز بڑی اہم ہے کہ آپ بہت سے اکابر صحابہ کرامؓ کے مروی عنہ ہیں یعنی صحابہؓ نے آپ سے احادیث نبوی نقل کی ہیں۔ ان میں سے چند ایک کا ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے اور امام نووی نے لکھا ہے کہ ایک سو تریسٹھ احادیث نبوی امیر معاویہ کے ذریعہ منقول ہیں جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔

۱۔ عبد اللہ بن العباسؓ (ہاشمی) ۲۔ جریر بن عبد اللہ الجلیؓ

۳۔ معاویہ بن خدیج ۴۔ سائب بن یزید

۵۔ عبد اللہ بن الزبیرؓ ۶۔ نعمان بن بشیرؓ

۷۔ ابوسعید الخدریؓ ۸۔ ابورداد

۹۔ عبد اللہ بن عمرؓ - وغیرہم

(۱) الاصابہ، ج ۳، ص ۴۱۲ تحت معاویہ بن ابوسفیان

(۲) اسد الغابہ، ج ۴، ص ۳۸، تحت معاویہ بن ابوسفیان

(۳) تہذیب الاسماء واللغات للنووی، ج ۲، ص ۱۰۲، ۱۰۳

تحت معاویہ بن ابی سفیان۔

(۴) جوامع السیرة لابن خزم، ص ۲۴۴، تحت الرسالة الثانية

(اصحاب الماء وشبی)۔



## ملی خدمات اور اسلامی فتوحات

قبل ازیں بحث اول عنوان دانشام کے تحت حضرت امیر معاویہؓ کی چند خدمات متعلق عہد نبوی و عہد صدیقی مختصراً درج ہو چکی ہیں، ان کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے چند مزید غزوات و فتوحات یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔

— جنگی غزوات کے سلسلہ میں امیر معاویہؓ کی خدمات جلیلہ بہت کثیر ہیں۔ پہلے خلفائے راشدین کے دور میں، پھر ان کے اپنے دورِ خلافت میں بے شمار فتوحات ہیں جو امیر معاویہؓ کے ذریعہ حاصل ہوئیں۔ ان کی تفصیلات کے لیے تو ایک مستقل تصنیف درکار ہے۔ مگر اس وقت اجمالی طور پر ہم ان میں سے بعض واقعات کو نقل کرتے ہیں تاکہ یہ عنوان خالی نہ رہ جائے۔

(۱) — فتح اُردن کے متعلق علامہ بلاذریؒ نے لکھا ہے کہ فوج کے سپہ سالار ابو عبیدہؓ بن جراح تھے اور ان کے ماتحت امیر معاویہؓ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان جرنیل تھے۔ حضرت ابو عبیدہؓ کے حکم کے مطابق سواحل اُردن کی طرف فوج کشی کی گئی تو اس لشکر کے امیر یزید بن ابی سفیان تھے اور اس لشکر کے مقدمہ پر ان کے بھائی معاویہؓ بن ابی سفیان متعین تھے۔ بڑی کوشش اور مساعی کے بعد سواحل اُردن یزید، عمرو بن العاص اور حضرت معاویہؓ کے ہاتھوں فتح ہوئے تو ابو عبیدہؓ نے اس فتح کی اطلاع مرکز میں حضرت عمرؓ کو ارسال کی۔ اس موقع پر حضرت امیر معاویہؓ کے کارنامے اور کارکردگی ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔

..... ”وكان لمعاوية في ذلك بلاءٌ حسنٌ واثراً

جمیل“

فتوح البلدان للبلاذری، ص ۱۲۳، طبع مصر، تحت  
امر اردن)

(۲) — ۱۹ھ میں جب حضرت عمرؓ نے قیساریہ کے فتح ہونے کا اعلان فرمایا تو مسلمانوں نے یہ مژدہ جانفزا سُن کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کیں۔ سات سال تک قیساریہ کا محاصرہ رہا اور آخر کار امیر معاویہؓ کے ذریعہ فتح ہوئی۔

”..... ان قیساریۃ فتحت قسراً فی سنة ۱۹ھ فلما بلغ عمر فتحها نادى ان قیساریۃ فتحت قسراً وکبر وکبر المسلمون وکانت حوصرت سبع سنین وفتحها معاویة۔“

(۱) فتوح البلدان للبلاذری المتوفی ۲۴۹ھ،  
ص ۱۲۹۔ طبع اولیٰ مصری تحت امر فلسطین۔  
(۲) فتوح البلدان للبلاذری، ص ۱۲۴ تحت  
امر فلسطین۔

(۳) — متورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے امیر معاویہؓ کو فرمان بھیجا کہ فلسطین کے باقی علاقوں کی طرف پیش قدمی کریں۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہؓ نے تعمیل حکم میں عسقلان کے علاقہ کو فتح کیا۔

”..... وکتب عمر بن الخطاب الی معاویة یامرہ

یتبع ما بقی من فلسطین ففتح عسقلان“

فتوح البلدان، ص ۱۲۹۔ تحت امر فلسطین  
لاحمد بن یحییٰ البلاذری)

(۴) حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا

سب سے پہلا شکر جو سمندر میں جہاد کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ آتاتے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بشارت بیان فرمائی تو اُمّ حُرّام بنت ملحان عرض کرنے لگیں کیا میں بھی اس میں شامل ہوں؟ تو آپ نے جواباً فرمایا: تو بھی اس میں سے ہے۔ اس بنا پر حضرت اُمّ حُرّام ایک مرتبہ سمندر میں جہاد کرنے والے اس شکر میں شامل ہوئیں جس کے جرنیل حضرت امیر معاویہ تھے۔ اس غزوہ میں اُمّ حُرّام اپنی سواری سے گر کر فوت ہو گئیں۔

”.... قال عمیر فحدثنا ام حرام انها سمعت النبی صلی

اللہ علیہ وسلم یقول اول جیش من اُمتی یغزون البحر

قد اوجبوا قلت ام حرام قلت یا رسول اللہ انا فیہم؟

قال انت فیہم... الخ“

.... فرکت البحر فی زمان معاویة بن ابی سفیان

فصرعت عن دابتها حین خرجت من البحر فہلکت“

(۱) — بخاری شریف، ج ۱، ص ۴۱۰۔ کتاب الجہاد، باب

ما قبل فی قتال الروم۔ طبع نور محمدی دہلی۔

(۲) — بخاری شریف، ج ۱، ص ۳۹۱۔ کتاب الجہاد،

باب الدعاء بالجہاد والشہادة۔

(۳) — مسلم شریف، ج ۲، ص ۱۴۱، ۱۴۲۔ کتاب الامارة

باب فضل الغزوة فی البحر۔ طبع نور محمدی دہلی۔

اس واقعہ کے متعلق اتنی ضروری تشریح یا درہنی چاہیے کہ حضرت عثمان غنی کی

خلافت کے دوران ۳۸ھ میں حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں یہ غزوہ پیش آیا

تھا۔ اس غزوہ میں اُمّ حُرّام اپنے خاوند عبادہ بن صامت کے ساتھ شامل غزوہ ہوئی

تھیں اس کا نام غزوہ قبرص ہے۔ اس غزوہ میں اہم حرام فوت ہوئیں اور ان کا مزار وہیں علاقہ قبرص میں ہے (جس کو ساٹیرس کہا جاتا ہے)۔

”..... ونيها (س۲۸) غزامعاوية بن ابى سفيان في البحر..... ومعه عبادة بن الصامت ومعه امراته ام حرام بنت ملحان الانصارية فاتي قبرص فتوفيت ام حرام فقبرها هناك“

(۱) — تاریخ خلیفہ بن خیاط، ج ۱، ص ۱۳۵۔ تحت س۲۸

(۲) — نسب قریش، ص ۱۲۳۔ تحت اولاد ابی سفیان بن حرب۔

(۳) — البدایہ جلد ہشتم، ص ۲۲۹۔ تحت ترجمہ یزید بن معاویہ۔

(۴) — فتوح البلدان بلاذری، ص ۱۶۰۔ تحت امر قبرص۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے جس لشکر کے متعلق جنت کی یہ بشارت ارشاد فرمائی تھی اس لشکر کے امیر حضرت امیر معاویہؓ تھے۔ لہذا وہ بھی اس عظیم بشارت کے مستحق ہوتے اور زبان نبوت کے ذریعہ بالیقین اہل جنت میں سے ٹھہرے۔

یہاں مزید یہ بات قابل ذکر ہے کہ امیر معاویہؓ، حضرت دیگر اکابر کا شامل ہونا فاروق اعظمؓ سے بحری جنگوں کے متعلق پیش قدمی کرنے کے لیے اجازت طلب کرتے رہے لیکن وقتی مصالح کی بنا پر اجازت نہ ملی۔

جب حضرت عثمانؓ کا دور آیا تو انہوں نے خاص شروط کے تحت قومی منافع کے پیش نظر بحری جنگی اقدامات کی اجازت دے دی۔ اور یہ قبرص کی طرف اقدام پہلا بحری غزوہ ہے۔

اس میں حضرت امیر معاویہؓ کی ماتحتی میں بڑے بڑے اکابر صحابہ غزوہ ہذا

میں شریک ہوتے تھے مثلاً ابوالیوب انصاریؓ - ابوالدرداء - ابوذر غفاریؓ -  
عبادۃ بن الصامت، فضالہ بن عبید الانصاریؓ، عمیر بن سعد بن عبید الانصاریؓ -  
والمہ بن الاسقع الکفائی - عبداللہ بن بشر المازنی - شداد بن اوس بن ثابت و ہوا بن اخی  
حسان بن ثابت و المقداد - وکعب الجبر و حیر بن نفیر الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہم  
اجمعین -

امیر معاویہؓ غزوہ ہذا میں امیر شکر کی حیثیت سے خود شامل تھے اور آپ  
کی اہلیہ ساتھ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم عطا فرمائی۔ مسلمانوں کو بہت عمدہ عنانم  
حاصل ہوئے۔

مسلمانوں کی افواج نے اس علاقہ میں جہاد جاری رکھا حتیٰ کہ اہل قبرس صلح  
کے لیے آمادہ ہوئے اور امیر معاویہؓ کے دور میں انہوں نے امیر معاویہؓ سے چند  
شرائط کے ساتھ دائمی مصالحت کر لی۔۔۔ الخ

(فتوح البلدان للبلاذری، ص ۱۶۰-۱۶۱ تحت امر قرس)

(۵۱) — حضرت سیدنا عثمانؓ بن عفان کی شہادت کے بعد کچھ عرصہ تک غزوات  
کا سلسلہ رک گیا تھا حتیٰ کہ جب صلح و مصالحت کا سال آیا جب سیدنا حسنؓ کی  
حضرت امیر معاویہؓ سے اسکے میں صلح ہوئی، تو امیر معاویہؓ نے ملک روم کی  
طرف سولہ عدد غزوات یکے بعد دیگرے جاری رکھے۔ جب ایک لشکر گرمیوں  
میں بھیجا جاتا تو وہ وہیں سردیوں میں قیام کر کے واپس لوٹتا اور اس کی جگہ دوسرے  
کو روانہ کیا جاتا۔

”لما قتل عثمان لم یکن للناس غازیة تغزوا حتی کان

عامۃ الجماعۃ فاغزما معاویۃ ارض الروم ست عشرة

غزوة تذهب سریة فی الصیف ویشتو بارض الروم

## ثم تقفل وتلقبها اُخْرَىٰ

(البدایہ، ص ۱۳۳، جلد ۸۔ تحت تذکرہ معاویہؓ)

پھر اس کے بعد بے شمار غزوات پیش آئے۔ بری و بحری فتوحات ہوئیں اور ان کے ہاتھوں اقصائے عالم تک اسلام کا پرچم لہرایا اور ان کی مساعی سے دین اسلام کے غلبہ کے سامان پیدا ہو گئے۔ اسی چیز کو علامہ ذہبیؒ نے کتاب دول الاسلام میں بیان کیا ہے۔ ذیل میں ملاحظہ فرمادیں۔

۶۔ حضرت امیر معاویہؓ میں فطری طور پر انتظامی صلاحیتیں اس قدر وجود تھیں کہ ان کے زیر انتظام ایک وسیع و عریض اسلامی سلطنت قائم تھی۔ اس سلطنت کی حدود و بنجارا سے لے کر مغرب میں قیروان تک، اقصائے یمن سے قسطنطنیہ تک پھیلی ہوئی تھیں اور ان کے علاوہ حجاز، یمن، شام، مصر، مغرب، عراق، الجزیرہ، آرمینیہ، روم، فارس، خراسان، جبال، اور ماوراء النہر، یہ تمام ممالک اور علاقے ان کے حکم کے ماتحت تھے۔ علامہ ذہبیؒ لکھتے ہیں.....

”... صار ملک الدنيا تحت حكمه من حدود بنجارا

الى القيروان من المغرب ومن اقصى اليمن الى حدود  
قسطنطنية و اقليم الحجاز و اليمن و الشام و مصر  
و المغرب و العراق و الجزيرة و آرمينية و الروم و  
فارس و الخراسان و الجبال و ما وراء النهر“

دکتاب دول الاسلام للذہبیؒ، جزء اول، ص ۲۸۔

تحت سنة ستين۔ طبع دائرة المعارف دکن

امیر معاویہؓ کے دور خلافت میں حرم مکہ کے بعض  
آثار اور نشانات ٹٹنے لگے تھے۔ مروان بن الحکم

حدود حرم کی تعیین

مدینہ پر امیر معاویہؓ کی جانب سے والی تھے۔ انہوں نے شام میں امیر معاویہؓ کو لکھا کہ حرم شریف کے بعض آثار مٹ گئے ہیں اور کرز بن علقمہ مع صحابی زندہ موجود ہیں ان کے ذریعے آثار کی تجدید و تجدید ہو سکتی ہے۔ اس کے متعلق حکم صادر فرمایا جائے۔ تو امیر معاویہؓ نے جواب ارسال کیا کہ کرز کی معلومات کی روشنی میں مٹنے والے آثار و نشانات کو جلد از جلد صحیح کر کے متعین کیا جائے۔ اور اس پر عملدرآمد کیا گیا۔

”اسلم کوزیوم فتح مکة وکان قد عمر عمرًا طویلًا وکان بعض اعلام الحرم قد عمی علی الناس فکتب مروان بن الحکم الی معاویة بذالك فکتب الیه ان کان کرز بن علقمة حیًا فمره فلیوقفکم علیہ ففعل فهو الذی وضع معالم الحرم فی زمن معاویة وهو علی ذالك الی الساعة۔“

(۱) — تاریخ طبری الجزء الثالث عشر، ج ۱۳، ص ۳۵-۳۶

ذکر من مات او قتل ۸۰ھ۔

(۲) — الاصابہ مع الاستیعاب، ص ۲، ۵۔ تحت

ذکر کرز بن علقمہ بن ہلال۔

(۳) — طبقات لابن سعد، ج ۵، ص ۳۳۸۔ تحت

کرز بن علقمہ بن ہلال۔ طبع لیدن۔

عوام کی خیر خواہی: حضرت امیر معاویہؓ کا اخلاق و کردار بہت بلند تھا اور ان کا اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک قابل قدر

کریمانہ اخلاق اور عمدہ کردار  
خدا خوفی اور خوفِ آخرت

تھا۔ عوام کی حاجت روائی کے لیے حضور علیہ السلام کے فرمان کے پیش نظر انہوں نے

آدمی مقرر کر رکھا تھا جو لوگوں کی حاجات اور ضروریات ان کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ چنانچہ عمر بن مرہ نے جب امیر معاویہ کو اس مضمون کی حدیث سنائی تو انہوں نے اس پر فوراً عمل درآمد کر دیا۔

(۱) — عن عمر بن مرّة انه قال لمعاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله شيئاً من امر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتصم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره فجعل معاوية رجلاً على حوائج الناس رواه ابوداؤد والترمذی۔

مشکوٰۃ شریف، ص ۳۲۲۔ الفصل الثانی۔ باب

ما على الولاة من التيسير

(۲) — فلما دخل ابو مریم (الازدی الصحابی) عليه ر معاوية بن ابی سفیان قال ر معاوية ههنا ههنا يا ابا مریم فقال ابو مریم اني لمر اجنك طالب حاجة ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغلق بابہ دون ذوی الفقر والحاجة اغلق الله عن فقره وحاجته باب السماء قال فاكب معاوية يبكي ثم قال رد حديثك يا ابا مریم فردده فقال معاوية ادعوا لي سعداً وكان حاجبه فدعى فقال يا ابا مریم حدثه انت كما سمعت فحدثه ابو مریم فقال معاوية لسعد اللّهم اني اخلع هذا من عنقي واجعله في عنقك من جاء يستاذن له يقضى الله له على لساني ما قضى۔

کتاب الکنی للذوالبی جلد اول، ص ۵۴ تحت ابی مریم الازدی



حاصل یہ ہے کہ ایک صحابی ابو مریم امیر معاویہؓ کے پاس پہنچے۔ امیر نے فرمایا یہاں تشریف رکھیے۔ ابو مریم فرمانے لگے کہ میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا لیکن فرمان نبویؐ پہنچاتا ہوں جنصور علیہ السلام سے میں نے سنا کہ فرماتے تھے جس شخص نے حاجت مند کے سامنے اپنا دروازہ بند کر دیا، اس کی ضرورت نہ سنی، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کا دروازہ آسمان سے بند کر دیں گے۔ یہ سن کر امیر معاویہؓ اوندھے گھر گھر رونے لگے پھر اپنے دربان سعد نامی کو بلوایا اور ابو مریم کو فرمایا کہ اب پھر فرمان نبوت سنائیے۔ انہوں نے وہی حدیث سنائی، اس کے بعد حضرت معاویہؓ نے اپنے دربان سعد کو فرمایا، میں نے اپنے گلے سے بات کو نکال کر ترے گلے میں ڈال دیا اور حکم دیا کہ جو حاجت مند آتے اسے میرے ہاں پہنچنے کی اجازت دے دینا۔ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ میری زبان پر جو فیصلہ چاہیں گے کریں گے۔“

- (۳) — مندرجہ بالا واقعات کی طرح حضرت امیر معاویہؓ کی خدا خونی اور فکر آخرت کا واقعہ ترمذی شریف جلد دوم، ص ۶۱، طبع مجتباتی دہلی، ابواب الزہد، تحت باب ما جاء في الرياء والسمعة میں شفیفاً اصحیح سے منقول ہے۔
- (۴) — اسی طرح حضرت امیر معاویہؓ کی تواضع و انکساری اور اتباع سنت کی اہمیت کا واقعہ عبداللہ بن الزبیر و ابن صفوان کے ساتھ پیش آیا۔ ترمذی شریف جلد دوم، ص ۱۰۰۔ طبع مجتباتی دہلی، ابواب الآداب، باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل میں مذکور ہے۔

(۵) — نیز حضرت معاویہؓ کا فرمان نبویؐ میں کوتاہی اور تبدیلی پر پریشانی ہونا اور اہل مدینہ کو متنبہ کرنا ترمذی شریف جلد دوم، ص ۱۰۲، طبع دہلی۔ ابواب الآداب

باب ماجاء فی کرامتہ اتخاذا القصہ میں بیان کیا گیا ہے۔

یہ ازراہ اختصار امیر معاویہ کے واقعات کی طرف اشارے کر دیتے ہیں۔ اہل علم اور صاحب تحقیق حضرات رجوع فرما کر تسلی کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث کی روایات ہیں۔ تاریخی رطب و یابس نہیں۔

## امیر معاویہ کی سیرت اور کردار پر

### علامہ ابن تیمیہ کی رائے

علامہ ابن تیمیہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا تعلق اپنی رعیت کے ساتھ بہترین تھا۔ جس کی وجہ سے رعیت آپ کو بہت پسند کرتی تھی۔ آپ کا شمار بہترین حکام میں ہوتا تھا۔

صحیحین کی روایت ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بہترین حاکم وہ ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو اور وہ تم کو پسند کرتے ہوں۔ تم ان کے حق میں دُعا کرتے ہو اور وہ تمہارے حق میں دُعا کرتے ہوں۔

”وكانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار سير الولاة

وكانت رعيته يحبونه وقد ثبت في الصحيحين عن النبي

صلى الله عليه وسلم انه قال خيار ائمتكم الذين تحبونهم

ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم... الخ

منهاج السنه، ج ۳، ص ۱۸۹۔ تحت

جوابات مطاعن عثمانی

عوام کی خبر گیری کے لیے ایک شعبہ | منهاج السنہ میں ابن تیمیہ نے بغوی کی

سند کے ساتھ ابو قیس سے ذکر کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہؓ نے اپنے دورِ خلافت میں ہر قبیلہ کے لیے ایک ایک آدمی مقرر کیا ہوا تھا جو محافل میں جا کر معلوم کرتا کہ کیا اس قبیلہ میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یا نہیں؟ کیا اس رات میں کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے یا نہیں؟ یا کوئی جہان قبیلہ میں فروکش ہوا ہے؟ وہ مذکورہ معلومات لے کر دفتر میں پہنچتا اور ان کے نام رجسٹر میں درج کرتا تا کہ ان کی ضروریات کا حکومت کی طرف سے انتظام کیا جائے۔

قال البغوی حدثنا سوید بن سعید حدثنا ہمام بن اسمعیل عن ابی قیس قال کان معاویۃ قد جعل فی کل قبیلۃ رجلاً وکان رجل منّا یکنّٰی ابایحییٰ یصبح کل یوم فیدور علی المجالس هل ولد فیکم اللیلۃ ولد؟ هل حدث اللیلۃ حادث؟ هل نزل الیوم بکم نازل؟ قال فیقولون نعم۔ نزل رجل من اهل الیمین بعیالہ یسمونہ وعیالہ فاذا فرغ من القبیل کلہ اتی الدیوان فاوقع اسماءہم فی الدیوان۔

(۱) — منہاج السنہ لابن تیمیہ، ج ۲، ص ۱۸۵۔

(۲) — البدایہ لابن کثیر، ج ۸، ص ۱۳۲ تحت تذکرہ معاویہؓ

مطلب یہ ہے کہ رعایا کے احوال کی خبر گیری اور ہر قبیلہ کی ضروریات دریافت کرنے کے لیے ایک مستقل دفتر ہوتا تھا۔ اس طریقہ سے عوام کی ضروریات کا ہر ممکن طریقہ سے اہتمام کیا جاتا تھا۔

— مذکورہ حوالہ جات کے ذریعہ سیدنا معاویہؓ کی طرزِ زندگی اور حسن

معاشرت واضح ہے۔ اکابرین امت کی ان تصریحات کے باوجود امیر معاویہؓ کے حق میں یہ پروپگنڈہ کرنا کہ ان کی عادات قیصر و کسریٰ کی عادات و اطوار کے

موافق تھیں اور ان کی عملی زندگی اسی انداز میں بسر ہوتی تھی۔ سراسر ناصافی ہے اور واقعات کے برعکس ہے۔ ان کے متعلق لوگوں میں منفرد پھیلانے کے لیے یہ پروپیگنڈا ہے اور ناقابل اعتبار تاریخی مواد پر اعتماد کر کے یہ تصور پیش کیا جاتا ہے۔

(۱) سیدنا امیر معاویہؓ  
**عدل و انصاف پر حضرت سعدؓ کی شہادت** | بڑے عادل اور منصف

مزاج تھے۔ وہ عوام کے حقوق کو احسن طریقہ سے ادا کرنے والے تھے۔ آپ کے حق میں سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمانؓ کے بعد امیر معاویہؓ سے زیادہ حق کو پورا کرنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔

— قال الليث بن سعد حدثنا بكير عن بشر بن سعيد

ان سعد بن ابی وقاص قال ما رأيت احداً بعد عثمان اقضى

بحق من صاحب هذا الباب يعنى معاوية۔

(۱) — تاریخ الاسلام للذہبی جز ثانی، ص ۳۲۱ تحت ذکر معاویہؓ۔

(۲) — البدایہ لابن کثیر، ص ۱۳۳، ج ۸ تحت ذکر معاویہؓ۔ طبع اول مصری۔

— حضرت سعد بن ابی وقاص ان کبار صحابہؓ میں سے ہیں جنہوں نے جنگ جمل و صفین سے عزت و علیحدگی اختیار کر لی تھی اور طرفین میں سے کسی ایک فریق کی حمایت نہیں کی تھی۔ ان مناقشات میں آپ غیر جانبدار رہے تھے۔

ردول الاسلام، ج ۱، ص ۱۵۔ للذہبیؒ۔

تحت خلافة علی بن ابی طالب

انہوں نے حضرت معاویہؓ کے منصفانہ کردار کو اس طرح بیان کیا ہے کہ سیدنا عثمانؓ کے بعد انصاف کرنے اور حق ادا کرنے میں امیر معاویہؓ کا بڑا مقام ہے۔  
 — یہ شہادت بہت وزنی ہے۔ اس کے مقابلہ میں حضرت معاویہؓ کے کردار میں نقیص پیدا کرنے والی روایات کا کوئی درجہ نہیں ہے۔

**الاعمش کی شہادت** | اسی طرح آنے والے حوالہ مندرجہ میں الاعمش رجوع ثقہ تابعی ہیں اور بڑے پائے کے محدث ہیں، کی گواہی بڑی قیمتی ہے۔ اس میں عمر بن عبدالعزیز مشہور منصف خلیفہ کے ساتھ تقابل پیش کر کے الاعمش فرماتے ہیں "حلم و کرم میں نہیں بلکہ عدل و انصاف کے معاملہ میں حضرت امیر معاویہؓ عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر تھے۔ اہل علم و فہم حضرات پر واضح ہے کہ اعمش وغیرہ حضرات کا زمانہ امیر معاویہؓ کے دور کے قریب تر ہے۔ ان قریب زمانہ والے لوگوں کی شہادت بعد والی تاریخی روایات سے بہر کیفیت مقدم ہوگی اور زیادہ معتبر ہوگی۔ امیر معاویہؓ کو ظالم و جائز وغیرہ ثابت کرنے والے تاریخی مواد کو مؤخر کیا جائے گا اور ناقابل اعتماد متصور ہوگا۔

ایک دفعہ اعمش (سلمان بن مہران) کی مجلس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان کے عدل و انصاف کا تذکرہ ہوا تو اعمش نے فرمایا کہ امیر معاویہؓ عمر بن عبدالعزیز سے حلم میں نہیں بلکہ خدا کی قسم عدل و انصاف میں فائق تھے۔

... حدثنا محمد بن جواس حدثنا ابو هريرة الملقب

قال كُنا عند الاعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز و عدله

فقال الاعمش فكيف لو ادر اكم معاوية قالوا في حلمه؟

قال لا والله بل في عدله۔

(۱) منہاج السنہ لابن تیمیہ، ج ۳، ص ۱۸۵۔

(۲) — المنتقی للذہبی، ص ۳۸۸ طبع مصر

## امیر معاویہؓ کے حق میں ناصحانہ کلام اور ان کی خدمت میں حق گوئی کا مسئلہ

— سیدنا حضرت امیر معاویہؓ کو بعض حضرات نصیحت فرماتے اور ان کے حق میں خیر خواہانہ کلام کرتے تو حضرت معاویہؓ کو یہ چیز پسند ہوتی تھی اور اسے بخوشی قبول کرتے تھے۔

(۱) — ایک دفعہ ابو امامۃ الباہلیؓ (صحابی)، امیر معاویہؓ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے امیر المؤمنین آپ ہمارے چشموں کے لیے اصل ہیں۔ آپ صاف رہیں گے تو چشموں کا میللا ہونا ہمیں ضرر نہ دیگا۔ اگر آپ میں تکدرا اور میللا پن ہوگا تو ہمارا صاف رہنا ہمیں نفع نہ دے گا اور یقین جانئے کہ ستونوں کے بغیر خمیہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔

”..... اخبرنی العتبی قال دخل ابو امامۃ الباہلی علی معاویۃ فقال یا امیر المؤمنین! انت رأس عیوننا فان صفوت لم یضرننا کدر العیون وان کدرت لم ینفغننا صفونا واعلم انہ لا یقوم فسطاط الا بعمد“

کتاب المجتبیٰ، ص ۳۹ تحت کلام معاویہؓ مطبوعہ  
دائرة المعارف دکن۔ لایام اللغۃ والادب ابی بکر  
محمد بن الحسن بن درید الازدی البصری۔ المتوفی ببغداد  
سنۃ ۳۲۲ھ

(۲) — اور امیر معاویہؓ کی خدمت میں حق بات لوگ رُو برو کہتے تھے۔ امیر معاویہؓ اسے خندہ پیشانی سے سماعت فرماتے۔ ان کے دُور میں حق گوئی مَسلوب نہ تھی۔ ابن درید کی کتاب 'بدا سے ایک اور حوالہ پیش خدمت ہے ملاحظہ فرماویں۔

ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہؓ کو ایک آدمی آکر کہتا کہ اے معاویہ! اللہ کی قسم خود بخود ڈھیک رہیے ورنہ ہم آپ کو درست کر دیں گے تو امیر معاویہؓ فرماتے کہ کس کے ساتھ ڈھیک کرو گے تو وہ شخص کہتا کہ لاٹھی کے ساتھ یہ سن کر امیر فرماتے تو پھر سم درست ہو جائیں گے۔

— اخبارنا محمد قال اخبرنا معاذ عن دماذ قال اخبرني

ابو عبیدة قال ان كان الرجل ليقول لمعاوية والله

لستقيم يا معاوية! اولنقومنك فيقول بماذا فيقول

بالخشب فيقول اذا نستقيم۔

(۱) کتاب المجتبی لابن درید المذکور، ص ۴۱ طبع

حیدرآباد رکن تحت کلام معاویہ

(۲) سیر اعلام النبلاء للذہبی، ج ۳، ص ۱۰۲۔

تحت ترجمہ معاویہؓ۔

(۳) تاریخ الاسلام للذہبی، ج ۳، ص ۳۲۲۔

تحت معاویہؓ۔

جس طرح حضرت امیر عمرؓ کے دُور کا ایک واقعہ مشہور ہے، کسی نے ان کو کہا تھا اگر آپ درست نہ ہونگے تو ہم آپ کو تلوار کے ساتھ ڈھیک کر دیں گے۔ اسی طرح سیدنا امیر معاویہؓ کی خدمت میں لوگ حق بات کہتے تھے اور

راست گوئی کا حق ادا کرتے تھے۔ حضرت امیر نے ان پر کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رکھی تھی۔۔۔۔۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ :

اس دور کے معترض بزرگوں نے ”لوگوں کی زبانوں پر قفل چڑھائے جانے“ کا جو کس تیار فرمایا ہے وہ صحیح نہیں۔ اس کا روایاتی مواد بالکل ردی ہے اور لائق اعتبار نہیں۔ تاریخ میں ہر اچھے آدمی کے متعلق اس قسم کا ردی مواد فراہم کر لینا کچھ مشکل نہیں۔ خداوند کریم ”خدا صفا ودع ماکدر“ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے۔

## اسلامی خزانہ امیر معاویہؓ کے دور میں !

۔۔۔۔۔ سیدنا امیر معاویہؓ کی خلافت کے دوران بیت المال کے متعلق کیا نظریات تھے اور اس کے اموال کے مصارف کس طرح جاری ہوتے تھے؟ امیر معاویہؓ کے نزدیک بیت المال کی حیثیت کیا تھی؟ یہ مسئلہ بہت کچھ تفصیل طلب ہے۔ لیکن اختصار کے پیش نظر پہلے چند ایک حوالہ جات اس کے لیے تحریر کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے فوائد ملاحظہ فرماویں۔

(۱)

۔۔۔۔۔ ایک دفعہ جمعہ کے روز امیر معاویہؓ نے خطبہ میں فرمایا کہ بیت المال کا مال ہمارا ہے اور مال فتنے بھی ہمارا ہے جس شخص سے چاہیں ہم روک سکتے ہیں۔ اس بات کا کسی نے جواب نہ دیا۔ دوسرے جمعہ میں اسی طرح کلام فرمایا۔ پھر بھی کسی نے جواباً کچھ نہ کہا۔ پھر تیسرے جمعہ میں جب امیر معاویہؓ نے وہی بات فرمائی جو پہلے جمعہ میں ذکر کی تھی۔



فقام اليه رجل فقال كلا!

انما المال مالنا والفقى فينا فمن حال بيننا وبينه حاكمنا  
الى الله تعالى باسيا فناقضني في خطبته ثم لما وصل  
منزله ارسل للرجل فقالوا هلك ثم دخلوا فوجدوه  
جالسا معه على سريره فقال لهم ان هذا احياني احياء  
الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  
سيكون من بعدى امرء يقولون فلا يرد عليهم يتقاضون  
في النار..... واني تكلمت اول جمعه فلم يرد علي  
احد فخشيت ان اكون منهم ثم في الجمعة الثانية فلم  
يرد علي احد فقلت اني منهم ثم تكلمت في الجمعة  
الثالثة فقام هذا الرجل فرد علي فاحياني احياء الله  
تعالى -

— یعنی ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ اس نے (جمع کے سامنے) کہا کہ  
اس طرح بات نہیں ہے بلکہ بیت المال کا مال ہمارا ہے اور فتنے  
کا مال بھی ہم سب مسلمانوں کا ہے۔ جو شخص اس مسئلہ میں حائل ہونے  
لگے گا اس کا فیصلہ ہم تلواروں کے ساتھ خدا تعالیٰ کے ہاں پہنچائیں گے۔  
— اس کے بعد امیر معاویہ خطبہ تمام کر کے جب اپنے مقام پر  
پہنچے تو اس شخص کو بلا بھیجا۔ لوگوں نے خیال کیا کہ اس کو سزا ملے گی۔  
لیکن جب اور لوگ پہنچے تو دیکھا وہ (حق گو) آدمی چار پائی پر امیر  
معاویہ کے ساتھ باعزت انداز میں بیٹھا ہوا ہے۔  
— اس وقت امیر معاویہ نے فرمایا کہ اس شخص نے گویا مجھے

زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھے۔ میں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا عنقریب میرے بعد امراء ہوں گے جو بات کہیں گے ان کے جواب میں کوئی کلام نہ کر سکے گا۔ وہ آتش میں گریں گے.....

میں نے پچھلے جمعہ میں کلام کیا۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جن کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ پھر دوسرے جمعہ پر بھی کسی نے جواب میں نہ ٹوکا تو خیال ہوا میں ان میں سے ہوں گا۔ جب تیسرے جمعہ میں میں نے بات کی تو اس شخص نے کھڑے ہو کر صاف صاف جواب دیا تو گویا مجھے اس نے زندہ کر دیا (یعنی میں اس وعید مذکور سے بچ گیا) اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھے۔

(۱) تاریخ الاسلام للذہبی، ج ۲، ص ۳۲۲ -  
تحت معاویہ۔

(۲) تطہیر الجنان واللسان لابن حجر، ص ۲۷ -  
الصواعق المحرقة، مطبوعہ مصر طبع ثانی۔

اس واقعہ کے بعد ابن حجر مکیؒ لکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی منقبت عظیم

ہے جس میں حضرت معاویہؓ منفرد نظر آتے ہیں۔ اس واسطے کہ اس نوعیت کا واقعہ کسی سے منقول نہیں ہے۔

(۱) اور یقین جانئے کہ امیر معاویہؓ حضور علیہ السلام کے فرمودات

پر حتی الامکان عمل درآمد کرنے کے حریص تھے۔

(۲) اور اپنی جگہ خائف رہتے تھے کہ ان سے کوئی تجاوز اور

ادنیٰ زیادتی بھی نہ ہونے پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس معاملہ میں محفوظ کر لیا۔ رضی اللہ عنہ

(۲)

منہاج السنہ میں باسند مذکور ہے:

رو عن عطیة بن قیس قال سمعت معاویة بن ابی سفیان  
یخطبنا ان فی بیت مالکم فضلاً بعد عطیاتکم وانی قاسمہ بینکم  
فان کان یا تینا فضل عاماً قابلاً قسمناہ علیکم والافلا عتبة  
علی فانہ لیس بعالی وانما هو مال اللہ الذی افاء کم  
علیکم۔

”یعنی عطیہ بن قیس کہتے ہیں کہ ایک بار امیر معاویہؓ کو خطبہ دیتے ہوئے  
میں نے سنا کہہ رہے تھے اے لوگو! تمہیں عطیات دینے کے بعد  
تمہارے بیت المال میں جو مال بچا ہوا موجود ہے اس کو میں تمہارے  
درمیان تقسیم کر دوں گا۔

اگر آئندہ سال بھی زیادہ مال پہنچ گیا تو وہ بھی تم لوگوں پر تقسیم  
کر دیں گے۔ اگر نہ آیا تو ہم پر کوئی الزام نہ ہوگا۔ یقیناً بیت المال کا  
مال میرا مال نہیں ہے۔ بلاشبہ وہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے جو اس نے تمہاری  
طرف لوٹا دیا ہے۔“

(۱) — منہاج السنہ لابن تیمیہ، ج ۳، ص ۱۸۵، تحت

السبب السابع، بیان فضائل معاویہؓ۔

(۲) — المنفق الذہبی، ص ۳۸۸ تحت ثناء الأئمة علی معاویہؓ

وحکمہ وسیرتہ... الخ

(۳) — سیر اعلام النبلاء للذہبی، ج ۳، ص ۱۰۰۔ تحت  
ترجمہ معاویہ بن ابی سفیان۔

(۳)

ابن کثیر نے ابن سعد کے حوالہ سے باسند نقل کیا ہے :-  
”... عن محمد بن الحكم ان معاوية لما احتضرا وصى  
بنصف ماله ان يرد الى بيت المال... الخ  
”یعنی امیر معاویہؓ جب قریب الوفات ہو گئے تو اپنے مال  
ممنوع کے متعلق وصیت کی کہ اس کے نصف کو بیت المال میں داخل  
کر دیا جائے“

(البدایہ لابن کثیر، ج ۸، ص ۱۴۱، تحت امیر معاویہؓ۔

- کبار علماء کے فرمودات بالا کے ذریعہ ثابت ہوا کہ
- (۱) — حضرت امیر معاویہؓ کے ہاں دینی مسائل میں حق گوئی کا مسئلہ متروک  
نہیں تھا۔ ان کے سامنے حق بات لوگ کہتے تھے اور وہ اس کو تسلیم کرتے تھے۔
- (۲) — بیت المال کے حق میں امیر معاویہؓ اسلامی نظریات کے خلاف نہیں  
کیے ہوئے تھے بلکہ وہ اس مال کو اللہ اور مسلمانوں کا مال خیال کرتے تھے اور  
اسلامی قوانین کے تحت اسے استعمال میں لاتے تھے۔
- (۳) — آخری ایام میں انہوں نے اپنے مال و ممنوع کے نصف حصہ کو بیت المال  
میں جمع کر دینے کی وصیت کر دی تھی تاکہ بیت المال کے معاملہ میں اگر کوئی  
کوتاہی واقع ہوگی ہو تو اس کی تلافی ہو جائے۔ یہ کمال احتیاط کی علامت  
ہے۔

یہاں سے واضح ہو گیا کہ جو اعتراضات لوگوں نے بیت المال کے

سلسلہ میں امیر معاویہؓ پر وارد کیے ہیں وہ درست نہیں۔

مقرض احباب نے تاریخ سے بیکار مواد فراہم فرما کر بیت المال کے متعلق کس مرتب فرما دیا ہے۔ اللہ انہیں خیر کی توفیق بخشے اور ہدایت نصیب فرما کر قبائلی تعصب اور خاندانی عناد سے محفوظ فرمائے۔ صحابہ کرام کے حق میں سوء ظنی و بدگمانی سے بچا کر حسن ظن نصیب فرمائے جس کی ہمیں مذہب اسلام نے تعلیم و تلقین کی ہے۔

حضرت امیر معاویہؓ کے ساتھ جب سیدنا  
**مثالی شخصیت اور عمد معاشرہ** | حسن ظن نے سلسلہ میں خلافت کے بار

میں صلح و مصالحت کر لی تو اس کے بعد امیر معاویہؓ تمام ممالک اسلامیہ میں واحد خلیفہ تسلیم کر لیے گئے۔ ان کے دورِ خلافت میں دشمنانِ اسلام کے ساتھ جہاد قائم رہا اور فتوحات ہوتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کا کلمہ بلند ہوا۔ اطرافِ ممالک سے غنائم بیت المال میں پہنچنے لگے اور مسلمان راحت و آرام اور عافیت و انصاف و عدل کی زندگی بسر کرنے لگے۔

— امیر معاویہ کی خلافت کے ان حالات کو ابن کثیر نے عبارت ذیل

میں ذکر کیا ہے :-

” واجمعت الرعایا علی بیعتہ فی سنة احدى واربعین

كما قدمنا فلم یزل مستقلاً بالامر فی هذه المدة الی

هذه السنة سنة ۶۵ التي كانت فیها وفاته، والجهاد

فی بلاد العدو قائم وكلمة الله عالیة والغنائم ترد الیه

من اطراف الارض والمسلمون معه فی راحة وعدلٍ

وصیغ وعفو“

(البدایہ لابن کثیر، ص ۱۱۹، ج ۸ - تحت سنہ ۶ھ

ذکر معاویہ بن ابی سفیانؓ)

اور اس سے آگے چند صفحات کے بعد امیر معاویہؓ کے حق میں لکھتے ہیں :-

”انہ کان جید السیرۃ، حسن التجاوز، جمیل العفو،

کثیر الستر رحمة الله عليه -

(البدایہ، ج ۸، ص ۱۲۶ - تحت ذکر معاویہ)

علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ :

”وفضائل معاویۃ فی حسن السیرۃ والعدل والاحسان

کثیرۃ“

”یعنی امیر معاویہؓ کے فضائل حسن سیرت اور عدل و احسان

کے اعتبار سے بے شمار ہیں“

(المنتقى للذہبی، ص ۳۸۸، طبع مصر)

مندرجات بالا کی روشنی میں یہ امر واضح ہو گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہؓ

کی خلافت انصاف و صداقت پر مبنی تھی اور عدل و انصاف کی آئینہ دار تھی۔

اس میں اسلامی قوانین رائج تھے جس کی وجہ سے عوام ہر طرح مطمئن تھے حضرت

امیر معاویہؓ کی قائم کردہ عدالتوں میں اسلامی قوانین کا پورا پورا احترام کیا جاتا تھا اور

مسائل کا حل اسلامی آئین کے مطابق کیا جاتا تھا۔ امیر معاویہؓ کے دور خلافت میں

اسلامی قوانین کی بالادستی ختم کر دینے کا پروپیگنڈہ جو ناقذین کی طرف سے کیا جاتا

ہے وہ تاریخ کے ردی مواد سے تالیف شدہ ہے اور اصل واقعات کے بالکل

برعکس ہے اور امت کے اکابرین کی تصریحات کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ

حافظ ذہبی حافظ ابن کثیر، حافظ ابن تیمیہ وغیرہ اکابر علماء نے اس مسئلہ کی خوب

وضاحت پیش کر دی ہے کہ امیر معاویہؓ کے دور میں آئین شرعی و قوانین اسلامی کو ختم نہیں کر دیا گیا بلکہ عدل و انصاف قائم تھا اور عوام کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا معاملہ جاری و ساری رہتا تھا۔

— اس کے بعد اب وہ عنوانات ذکر کیے جاتے ہیں جن میں حضرت علیؓ

کے خاندان اور امیر معاویہؓ کے خاندان کا قرب اور تعلق معلوم ہوگا۔

## حضرت امیر معاویہؓ اور ان کی جماعت

## حضرت علیؓ اور ان کے خاندان کی نظروں میں

— قبل ازیں عرض کیا گیا ہے کہ اس دور کے اشرار و مفسد عناصر کی کارستانیوں

کی وجہ سے مرکز اسلام (نسیفہ ثالث) کو ایک سازش کے تحت ختم کیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں میں دو طبقے بن گئے۔ ساتھ ساتھ شریر عناصر بھی پیدا شدہ اختلاف کو ہوا دینے کے لیے منقسم ہو کر شامل رہے۔ ایک دوسرے کے حق میں غلط فہمیاں پھیلائی گئیں۔ تنازعہ فیہ چیزوں میں کئی قسم کی بدگمانیاں نشر کر کے شدت پیدا کر دی گئی جو آخر کار جنگ و قتال پر منتج ہوئی اور جمل و صفین جیسے موح فرسا واقعات پیش آئے۔

یہاں ان واقعات کے علل و اسباب اور جنگی امور کی تفصیلات اور ان کے نتائج و عواقب پر بحث منظور نہیں۔ اس وقت ہمیں یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ طرفین میں ان شدید قسم کے تنازعات پیش آنے کے باوجود یہ حضرات ایک دوسرے کے حق میں کیا نظریہ رکھتے تھے؟ اور کیا حکم لگاتے؟ اور ایک دوسرے کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے؟ کیا ان بزرگوں کے دل میں ایک دوسرے کے حق

میں بعض وعناد بھرا ہوا تھا؛ یا ایک دوسرے کو دائمی دشمن خیال کرتے تھے جیسا کہ بعض لوگ ان حالات پر صدیوں گزر جانے کے باوجود آج بھی امیر معاویہؓ کو سب و شتم سے نوازتے رہتے ہیں بلکہ عدم ایمان اور منافقت و فسق کا الزام لگاتے ہیں اور ان کے حق میں سوءظن رکھنا اور بدگمانی پھیلانا فرض منصبی خیال کرتے ہیں۔

— حالانکہ جن حضرات کا باہم وقتی اختلاف ہوا تھا انہوں نے یہ سب کچھ ختم کر دیا ان کی مصالحت ہو گئی اور عام الصلح کے بعد تو تنازعات بالکل ہی ترک کر دیئے گئے۔

عنوان بالا کو واضح کرنے کے لیے اس مقام میں چند ایسی چیزیں پیش کی جاتی ہیں جن سے حضرت علیؓ اور ان کی اولاد کے نظریات امیر معاویہؓ کے حق میں اور ان کی جماعت کے حق میں بین طور پر معلوم ہو سکیں گے۔ اس کے لیے ذیل میں حضرت علی المرتضیٰ اور ان کے خاندان کے فرمودات اور واقعات ایک ترتیب سے

۱۔ قولہ مصالحتہ یعنی حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہؓ کے درمیان (سنتھم) میں صلح و مصالحت ہو گئی تھی۔ اہل علم کی تسلی کے لیے قلیل سی عبارت درج ذیل ہے :-

— وفي هذه السنة (سنتھم) جوت بين علي ومعاوية المهادنة بعد مكاتبات يطول ذكرها على وضع الحرب بينهما وان يكون ملك العراق لعليؓ ولمعاوية الشام۔ ولا يدخل احدهما على صاحب في عمله بحيش ولا غارة ولا غزوة . . . . . وامسك كل واحد منهما عن قتال الآخر۔ وبعث الجيوش الى بلادها واستقر الامر على ذلك “

(۱) — تاریخ ابن جریر طبری، ج ۶، ص ۸۱۔ تحت سنتھم (سنتھم)

(۲) — البدایہ لابن کثیر، ج ۴، ص ۳۲۲، بحوالہ ابن جریر تحت سنتھم



پیش خدمت ہیں ان پر غور فرمائیں :-

امیر معاویہؓ اور ان کے ساتھی سب مومن تھے

ان میں سے فوت شد آدمی کے لیے غسل،

کفن، دفن اور جنازہ کیا گیا

(۱) — سعد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت علی المرتضیٰؓ اپنے مقام  
استراحت سے باہر تشریف لائے۔ عدی بن حاتم الطائی آپ کے ساتھ تھے۔  
قبیلہ طئی کا ایک مقتول آدمی پڑا ہوا تھا۔ حضرت علیؓ کی جماعت کے لوگوں نے  
اسے قتل کر دیا تھا تو اس کو دیکھ کر عدی کہنے لگے کہ افسوس! کل یہ مسلمان تھا،  
آج کافر ہو کر مرا پڑا ہے تو حضرت علیؓ نے فرمایا کھڑیے (یعنی فتویٰ میں  
جلدی نہ کیجیے)۔ یہ کل بھی مومن تھا، آج بھی مومن ہے۔ (یعنی ہمارے مقابل  
ہو جانے سے بے ایمان نہیں ہوا، مومن ہے)۔

..... عن سعد بن ابراہیم قال خرج علی بن ابی  
طالب ذات یومٍ ومعه عدی بن حاتم الطائی فاذا رجل من  
طئی قتیل قد قتلہ اصحاب علیؓ فقال عدی یا ویح ہذا کان  
امس مسلماً والیوم کافراً فقال علیؓ مہلاً کان امس مومنًا  
وهو الیوم مومنٌ۔

(۱) — تاریخ ابن عساکر کامل، ج ۱، ص ۳۳۰، طبع دمشق۔

(۲) — تلخیص ابن عساکر، ج ۱، ص ۳، لابن بدران عبدالقادر

بن احمد المشهور باب بدران المشقی، باب ماورد  
من اقوال المنصفین فی من قتل من اهل الشام  
بصفین -

(۲) — مکحول کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے ساتھیوں میں سے جو قتل ہو گئے تھے  
ان کے متعلق حضرت علیؓ سے خود حضرت علیؓ کے ساتھیوں نے سوال پیش کیا۔  
تو حضرت علیؓ نے فرمایا وہ مومن ہیں۔“

”..... محمد بن راشد عن مکحول ان اصحاب علیؓ سألوه  
عن من قتلوا من اصحاب معاویة قال هم المؤمنون“  
وفی روایة عن من قتل بصفین ما هم؟ قال هم المؤمنون“

(۱) — تاریخ ابن عساکر کامل، ج ۱، ص ۳۳۰۔ طبع دمشق

(۲) — تلخیص ابن عساکر لابن بدران، ص ۳، طبع اول  
باب مذکور

(۳) — منهاج السنہ لابن تیمیہ، ج ۳، ص ۶۱ -

(۴) — المنتقی للذہبی، ص ۳۳۵۔ طبع مصری -

(۳) — عقبہ بن علقمہ الیشکری کہتے ہیں کہ میں حضرت علیؓ کے ساتھ صفین  
کی جنگ پر حاضر تھا۔ حضرت علیؓ کی خدمت میں امیر معاویہ کے ساتھیوں میں  
سے چند رہے۔ عدو قیدی قید کر کے لاتے گئے۔ ان میں سے جو فوت ہو گیا اس  
کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا اور اس پر حضرت علیؓ نے نماز جنازہ پڑھی۔“

— قال عقبہ بن علقمہ الیشکری شہدت مع علیؓ

یوم صفین فأتی بخمسة عشر سیراً من اصحاب معاویة

فکان من مات منهم غسله وکفنه وصلی علیہ“

تلخیص ابن عساکر، ج ۱، ص ۴۷، طبع اول، لابن بدران  
باب ماورد من اقوال المنصفین فممن قتل من اهل الشام  
بصفین۔

علوی ارشادات کے ذریعہ صاف معلوم ہوا کہ جن کا حضرت علیؑ سے اگرچہ  
مقابلہ کسی وجہ سے ہو گیا وہ مومن تھے، ایما نذارتھے۔ ان کا غسل، کفن و دفن، جنازہ  
سب صحیح تھا اور حضرت علیؑ نے کیا تھا۔ ان کو مومن نہ جانا حضرت علیؑ کی نافرمانی  
ہے اور ان کے طریق کے خلاف ہے۔

## صفین کے مقتولین کا حکم حضرت علیؑ کے فرمان سے

### یعنی سب جنتی ہیں

— جنگ صفین حضرت علی المرتضیٰؑ اور حضرت امیر معاویہؓ کی جماعتوں

کے درمیان ماہ صفر ۳۷ھ میں پیش آئی۔ اہل فساد اپنے مذموم مقصد رافراق و  
انتشار میں، کامیاب ہو گئے۔

دونوں حضرات اپنی اپنی مجتہدانہ راستے کی بنا پر قتال کے ترکیب ہوتے لیکن  
قتال میں شرعی حدود سے متجاوز نہیں ہوتے۔ مثلاً قتال سے ہٹنے والے کے درپے  
قتل نہیں ہوتے۔ قیدیوں کو قتل نہیں کیا۔ کسی عورت کا پردہ نہیں اٹھایا۔ کسی شخص  
کا مال نہیں لوٹا۔ جس نے ہتھیار ڈال دیے اس کو امان دے دی۔ مقتول کے ہتھیار  
اور لباس نہیں اتارے۔ کسی مرد مسلمان کو غلام نہیں بنایا، نہ کسی عورت مسلمہ کو لونڈی  
قرار دیا اور فریقین کے اموال کو مال غنیمت نہیں سمجھا وغیرہ۔

— ان احکامات کے لیے مندرجہ ذیل مقامات ملاحظہ فرمائیے :-

(۱) المصنف لابن ابی شیبہ، ج ۴ (قلمی) پیرچھنڈا سندھ، ص ۱۰۱۸۔ باب الجمل

(۲) فتح القدير شرح ہدایہ، ج ۴، ص ۴۱۲۔ باب البغاة۔ طبع مصر۔

(۳) نصب الراية للزبيعي، ج ۳، ص ۴۶۳۔ باب البغاة۔

(۴) الاخبار الطوال للدينوري الشيعي، ص ۱۵۱۔ تحت وقعة الجمل طبع مصر۔

یہاں سے معلوم ہو گیا کہ یہ باہمی قتال کس نوعیت کا تھا؟

اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کی طرف سے وہاں کے مقتولین کے

لیے باعتبار انجام کے فیصلہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ سے سوال کیا گیا کہ جو

اس جنگ میں مارے گئے ان کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ ہمارے اور معاویہ کی جماعت

کے مقتولین جنت میں جائیں گے۔۔۔ الخ

”... سئل علی عن قتال يوم الصفين فقال قتلانا وقتلناهم

في الجنة وسيصير الامر الى والي معاوية“

(۱)۔ المصنف لابن ابی شیبہ، ج ۴، ص ۳۶۱ (قلمی) پیرچھنڈا

سندھ، باب ما ذکر فی الصفین۔

(۲)۔ مجمع الزوائد للہیثمی، ج ۹، ص ۳۵۷۔ بحوالہ الطبرانی

باب ما جاء فی معاویة بن ابی سفیانؓ۔

(۳)۔ کنز العمال، ج ۶، ص ۸۷۔ تحت واقعة الصفین

طبع اول۔

(۴)۔ سیر اعلام النبلا للذہبی، ج ۳، ص ۹۵، تذکرہ

معاویةؓ۔

# حضرت علیؑ کے فرمان کی روشنی میں

## شُرکائے جمل و صفین کا درجہ

— اس عنوان کے تحت یہ چیز پیش کی جاتی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ حضرت علیؑ کو قتال کی نوبت پہنچی ہے (مثلاً معرکہ جمل و صفین میں شریک ہونے والے حضرات) تو ان کے متعلق حضرت رضیؑ نے کیا اظہارِ خیال فرمایا ہے؟ اور ان کو کس درجہ میں شمار کیا ہے؟ تو اس مسئلہ میں حضرت موصوف کا بیان یہ ہے کہ حضرت سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ لوگ مُشرک ہیں جن سے آپ نے جنگ کی ہے؟ حضرت علیؑ نے فرمایا نہیں وہ مُشرک نہیں۔ وہ تو مُشرک و کُفر سے فرار ہو کر مسلمان ہوئے۔ پھر عرض کیا گیا وہ منافق ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، منافق بھی نہیں، منافق تو خدا کو کم یاد کرتے ہیں۔ پھر سوال ہوا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ اور کیا درجہ ہے؟ اس وقت حضرت علیؑ نے فرمایا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ انہوں نے ہمارے خلاف زیادتی کی۔

”..... سئل علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ و هو

القدوة عن قتال اهل البغی من اهل الجمل والصفین

امشركون هم؟ قال لا! من الشرك فرّوا۔ فقیل اُمنافقون؟

قال لا! لان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلاً۔ قیل له

فما حالهم؟ قال اخواننا بغوا علینا“

(۱) المصنّف لابن ابی شیبہ، ج ۴، ص ۱۰۱۳ (المتوفی ۲۳۵ھ)

باب الجمل رِقمی در کتب خانہ پیر محمد سندھ

(۲) — السنن الکبریٰ للبیہقی، ج ۸، ص ۱۷۳، کتاب  
 قتال اہل البغی طبع دکن۔

(۳) — الجامع لاحکام القرآن (تفسیر القرطبی) جلد سادس عشر  
 ص ۳۲۲ تحت آیتہ فاصلموا بین انجویم۔ سورۃ  
 حجرات، پارہ ۲۶۔

تنبیہ :- اہل علم کی اطلاع کے لیے عرض ہے۔ حضرت علیؑ کا یہ فرمان بے شمار  
 علمائے اپنے اپنی تصانیف میں درج کیا ہے۔ اختصار کے پیش نظر عرض ہے کہ یہ  
 تفاسیر میں سورۃ حجرات میں ہے۔ روایات کی کتابوں میں جمل و صفین کے تحت  
 ہے۔ فقہائے کرام نے اہل البغی کے احکام کی بحث میں اسے نقل کیا ہے۔ اور  
 تاریخی کتب میں بھی ان بحثوں کے تحت یہ مرتضوی قول مذکور ہے۔ حتیٰ کہ شیعہ کاہر  
 نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جعفر صادقؑ سے روایت کیا ہے۔ وہ اپنے والد  
 حضرت امام باقرؑ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ اپنے مقابلین (جمل و صفین والوں)  
 کے حق میں شرک اور نفاق کی نسبت نہیں کرتے تھے بلکہ فرماتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے  
 بھائی ہیں، ہمارے خلاف زیادتی کرنے لگے۔

..... جعفر عن ابیہ ان علیاً علیہ السلام لم یکن

ینسب احداً من اهل حربہ الی الشریک ولا الی النفاق و

لکن یقول ہما نوا ننا یغوا علینا۔

(رسالہ قرب الاسناد لعبد اللہ بن جعفر الحمیری الشیعی،

ص ۲۵۔ من علماء القرن الثالث طبع قدیم ایران۔)

# بنی کے مفہوم کی وضاحت حضرت علیؓ کی زبانی

— حضرت علیؓ نے جمل و صفین والے حضرات کے حق میں جو نظریہ مذکورہ (اخواننا بَعُوا عَلینا) یعنی یہ ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے خلاف ہو رہے ہیں، میں ظاہر فرمایا ہے۔ اس کی وضاحت میں لوگوں نے بہت کلام کیا ہے لیکن اس کی تشریح اگر حضرت علیؓ کے دیگر اقوال کی روشنی میں کی جائے تو بہت مناسب ہوگی اور طویل بحثوں میں پڑنے کی حاجت ہی نہ رہے گی۔ وہ اس طرح ہے کہ اسی جمل و صفین کے قتال کے موقع پر بعض لوگ حضرت علیؓ کی طرفداری کرتے ہوئے ان کے ساتھ مقابلہ پر آنے والے لوگوں کے حق میں غلو کرنے لگے۔ یعنی کفر کی نسبت کرنے لگے تو حضرت علیؓ نے فرمایا کہ ایسا مت کہو۔ کوئی کلمہ خیر ہی کہو، فرمانے لگے کہ ان لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے ان کے خلاف بغاوت کی ہے۔ اور ہم نے یہ گمان کیا ہے کہ انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی (پس اس پر قتال واقع ہوا)۔

ابن عساکر نے بالفاظِ ذیل یہ روایت باسند ذکر کی ہے:

— نا بوزرعة عن جعفر بن محمد عن ابيه قال سمع  
علیؓ یوم الجمل او صفین رجلاً یغلو فی القول یقول الکفر  
قال لا تقولوا فانهم زعموا انا بغینا علیهم وزعمنا انهم  
بغوا علینا۔

— ابن تیمیہ الحمرانی نے مسند اسحاق بن راہویہ سے باسند اس روایت

کو بالفاظِ ذیل نقل کیا ہے۔

”..... سفیان عن جعفر بن محمد عن ابیہ قال سمع  
علیٰ یوم الجمل ویوم الصفین رجلاً یغلو فی القول فقال لا  
تقولوا الا خیراً انما هم قوم زعموا اننا بغینا علیہم و  
زعمنا انہم بغوا علینا فقاتلناہم۔“

(۱)۔ تاریخ ابن عساکر کامل، جلد اول، ص ۳۲۹۔

طبع دمشق۔ سن طباعت ۱۳۷۱ھ  
۱۹۵۱ء

(۲)۔ تہذیب ابن عساکر لابن بدران، ج ۱، ص ۷۳۔

باب ماورد من اقوال المنصفین فمن قیل من  
اہل الشام بصفین۔

(۳)۔ منہاج السنہ لابن تیمیہ، ج ۳، ص ۶۱ تحت الکلام

ولما قال السلف ان اللہ امر بالاستغفار لاصحاب

محمد صلی اللہ علیہ وسلم فسبہم الرافضۃ۔ الخ

(۴)۔ المنتقی للذہبی، ص ۳۳۵۔ طبع مصر۔ سن طباعت

۱۳۷۴ھ۔

اب ہم اس مطلب کو شیعہ بزرگوں کی روایت کے ذریعہ پختہ کرتے ہیں۔  
اور اس کی تائید ان کی معتبر کتب سے پیش کرتے ہیں تاکہ سنی و شیعہ احباب  
دونوں فریق کو اس مسئلہ پر غور و غوض کرنے کا موقعہ دستیاب ہو جائے۔

”... امام جعفر صادقؑ نے امام محمد باقرؑ سے نقل کیا ہے۔ محمد باقر

فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰؑ اپنے اہل حرب رجن سے ان کو

قتال کا سامنا ہوا، کے حق میں فرماتے تھے کہ ہم ان سے ان کی



تکفیر کی بنا پر نہیں قتال کر رہے اور نہ اس وجہ سے قتال کر رہے ہیں کہ وہ ہماری تکفیر کرتے ہیں (یہ بات نہیں ہے) بلکہ بات یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ یقیناً ہم حق پر ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ یقیناً وہ حق پر ہیں۔

..... جعفر عن ابیہ ان علیاً علیہ السلام کان یقول  
لاہل حربہ انا لم نقاتلکم علی التکفیر لہم ولہم نقاتلکم  
علی التکفیر لنا ولکنار ائینا انا علی حق و راوا انہم  
علی حق۔“

(قرب الاسناد بعبداللہ بن جعفر الحمیری الشیعی مع رسائل دیگر  
از علماء القرن الثالث، ص ۴۵ طبع ایران قدیمی طبع)  
— مختصر یہ ہے کہ حضرت علیؑ کے فرمودات کی روشنی میں مسئلہ اس  
طرح حل ہوا کہ ”اخواننا بغوا علینا“ میں ”اخوت دینی“ مراد ہے اور بغی سے  
”بغاوت لغوی“ مراد ہے۔ یعنی زیادتی اور حد سے تجاوز کرنا، طلب کرنا، وغیرہ  
اور اصطلاحی بغاوت مقصود نہیں ہے۔ اس کے متعلق مندرجہ بالا روایات  
بطور قرینہ کے ہم نے عرض کر دی ہیں۔

وجہ یہ ہے کہ ”بغاوت اصطلاحی“ اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک خلیفہ برحق  
کے خلاف کسی شخص کا اپنی رائے اور تاویل کی بنا پر کھڑے ہونا۔ اور حضرت  
علیؑ تو کسی خلیفہ کے باغی نہ تھے۔ پھر بھی فرماتے ہیں کہ ان کا گمان ہے کہ ہم نے  
ان پر بغاوت کی۔ تو معلوم ہوا کہ مذکورہ کلمات میں بغاوت شرعی یا اصطلاحی  
مراد نہیں بلکہ لغوی معنی مقصود ہیں۔

### خلاصہ کلام

حضرت علی المرتضیٰؑ حضرت امیر معاویہؓ کو مشرک نہ جانتے تھے، نہ منافق کہتے

تھے، نہ کافر کہتے تھے، نہ فاسق کہتے تھے بلکہ

(۱) — ہر ایک فریق دوسرے فریق کو دینی برادر یقین کرنے کے بعد ایک دوسرے پر تجاوز کرنے یا زیادتی کرنے کا گمان کرتے تھے اس سے زیادہ کچھ نہیں۔

(۲) — ہر ایک طبقہ اپنے آپ کو حق پر خیال کرتا تھا اور دوسرے کو ناحق جانتا اور خطا پر گمان کرتا تھا۔ (اسی نقطہ نظر پر قبائل واقع ہوا) اور اسی کو اجتہادی خطا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

(۳) — حضرت علیؑ نے (ان برگشتہ حالات کے باوجود) یہ خصوصی فرمان جاری کر رکھا تھا کہ ہمارے مقابلین کے حق میں ”کلمہ خیر“ کے بغیر بالکل لب کشائی نہ کی جائے لاقولوا الا خیراً یعنی ان کے حق میں بہتر بات کے سوا کچھ نہ کہو) کا اعلان کیا ہوا تھا۔ جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔

— مسئلہ انڈیا کو مشہور شاعر حالی مرحوم نے اپنی تصنیف ”مسدس حالی“ میں ایک صیح انداز میں نظم کیا ہے۔ یہاں اس کے صرف دو شعر ناظرین کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔

اگر اختلاف ان میں باہم دگر تھا  
تو بالکل مدار اس کا اخلاص پر تھا

جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں تر تھا

خلاف، آشتی سے خوش آئندہ تر تھا

(مسدس حالی، ص ۲۵)

— (۶) —

## مسئلہ کی تنقیح

### شرح مواقف کی عبارت میں تاسیح

(یہ بحث اہل علم کے لیے مناسب ہے)

جب مسئلہ لغوی اور بغاوت کا سامنے آیا ہے تو یہاں پر بعض شبہات کا ازالہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ بعض مستنصین کی عبارات اس مقام میں موہم ہیں، غلط فہمی کا ان سے اندیشہ ہوتا ہے۔ مثلاً:

— شرح مواقف میں امامت کے مباحث المقصد السابع میں حضرت علیؑ کے محاربین کے حق میں علماء کے اقوال نقل کرتے ہوئے شارح نے درج کیا ہے۔  
”و منهم من ذهب الى التفسير كالشيعة وكثير من

اصحابنا“

(شرح مواقف، ج ۸، صفحہ ۴۳، ۳۴۔ بلع مصری تحت

المقصد السابع)

اب اس کے جواب کے لیے امام ربانیؒ کا مکتوب پیش خدمت ہے جس سے اصل مسئلہ واضح ہوتا ہے اور دیگر علماء کے اقوال بھی ملاحظہ ہوں۔

### اولاً

۱۔ امام ربانیؒ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں :-

— وآنچه شارح مواقف گفته که بسیارے از اصحاب ما

برآں اند کہ آن منازعت از روتے اجتہاد نبوده مراد از اصحاب  
 کدام گروه راد استہ باشد اہل سنت برخلاف آن حاکم اند  
 چنانکہ گذشت و کتب القوم مشحونہ بالخطا الاجتہادی کما صرح بہ  
 الامام الغزالی و القاضی ابوبکر و غیرہما پس تفسیق و تضلیل در حق  
 محاربان حضرت امیر جازز نباشد۔۔۔ الخ

در مکتوبات امام ربانی، ص ۲۷۲-۲۷۳، ج ۱، ذکر اول  
 حصہ چہارم، مکتوب ۲۵۱، طبع قدیم نول کشور کھنڈ  
 و طبع جدید لاہور، ص ۶۷-۶۸، حصہ چہارم، پنجم، ششم  
 نور کمپنی لاہور۔

یعنی یہ بات جو شارح مواقف نے ذکر کی کہ ہمارے لوگوں میں سے  
 بہت لوگ اس طرف ہیں کہ حضرت علیؓ و حضرت معاویہؓ کا باہمی تنازع اجتہاد  
 کی بنا پر نہیں تھا۔ ان سے کون گروہ مراد ہیں۔ جیسا کہ گذر چکا ہے کہ اہل سنت  
 نے تو اس کے خلاف حکم دیا ہے اور اس مسئلہ کو خطا اجتہادی قرار دینے پر  
 تمام قوم کی تصانیف پر ہیں۔ امام غزالیؒ، قاضی ابوبکر، ابن عربی و غیرہما علمائے  
 تصریح کردی ہے کہ بنا بریں حضرت علیؓ کے غلات جنگ کرنے والوں کے حق میں فسق و  
 غلات کا حکم لگانا جائز نہیں۔

۲۔۔۔ اس بحث کو مزید منصل دیکھنا کسی اہل علم کو مطلوب ہو تو کتاب التہد  
 ابوشکور سالمی تحت قول السابع، صفحہ ۱۷۸ (طبع لاہور) ملاحظہ فرمادیں، ابوشکور  
 سالمی نے دلائل کے ساتھ ان لوگوں سے فسق کی نفی کی ہے۔

۳۔۔۔ اور علامہ تفتازانی نے شرح المقاصد، المبحث السابع، میں اہل صفین  
 کے متعلق تصریح کی ہے کہ ویسوا کفاراً ولا فسقۃ ولا ظلمۃ لہم من

التاویل وان کان باطلا فغایة الامر انهم اخطا وافی الاجتهاد  
وذلك لا یوجب التفسیق فضلا عن التکفیر ولهذا منع  
علی اصحابه من لعن اهل الشام وقال اخواننا بغوا علینا۔ الخ  
(شرح المقاصد، ص ۲۲۳، ج ۲۔ بحث سابع)

(تفق اہل الحق۔ طبع استنبول)

۴۔۔۔ اسی طرح ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں بیان خلافتِ علی کے تحت  
لکھا ہے: ثم کان معاویةً مخطیاً الی انہ فعل ما فعل عن تاویلِ فلم  
یصر بہ فاستقا۔

(شرح فقہ اکبر صفحہ ۸۲۔ طبع مجتہبائی دہلی)

یعنی حضرت علی کے مقابلہ میں امیر معاویہ نے جو کچھ کیا وہ تاویل کی بنا پر تھا۔  
وہ مخطی ہیں لیکن فاستقی نہیں۔

۔۔۔ مختصر یہ کہ مجدد الف ثانی ابوشکو سالمی۔ تفتازانی، ملا علی قاری وغیر ہم  
کبار علماء نے اہل صفین کے حق میں فسق اور ظلم کی نسبت کرنے کی نفی کر دی  
ہے۔ فلہذا "سارح مواقف" کا مذکور قول تحقیق کے خلاف ہے اور  
تسارح پر محمول ہے۔

(عافاہ اللہ تعالیٰ)

ثانیاً

بعض فقہاء نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں "جور اور جائز"  
کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔

ہدایہ بلد ثالث کتاب ادب القاضی میں مندرجہ ذیل عبارت پائی  
جاتی ہے۔

”ثم يجوز التقليد من السلطان الجائر كما يجوز من العادل  
لان الصحابة رضی اللہ عنہم تقلدوا من معاوية والحق  
كان بيد علي في نوبته - اس مضمون کے تحت فتح القدير میں  
مذکور ہے کہ هذا تصریح بجور معاوية“

— اس مسئلہ کی وضاحت کے لیے ایک تو یہ چیز ذکر کی جاتی ہے کہ ہدیہ  
کی عبارت میں لفظ (فی نوبتہ) مخالف کے اعتراض کے جواب کے لیے کافی ہے  
اس لیے کہ ہمارے نزدیک بھی حضرت علیؑ کی زندگی میں خلافت حضرت علیؑ کی صحیح ہے  
اور امیر معاویہؓ کی خلافت صحیح نہیں، بلکہ خطا و اجتہاد پر محمول ہے اور امیر معاویہؓ  
اس مسئلہ میں مجتہد ہیں (المجتهد قد یخطئ ویصیب)

دوسری یہ چیز ہے کہ اس کی شرح فتح القدير میں مذکورہ الفاظ (هذا تصریح  
بجور معاویہ) کے متصلاً بعد یہ عبارت موجود ہے جس سے اعتراض رفع ہو سکتا ہے  
وہاں لکھا ہے :-

”والمراد في خروجہ لانی اقصیتہ ثم انما يتم اذا ثبت انه

ولی القضاء قبل تسلیم الحسن له واما بعد تسلیمہ فلا“

(فتح القدير شرح ہدایہ، ج ۵، ص ۴۶۱ - معہ غایتہ

کتاب ادب القاضی - طبع مصر)

نیز اس مسئلہ کا حل امام ربانی مجدد الف ثانیؒ نے اپنے مندرجہ ذیل مکتوب میں  
کر دیا ہے، بشرط انصاف وہ کافی وافی ہے۔ ذیل میں اس کو بعینہ ذکر کیا جاتا  
ہے، ملاحظہ فرمائیے :-

”آنچه در عبارات بعضی از فقہا لفظ جور در حق معاویہ واقع شدہ

است وگفتہ کان معاویہ اما جائراً مراد از جور عدم حقیقت خلافت

اور در زمان خلافت حضرت امیر خواہد بود نہ جوریکہ مالش فسق و ضلالت  
ست تا با قوال اہل سنت موافق باشد۔ مع ذالک ارباب استقامت  
از اتیان الفاظ موہومہ خلاف مقصود اجتناب می نمایند و زیادہ  
بر خطا تجویز نمی کنند کیف یكون جائراً وقد صح انہ کان اما عادلاً فی حقوق  
اللہ و فی حقوق المسلمین کما فی الصواعق

د مکتوبات امام ربانی طبع قدیم نول کشور کھنوس ۲۴، ج ۱۔  
مکتوب دوسد و پنجاہ و یکم (۲۵۱) بنام مولانا محمد شرف  
دفتر اول حصہ چہارم۔ نور کمپنی لاہور ص ۴۸-۴۹

یعنی بعض فقہاء کی عبارات میں امیر معاویہ کے حق میں جور یا امام جائز  
کا کلمہ استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت علیؓ کے دور  
خلافت میں امیر معاویہ کی خلافت ناحق اور غیر صحیح تھی۔ جور سے یہ مراد  
نہیں ہے جس کا انجام فسق و ضلالت ہوتا ہے تب یہ مسئلہ اہل سنت  
کے اقوال کے موافق ہوگا۔ نیز اس قسم کے موہوم القاب جو مقصود کے  
خلاف ہوں استعمال کرنے سے ارباب استقامت اجتناب کرتے  
ہیں۔ خطاء اجتہادی سے زیادہ کچھ نہیں تجویز کرتے، امیر معاویہ کس  
طرح جائز ہیں حالانکہ وہ امام برحق تھے اور حقوق اللہ اور حقوق اہل  
اسلام کے حق میں عادل تھے، جیسا کہ صواعق محرقة میں منقول ہے۔

## فریقین دینی معاملہ میں متفق و متحد تھے

دونوں حضرات (حضرت علیؓ و امیر معاویہؓ) دین و مذہب کے اعتبار سے  
ایک تھے۔ ان میں دین و مذہب کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ چیز ہم

اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک تو مسلمات میں سے ہے لیکن شیعہ کی معتبر کتابوں میں بھی یہ مسئلہ اس طریقہ سے درج ہے کہ حضرت علیؑ اور اہل صفین کے درمیان جو ماجرا پیش آیا تھا اس کو علی المرتضیٰ نے کھوا کر اکناف و اطراف ملک میں نشر کرایا فرمایا کہ ہمارا اور اہل الشام کا تقابل ہوا ہے۔ حالانکہ ظاہر بات ہے ہمارا رب ایک ہے ہمارے نبی ایک ہیں۔ اسلام میں ہماری دعوت دینی ایک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے اور اس کے نبی کی تصدیق کرنے میں نہ ہم ان سے زیادہ ہیں، نہ وہ ہم سے زیادہ ہیں پس ان کا اور ہمارا دینی معاملہ بالکل ایک جیسا ہے۔ کوئی فرق نہیں مگر خون عثمانؓ کے بارے میں ہمارا اور ان کا اختلاف ہو گیا ہے۔ حالانکہ ہم اس سے بری الذمہ ہیں۔

— و من کتاب لہ علیہ السلام کتبہ الی اہل الامصار  
 یقتض فیہ ما جرى بیئہ و بین اہل صفین وکان بدأ  
 امرنا انا التقینا و القوم من اہل الشام و الظاہر ان ربنا  
 واحد و نبینا واحد و دعوتنا فی الاسلام واحدہ ،  
 لا نستزید ہم فی الایمان باللہ و بالتصدیق برسولہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم و لا یتزید ونا و الامر واحد  
 الا ما اختلفنا فیہ من دم عثمان و نحن منہ برآء ۛ

(۱) نہج البلاغہ، کتاب لہ علیہ السلام الی اہل  
 الامصار، ج ۲، ص ۱۱۳۔ طبع مصری، مع  
 حواشی عبیدہ۔

(۲) درۃ نجفیہ، شرح نہج البلاغہ، ص ۳۴۴۔ طبع  
 قدیم ایرانی۔ تحت متن المذكور۔



# امیر معاویہؓ اور ان کی جماعت کو سب و شتم کرنا حضرت علی المرتضیٰؓ کے مطابق ممنوع ہے

یہ دونوں فریق مذہب کے اعتبار سے ایک جماعت ہیں اور دین اسلام کی حیثیت سے ایک چیز ہیں۔ ان حضرات کا باہمی کچھ فرق نہیں۔ صرف ایک دو چیزوں میں رائے اور فکر کا اجتہادی اختلاف (یعنی قتل عثمانی اور قاتلان عثمان کے متعلق تھا۔

اس بنا پر حضرت علی المرتضیٰ کی خدمت میں جب بھی اپنے مقابل فریق پر لعن طعن کا مسئلہ پیش ہوا تو آپ نے اپنے حمایتیوں کو اس شنیع فعل سے بر ملا منع کر دیا اور بار بار منع کیا۔ ذیل میں اس کی وضاحت ملاحظہ کریں۔

عبداللہ بن صفوان کہتے ہیں کہ جنگ سنین کے روز ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ شام والوں پر لعنت فرما۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس کو فرمایا کہ شام کی جماعت کو مت سب و شتم کرو یقیناً اہل شام میں ابدال ہیں۔ روئین بار اسی طرح فرمایا۔

عن عبد اللہ بن صفوان قال قال رجل یوم صفین اللہم العن اهل الشام قال فقال علی لا تنسب اهل الشام جماعاً خفیراً فان بها الابدال فان بها الابدال فان بها الابدال

(۱) — المسنف لعبد الرزاق ج ۱۱ ص ۲۴۹ باب الشام

(۲) — التاريخ لابن عساکر کامل، ج ۱، ص ۳۲۳، مطبوعہ دمشق، باب انہی عن سب اهل الشام

(۳) — البدایہ لابن کثیر، ج ۸، ص ۲۰، باب ذکر معاویہ بن ابی سفیان و ملکہ۔

— شرح بن عبید ذکر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ علی المرتضیٰ کی خدمت میں اہل شام کا ذکر ہوا اور لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ اے امیر المؤمنین! شام والوں پر لعنت کیجیے۔ آپ نے فرمایا "بالکل نہیں، میں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ شام میں ابدال ہونگے اور پالیس شخص ہونگے۔ ایک گرفت ہو جائے گا تو اس کی جگہ دوسرا مقرر ہوگا۔۔۔ الخ

”عن شرح بن عبید قال ذکر اهل الشام عند علی وقيل العنم  
یا امیر المؤمنین قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
الابدال یكونون بالشام وھو اربعون رجلاً کلامات رجل  
ابدال اللہ مکانه رجلاً۔۔۔ الخ

(۱) مشکوٰۃ شریف، ص ۵۸۲-۵۸۳۔ بحوالہ احمد باب

ذکر اہل الیمین والشام

(۲) مجمع الزوائد و منبع الفوائد لنور الدین البیہقی، ص ۶۲

ج ۱۰، باب ماجاء فی الابدال وانہم بالشام۔

حضرت علیؑ کے یہ چند اقوال اپنی کتابوں سے پیش کیے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علیؑ کے فرامین شیعہ احباب کی کتب سے تحریر کیے جلتے ہیں۔

## شیعہ کتب سے تائید

چنانچہ ایک دفعہ حضرت علیؑ کے ساتھیوں نے صفین کے مقام میں جنگ کے دوران امیر معاویہؓ اور ان کے ساتھیوں کو سب و شتم اور لعن طعن کرنا شروع کر دیا۔ یہ حضرت علیؑ نے سن لیا تو اس بات سے فوراً منع فرمایا۔ اور فرمایا کہ میں تمہارے لیے اس چیز کو برا جانتا ہوں کہ تم دشنام دینے والے اور لعن طعن کرنے والے بن جاؤ۔ لیکن



يظهر ان شتم معاوية و لعن اهل الشام فارسل اليهما ان  
كفا عما يبلغني عنكما فاتياها فقالا يا امير المؤمنين! السنا  
على الحق؟ وهم على الباطل، قال بلى! ورب الكعبة المسدنة  
قالوا فلم تمتعنا من شتمهم و لعنهم؟ قال كرهت لكم ان  
تكونوا شتامين، لعانين، ولكن قولوا اللهم احقن دما لنا و  
دما لهم و اصلح ذات بيننا و بينهم و اهدهم من  
ضلالهم حتى يعرف الحق من جهله و يرعوى عن الغي من  
الجميد

(الانبار الطوال للدينوري الشيعي، ص ۱۶۵- تحت وقعة

الصفين - طبع القاهرة مصر)

رد یعنی مطلب یہ ہے کہ صفین کے موقع پر حضرت علیؑ کے ساتھیوں حجربن  
عدی، عمرو بن الحمق وغیرہ نے امیر معاویہ کو سب و شتم کرنا اور اہل شام کو لعن  
طعن کرنا شروع کر دیا۔ حضرت علیؑ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے ان کو  
آدمی بھیج کر فرمان جاری کیا کہ اس سب و شتم لعن طعن سے رک باؤ تو وہ  
دونوں حضرت علیؑ کے ہاں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین کیا ہم حق  
پر نہیں؟ اور وہ باطل پر نہیں؟ حضرت علیؑ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے ربت  
کعبہ کی قسم! پھر وہ کہنے لگے آپ ہم کو ان کو سب و لعن کرنے سے کیوں  
منع کرتے ہیں؟ تو حضرت علیؑ نے فرمایا کہ میں تمہارے کالی دینے والے اور  
لعن کرنے والے بننے کو مکروہ جانتا ہوں بلکہ تم لوگوں کہو کہ اے اللہ ہم  
دونوں فریق کو خونریزی سے بچا لے اور ہمارے درمیان اصلاح فرما لے  
اور ان کو ان کے بھٹک جانے سے ہدایت فرما۔ حتیٰ کہ حق سے ناواقف حق بات

کو سچان لے اور نزاع کرنے والا شخص جھگڑنے سے باز رہ جائے :-

(الاخبار الطوال للدينوري الشيعي، ص ۱۲۵ تحت

وقعة الصفين - طبع القاہرہ مصر)

سوم۔۔۔۔۔ شیخ ابو جعفر الطوسی شیعہ نے "الامالی" میں حضرت علی المرتضیٰ کی اپنے دوستوں

کو وصایا نقل کی ہیں اور ان وصیتوں میں یہ مسئلہ درج ہے کہ حضرت علی فرماتے

ہیں کہ "میں تم کو نماز کی وصیت کرتا ہوں۔۔۔۔۔ زکوٰۃ کی وصیت کرتا ہوں،

جہاد کی وصیت کرتا ہوں۔۔۔۔۔ اور اپنے نبی کے اصحاب کے متعلق

تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان کو سب و شتم مت کرنا۔۔۔۔۔"

"..... و اوصیکم بالصلوة..... والذکوۃ..... والجماد

..... و اوصیکم باصحاب نبیکم لا تسبواہم الخ"

(الامالی للشیخ الطوسی الشیعہ، ص ۱۲۶، ج ۲)

طبع نجف اشرف (مراق)

حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہنے والے لوگ حضرت علیؑ کے ان فرمودات پر

نظر کریں اور ان کے طریق کار پر غور سے توجہ کریں۔ اس کے بعد اپنے رویہ کے متعلق سوچیں

کہ کہاں تک درست ہے؟ حضرت معاویہ کی عداوت میں کہیں وہ حضرت علیؑ کے فرمان

کے باغی تو نہیں بن گئے؟ اور عمل و کردار کے اعتبار سے ان کے نافرمان تو نہیں ہو گئے؟

## حضرت امیر معاویہؓ کے ساتھ حضرات حسنین کا

## صلح اور بیعت کرنا اور نارعات کو ختم کر دینا

— اُس دور کے مفسدین مثلاً عبداللہ بن سبا وغیرہ کی کارستانیوں کے نتائج

کی وجہ سے مسلمانوں میں اگرچہ جمل و صفین کے واقعات پیش آچکے تھے تاہم حضرت علی المرتضیٰ کی وفات کے بعد حضرت سیدنا حسنؓ نے حضرت امیر معاویہؓ سے صلح و مصالحت کر کے بیعت کر لی۔ یہ باہمی مصالحت و صلح نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت و پیش گوئی کے موافق ہوئی تھی۔ فرمان نبوی تھا کہ ابنی ہذا سید سیصلہ اللہ بہ بین الفئتين العظیمین من المسلمین یعنی یہ میرا بیٹا سردار ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرادے گا۔

(بخاری شریف، ج ۱، ص ۵۳۰۔ باب مناقب

الحسن والحسین)

اور حضرت سیدنا حسینؓ بھی اپنے برادر حضرت حسنؓ کے ساتھ متفق ہو گئے۔

”مسئلہ خلافت“ امیر معاویہؓ کے سپرد کر دیا۔ امت اسلامیہ کی خیر خواہی کے پیش نظر وقتی مناقشات ختم کر دیئے۔ اور اتحاد و اتفاق کا راستہ ہموار کر دیا۔

— یہ واقعہ اسلامی تاریخ کے مسلمات میں سے ہے۔ اہل السنۃ و اہل تشیع دونوں بانسب کے علماء اس کو درست تسلیم کرتے ہیں۔ کوئی مختلف فیہ مسئلہ نہیں ہے۔

صرف ناظرین کرام کے اطمینان قلب کے لیے دونوں فریقوں کی بعض مشہور کتابوں سے چند ایک محشر حوالے پیش خدمت کیے جاتے ہیں۔

## اہل السنۃ کی کتابوں سے

(۱) — مشہور مورخ خلیفہ بن خیاط نے اپنی تاریخ جزء اول میں سن ۴۱ھ

کے تحت (جس کو عام الجماعۃ یعنی اجتماع کا سال کہا جاتا ہے) لکھا ہے کہ سوا و عراق کے علاقہ میں انبار کے پاس حضرت سیدنا حسن و حضرت سیدنا امیر

معاویہ جمع ہوئے۔ دونوں حضرات نے مصالحت و صلح کر لی حضرت حسنؓ نے  
امیر معاویہؓ کو خلافت سپرد کر دی۔ یہ واقعہ ماہ ربیع الآخر یا ماہ جمادی الاولیٰ  
سکھ میں پیش آیا تھا۔

”وفیہا (سنة الجماعة) اجتمع الحسن بن علی بن ابی  
طالب و معاویة فاجتمعا بمسکن من ارض السواد و  
من ناحية الانبار۔ فاصطلحا وسلم الحسن بن علیؓ الی  
معاویة و ذالك فی شهر ربیع الآخر و فی الجمادی الاولیٰ  
سنة احدى و اربعین“

ز تاریخ خلیفہ بن خیاط، ص ۱۸۷- ج ۱ تحت

سکھ (عام الجماعة)

(۲) — حاکم نیشاپوری نے مستدرک میں درج کیا ہے کہ

”امیر معاویہؓ کے ساتھ حضرت حسنؓ نے صلح کی۔ معاملہ خلافت ان کے سپرد  
کر دیا اور معاہدے اور شرائط پیش کر کے خلافت کی بیعت کر لی۔“  
”فصالح الحسن معاویة وسلم الامر له و بايعه  
بالمخلافه علی شروط و وثائق... الخ“

(المستدرک للحاکم، ج ۳، ص ۱۷۷- تحت

مصالحة الحسن و معاویةؓ)

(۳) — ابو نعیم اصفہانی اور بیہقی نے لکھا ہے ”نخیلہ کے مقام پر یہ مصالحت

دونوں حضرات کے درمیان ہوئی۔ . . . اور امام حسنؓ نے اس موقع پر

فرمایا کہ اگرچہ وہ (یعنی خلافت) میرا حق بھی ہے تب بھی میں نے اہل اسلام  
کی بہتری اور مسلمانوں کے خون کی حفاظت کے لیے ترک کر دیا۔“

... ترکندہ معاویہ ارادۃ اصلاح المسلمین وحقن

دمائہم۔

(۱) — سنن البکری، ج ۸، ص ۳، کتاب قتال اہل البغی

(۲) — سلیۃ الاولیاء لابن نعیم الاصفہانی، ج ۲، ص ۳۷۔ تذکرہ

حضرت حسن بن علی بن ابی طالب۔

صلح ہذا اور اس بیعت کے واقعہ کو متعدد علماء نے ذکر کیا ہے۔ مثلاً

۱ — ابن عبدالبر الاستیعاب، ج ۳، ص ۳۷۸۔ تحت ذکر معاویہ معہ الاسباب

۲ — اسد الغابہ، ص ۳۸۶-۳۸۷، ج ۴۔ ذکر معاویہ بن ابی سفیان۔

۳ — الاسباب، ج ۳، ص ۴۱۳۔ معہ الاستیعاب، ذکر معاویہ۔

۴ — تلخیص ابن عساکر لابن بدران، ج ۴، ص ۲۲۰۔ وغیرہ

## مسئلہ ہذا کی شیعہ کتب سے تائید و تصدیق

امیر معاویہؓ کا حضرت امام حسنؓ کے ساتھ صلح و مسالحت کر کے بیعت کرنے کو شیعہ علماء و مؤرخین نے پر زور طور پر لکھا ہے۔ حسب عادت دیرینہ اس قدر اضافہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ بامجبوری تھا اور تقیہ فرمایا تھا۔

اب اہل علم کی تسلی کے لیے حوالہ جات کی بجینہ عبارت پیش خدمت ہے۔

حضرت امیر معاویہؓ نے اپنے ہاں شام میں حضرت حسنؓ و حضرت حسینؓ اور

قیس بن سعد بن عبادہ انصاری کو خط ارسال کر کے بلوایا۔ یہ حضرات شام میں پہنچے،

اجازت ہوئی، اندر تشریف لائے اور خطیب لوگوں کو (مجلس میں) تیار رکھا گیا تھا۔

امیر معاویہؓ کہنے لگے کہ اے حسنؓ! اٹھیے اور بیعت کیجیے۔ حضرت حسنؓ اٹھے اور

بیعت کی۔ پھر حضرت حسینؓ کو فرمایا کہ اٹھیے اور بیعت کیجیے! حضرت حسینؓ بھی اٹھے



اٹھے اور رعیت کی۔ اسی طرح پھر قیس بن سعد کو کہا... الخ :

”... فقال يا حسن! قم فبايع - فقام فبايع - ثم قال  
للحسين عليه السلام، قم فبايع فقام فبايع - ثم قال يا قيس!  
قم فبايع فالتفت الى الحسين عليه السلام ينظر ما يا امرؤ  
فقال يا قيس انك امامي“

(۱) — رجال کشتی (ابو عمرو کشتی) تحت تذکرہ قیس بن سعد

بن عبادہ، ص ۷۲، طبع بند ممبئی - و طبع طهران  
طبع جدید، ص ۱۰۲ -

(۲) — کتاب بحار الانوار ملا باقر مجلسی، ج ۱۰، ص ۱۲۲ -

۱۲۴ - باب کیفیت مصالحتہ الحسن بن علی - طبع

قدیم ایرانی -

اور فروع کافی کتاب الروضۃ میں یہ مسئلہ عبارت ذیل ہے :-

— عن ابی جعفر قال والله للذی صنعہ الحسن بن علی

علیہ السلام کان خیراً لہذہ الامۃ مما طلعت علیہ الشمس“

(۳) — فروع کافی، ج ۳، ص ۱۵۳ - کتاب الروضۃ - طبع

لکھنؤ - فروع کافی، طبع جدید طهرانی - مع ترجمہ

فارسی، ج ۲، ص ۲۵۲ -

— اور ملا باقر ندکوره بالاروایت کا ترجمہ بالفاظ ذیل لکھتے ہیں کہ

”یعنی کلینی بسند معتبر از حضرت امام باقر روایت کرده است کہ

صلی کہ حضرت امام حسن با معاویہ کردہ برائے اسے است - نہ لہو بود

از دنیا و ما فیہا“

(۴) — جلاء العیون، مآباً قر مجلسی، ص ۲۹۲۔ در بیان

صلح امام روم بامعاویہ۔

مطلب یہ ہے کہ سیدنا حسنؑ نے جو امیر معاویہؓ سے صلح کی تھی وہ

امت کے حق میں تمام جہان سے بہتر تھی۔

### تنبیہ

نیز یہ مسئلہ شیعہ کی معتبر کتابوں کے ذیل مقامات میں اپنی اپنی عبارات

کے ساتھ درج ہے۔ اہل علم رجوع فرما سکتے ہیں۔

(۱) — مقال الطالبین لابی الفرج اصفہانی، قدیم طبع، ص ۲۸۔ ذکر

الخبر فی بیعة بعد وفات امیر المؤمنین و تسلیم الامر الی معاویہ۔

و طبع بیروت، ص ۲۸-۲۹۔ جلد اول۔ تحت النصلح۔

(۲) احتجاج طبرسی، قدیم طبع، ص ۱۳۸-۱۵۶-۱۵۷۔ تحت احتجاج

علی من انکر علیہ مصالحة معاویة۔

(۳) الامالی للشیخ الطوسی، ج ۲، ص ۱۸۹، ۱۸۰، ۱۷۳۔ مجلس

یازدہم، صفر ۱۲۵۷ھ۔ نجف اشرف۔

(۴) بحار الانوار، ج ۱۰۔ مآباً قر مجلسی، طبع اول قدیمی، ج ۱۰۔

ص ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲۔ تحت علة مصالحة الحسن بن علی۔ الخ

## سیدنا حسینؑ کا فرمان

شیعوں کے ایک تفضیلی قدیم مؤرخ (احمد بن ابی داؤد الدیوری لشیعی)

المتوفی ۲۸۲ھ نے اپنی مشہور کتاب اخبار الطوال میں امیر معاویہؓ کے ساتھ

حضرت سیدنا حسینؑ کی بیعت کو بڑے عمدہ انداز میں درج کیا ہے۔ ناظرین

کرام کے اطمینان کے لیے حضرت حسنؓ کی بیعت سے الگ ہم اسے پیش کرتے ہیں تاکہ دونوں برادران کا نظریہ اس مسئلہ کی خاطر ٹوپی وضاحت سے سامنے آجائے۔

— دینوری نے لکھا ہے ایک صاحب (حجر بن عدی) حضرت علیؓ کے خاص حامیوں میں سے تھے حضرت حسنؓ کی امیر معاویہؓ کے ساتھ صلح و مصالحت ہو جانے کے بعد وہ مصر تھے کہ ان سے جنگ کرنی چاہیے لیکن حضرت حسنؓ جنگ پر آمادہ نہ ہوئے پھر انہوں نے حضرت حسینؓ کو اس جنگ و قتال کے لیے آمادہ کرنا چاہا تو حضرت امام حسینؓ نے ان کی رائے کے جواب میں یہ فرمایا کہ ”امیر معاویہؓ سے ہم نے بیعت کر لی ہے اور ان سے ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے اب اس بیعت کو توڑ ڈالنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے“

”..... فقال الحسين انا قد بايعنا وعاهدنا ولا سبيل

الى نقض بيعتنا“

(اخبار الطوال لاحمد بن ابی داؤد الدینوری الشیعی،  
ص ۲۲۰۔ بحث مبايعه معاوية بالخلافة وزياد  
بن ابيہ۔ طبع القاہرہ مصر، سن طباعتہ ۱۹۶۰ء)

## مزید برآں

مصالحت کے بعد بھی حضرت سیدنا حسینؓ کے متعلق ایک واقعہ شیعہ مورخین نے تحریر کیا ہے اس سے بھی حضرت امیر معاویہؓ کے متعلق سیدنا حسینؓ کا نظریہ بخوبی واضح ہوتا ہے۔ دینوری شیعہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہؓ کی خلافت کے دوران ان کے مدینہ کے حاکم نے انہیں یہ خبر دی کہ حسین بن علیؓ آپ کی خلافت کے خلا

کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر امیر معاویہؓ نے حضرت حسینؓ کو خط لکھا کہ فتنہ پر دواز  
لوگ آپ کو غیر مطمئن اور بے آرام کرنے کے درپے ہوں تو اس بات سے اجتناب  
فرمائیں۔“

ان حالات میں حضرت حسینؓ نے امیر معاویہؓ کو جواب لکھا کہ:

”آپ کے ساتھ ہمارا جنگ و قتال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں اور

نہ ہی مخالفت کرنے کا قصد ہے۔“

مؤرخین کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسنؓ و سیدنا حسینؓ دونوں بزرگوں نے

امیر معاویہؓ کی تمام زندگی میں حضرت امیر معاویہؓ سے کوئی بُری بات اور ناپسند

چیز نہیں دیکھی۔ امیر معاویہؓ نے حضرات حسینؓ کے ساتھ جو شرائط طے کئے تھے ان

میں سے کسی شرط کو ضائع نہیں کیا۔ اور کسی احسان اور بھلائی کی بات کو تبدیل

نہیں کیا۔“

”... فکتب الیہ الحسین رضی اللہ عنہ ما ارید حریک

ولا الخلاف علیک، قالوا ولعمریر الحسن ولا الحسین طول

حیاة معاویة منه سوءاً فی انفسهما ولا مکروهاً۔ ولا

قطع عنهما شیئاً مما کان شرط لهما ولا تغیر لهما

عن برّ۔“

دالاخبار الطوال لاحمد بن داؤد ابی حنیفہ

الدینوری الشیبی ص ۲۲۵ بحث بن

معاویہ وعمرو بن العاص طبع قاہرہ مصر

مندرجات بالا سے واضح ہوا کہ:

(۱) — سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت امیر معاویہؓ سے جب

بیعت کر لی اور ان سے معاہدہ کر لیا تو نقصِ عبد کا خیال تک نہیں کیا۔ نہ کسی قسم کی مخالفت پیدا کی۔

(۲) — امیر معاویہ کی مدتِ خلافت میں سیدنا حسن و سیدنا حسین نے ان سے کوئی بُرائی اور مکروہ چیز نہیں دیکھی۔

(۳) — حضراتِ حسین شریفین کے ساتھ جو شرائطِ حضرت معاویہ نے طے کیے تھے امیر معاویہ نے ان کا ایفا کیا۔ ان کو ضائع اور برباد نہیں کیا۔

(۴) — امیر معاویہ نے حسین کریمین کے ساتھ احسان اور سلوکِ صحیح طریقہ سے جاری رکھا، اس میں کوئی تبدیلی و تغیر نہیں کیا۔

مختصر یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے حق میں یہ الزام صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے حسینین کے حقوق کو غصب کر لیا تھا اور شرائطِ صلح کو ختم کر دیا اور نبوہاشم اور آلِ نبوی کے ساتھ بدسلوکی روا رکھی۔ اس وجہ سے یہ حضرات امیر معاویہ کے ساتھ تسادد و عناد رکھتے تھے۔ مذکورہ بالا بیانات دینوری شیعہ مورخ کے ہیں۔ یہ بزرگ شیعہ ہے اور طبری و جزیری وغیرہ مؤرخین سے قدیم ہے۔ اس نے ان مسائل کو اپنے بیاناتِ بالا کے ذریعہ خوب حل کر دیا ہے۔ امید ہے کہ منصفِ طبائع اس کو شرفِ قبولیت بخشیں گے۔ اور بعد کے مؤرخین کی رائے قابلِ التفات نہیں سمجھیں گے۔

## امیر معاویہ کی خلافت کے دوران

### بنی ہاشم کا عملی تعاون

— حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہاشمی حضرات

حضرت عثمانؓ سے عملی تعاون کرتے تھے۔ چنانچہ اس نوع کے چند واقعات رجائینہم حصم عثمانی ہیں درج کیے گئے ہیں۔

اب حضرت سیدنا امیر معاویہؓ کی خلافت میں بھی بنی ہاشم کی طرف سے انتظامی امور میں عملی تعاون کے چند ایک واقعات زیر تحریر لائے جاتے ہیں۔ ان واقعات سے اہل فہم و انصاف پسند حضرات عمدہ فوائد و نتائج خود مرتب کر سکتے ہیں۔

مدینہ طیبہ میں ہاشمی قاضی (عبداللہ) حضرت امیر معاویہؓ نے اپنے دور میں مروان بن الحکم کو مدینہ شریف کے علاقہ کا حاکم مقرر کیا۔ مدینہ طیبہ کے لیے شرعی قاضی کی ضرورت تھی تو مروان نے حضرت عبداللہ بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب ہاشمی بزرگ کو مدینہ شریف کا قاضی مقرر کیا۔ اس سے قبل مدینہ میں قاضی نہیں تجویز کیا جاتا تھا۔ اسی بنا پر بعض لوگ کہتے تھے کہ مدینہ میں عبداللہ بن الحارث (ہاشمی) پہلے قاضی تھے۔

طبقات ابن سعد میں ہے :-

”..... عن ابی الغیث قال سمعت ابا ہریرۃ لعمالی مروان بن الحکم المدینۃ لمعاویۃ بن ابی سفیان سنۃ اثنتین واربعمین فی الامرۃ الاولى استقضی عبد اللہ بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب بالمدينة فسمعت ابا ہریرۃ یقول ہذا اول قاضی رأیتہ فی الاسلام“

(۱) طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۱۳۔ تحت عبداللہ بن نوفل۔

- (۲) — تاریخ طبری، ج ۶، ص ۹۸ تحت س ۴۲
- (۳) — اسد الغابہ، ج ۳، ص ۲۶۹ تحت عبد اللہ بن نوفل  
بن الحارث بن عبد المطلب بطبع تہران

## غزوات میں ہاشمی غازی

قثم بن عباس و امام حسینؑ

(۱) — حضرت قثم بن عباس بن عبد المطلب ہاشمی صحابہؓ میں سے ہیں۔ یہ سیدنا حسین بن علیؑ کے رضاعی برادر تھے۔ حضرت امیر معاویہؓ کے دورِ خلافت میں جہاد کی خاطر خراسان کے علاقہ میں تشریف لے گئے۔ پھر غزوہ سمرقند پیش آیا۔ اس غزوہ میں حضرت عثمان بن عفان کے صاحبزادے سعید بن عثمان جرنیل تھے۔ ان کی ماتحتی میں غزوہ اندامین شریک ہوئے اور سمرقند میں شہادت پا کر فوت ہوئے۔

”..... قال ابن سعد غزا قثم بن عباس خراسان وعلیہا

سعید بن عثمان بن عفان..... قال الذہبی بن بکار

سارقثم ایام معاویۃ مع سعید بن عثمان الی سمرقند

فاستشهد بہا“

(۱) طبقات بن سعد، ج ۷، ق ۲، ص ۱۰۱۔ طبع لیدن

تحت ذکر قثم بن عباس بن عبد المطلب۔

(۲) کتاب نسب قریش، ص ۲، تحت ذکر اولاد

عباس بن عبد المطلب۔

(۳) اسد الغابہ، ج ۴، ص ۱۹۷۔ تذکرہ قثم بن عباس

(۴) سیر اعلام النبلا للذہبی، ج ۳، ص ۲۹۲۔ ذکر  
قثم بن عباس۔

— اور شیعہ علماء نے بھی لکھا ہے کہ قثم بن عباس ہاشمی مطہلی حضرت علیؑ کی  
طرف سے مکہ مکرمہ پر والی و حاکم مقرر تھے۔ پھر حضرت علیؑ شہید ہو گئے۔ کچھ مدت  
کے بعد، امیر معاویہؓ کے زمانہ میں غزوہ سمرقند میں شریک جہاد ہو کر شہید ہوئے۔  
”و استشهد بسمرقند فی زمن معاویة“

شرح بیج البلاغہ لابن مثنم البحرانی الشیعی، ج ۵، ص ۷۲،  
جلد خامس، طبع جدید طہران۔ تحت عنوان متن من  
کتاب لہ علیہ السلام الی قثم بن عباس و ہو عالمہ  
علی مکتہ۔

(۲) — مورخین نے بصراحت لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہؓ کے دور خلافت  
میں سیدنا حسین بن علیؑ، امیر معاویہؓ کی خدمت میں آمد و رفت رکھتے تھے۔  
ہدیے اور عطیے وصول کرتے تھے جیسا کہ عنقریب اس پر حوالہ جات پیش  
ہو رہے ہیں، مزید یہ چیز عرض ہے کہ اس دور کے غزوات میں اور جنگی  
مہموں میں بھی بخوشی شریک و شامل ہوتے تھے۔ اس مسئلہ میں حضرت حسینؑ  
کو کوئی انقباض و اجتناب نہیں تھا۔ امیر وقت کے ساتھ ان کا یہ عملی  
تعاون تھا اور انتظامی امور میں بشرح صدر امداد تھی۔ اس میں کسی مجبوری  
و مقہوری کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اب اہل تاریخ کی بعینہ عبارت ملاحظہ  
فرمائیے۔

(۱) ... ”و وفد علی معاویة و توجه غازیاً الی القسطنطنیة

فی الجیش الذی کان امیرہ یزید بن معاویة“



(تہذیب تاریخ ابن عساکر، ج ۴، ص ۳۱۱-تذکرہ  
حسین بن علیؑ)

(۲) . . . . . البدایہ لابن کثیر جلد ثامن میں ہے :-

«ولما توفی الحسن کان الحسین یفد الی معاویۃ فی  
کل عام فبِعَطِیْهِ وَیُکْرِمُہُ وَقَدْ کَانَ فِی الْجَیْشِ الذِّیْنَ غَزَوْا  
لِقُسْطَنْطِیْنِیَّةَ مَعَ ابْنِ مَعَاوِیَۃَ یَزِیْدَ فِی سَنَۃِ اِحْدِیْ وَ  
خَمْسِیْنَ ۱۵۵ھ»

(البدایہ، ص ۱۵۰-۱۵۱-جلد ۳، تذکرہ خروج الحسین  
الی العراق وکیفیتہ مقتلہ)

## عنوانہائے بالا کا خلاصہ

(۱) — حضرت امیر معاویہؓ اور ان کے ساتھی حضرت علیؓ کے فرمان کی رو  
سے سب مؤمن تھے۔

(۲) — جنگ صفین کے مقتولین سب اہل جنت سے ہیں۔

(۳) — حمل و صفین میں شریک ہونے والے برادر دینی تھے لیکن ایک  
دوسرے کے حق میں ان سے زیادتی سرزد ہوئی۔

(۴) بغاوت کے مفہوم کی اس طرح تشریح کی گئی جس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ نہ  
فاسق تھے نہ جائز تھے۔

(۵) — حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے مقابلہ میں آنے والوں کے  
حق میں سب و شتم کرنے اور لعن و طعن سے بر ملا منع کر دیا اور ان کے حق  
میں دعائیں کرنے کی ہدایت کی۔

(۶) — حضرت سیدنا امام حسینؑ کے تعلقات حضرت امیر معاویہؓ کے ساتھ صحیح اور درست تھے۔ عملی تعاون قائم تھا۔ کوئی مخالفت نہ تھی۔ اور ان حضرات میں باہم نسلی امتیازات و قبائلی تعصبات بالکل نہ تھے کہ ہاشمیوں کو عزت کے مقامات میں پیچھے ڈال دیا ہو اور امویوں کو مقدم کر دیا ہو۔ یہ بات بالکل نہ تھی۔ اس نوع کی چیزیں صحابہ کرامؓ کے دور میں نہ تھیں۔ یہ بعد کی پیدا کردہ ہیں۔

(۷) — امیر معاویہؓ کی خلافت آئین اسلامی کے تحت جاری تھی۔ اس میں قواعد اسلامی کو معطل نہیں کیا گیا۔ ہاشمی بزرگوں اور دیگر صحابہ کرامؓ کا عملی تعاون کرنا اور شریک انتظام رہنا اس چیز کے لیے مستقل شاہد اور گواہ کی حیثیت رکھتا ہے۔

(۸) — امیر معاویہؓ کے حق میں ظلم و ستم کی داستانیں جو نشر کی جاتی ہیں وہ بے اصل ہیں۔ امیر معاویہؓ کا کردار بالکل صحیح تھا۔ انہوں نے قوم و ملت کی خدمات انجام دیں اور اسلام و اہل اسلام کو بہت نفع پہنچایا۔ ہاشمی حضرات اور دیگر صحابہ کرامؓ ان کے ساتھ شامل تھے اور ان تمام حضرات کا خلافت امیر معاویہؓ کے حق میں عملی تعاون قائم رہتا تھا۔

حضرت امیر معاویہؓ کے خزانہ سے حضرات  
حسینؑ و دیگر ہاشمی اکابر کے وظائف اور

عطیات ہدایا

عام الصلح کے بعد بیت المال سے امیر معاویہؓ نے سیدنا حسن و سیدنا حسینؑ اور

دیگر ہاشمی حضرات کے لیے وظائف متعین فرمادیتے تھے۔ وقتی طور پر بھی انہیں بدایا اور تحائف پیش کیے جاتے تھے۔ اور مستقل طور پر بھی صلح کے سال ۱۱۷ھ سے لے کر ۱۱۷ھ یعنی امیر معاویہ کی وفات تک یہ سلسلہ بدستور قائم رہا ہے۔ اور امیر معاویہ کے دورِ خلافت میں کوئی نافع نہیں ہوا۔ اس مسئلہ میں بہت سی تفصیلات شیعہ سنی مؤرخین اور اہل تراجم نے تحریر کی ہیں۔ تمام واقعات پیش کرنے میں بڑی تطویل ہوگی ہمارے سامنے نہایت اختصار مقصود ہے۔ ذیل میں مسئلہ ہذا کے لیے چند ایک حوالہ جات درج کیے جاتے ہیں۔

### — (۱) —

— ابن عساکر نے اپنی مشہور تاریخ بلدہ دمشق (تذکرہ سیدنا حسن) میں علیا کا واقعہ درج کرتے ہوئے پہلے وقتی عطیہ (چار لاکھ درہم) کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد مبرد کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت حسنؓ ہر سال امیر معاویہؓ کی خدمت میں پہنچتے تھے اور امیر معاویہؓ ان کو ایک لاکھ درہم سالانہ عنایت کرتے تھے۔

”... فاعطاه اربعمائة الف درھم وروی المبرد ان الحسن کان یفد کل سنة علی معاویة فیصلہ بمائة الف درھم“

(۱) — تہذیب تاریخ ابن عساکر للشیخ عبدالقادر بن بدران آقندی، ج ۴، ص ۲۰۰ تذکرہ حسن بن علیؓ طبع اول قدیم۔

— یہ مضمون ذیل مقامات میں بھی درج ہے :-

”... کان له (حسن بن علیؓ) علی معاویة فی کل عام

جائزۃ وکان یفد الیہ فریباً اجازۃً باربعاً مائۃ الف درہم  
وراتبہ فی سنۃ مائۃ الف

- (۲) — الاصابہ لابن حجر جمعۃ استیعاب جلد اول  
ص ۳۲۹ تذکرہ حسن بن علی بن ابی طالب  
(۳) البدایہ لابن کثیر، ج ۸، ص ۳۷ — تذکرہ حسن  
(۴) البدایہ، ص ۴۱-۴۲، ج ۸ — تذکرہ حسن  
(۵) البدایہ، ج ۸، ص ۱۳۷ — تذکرہ امیر معاویہ

(۲)

سیدنا حسینؑ اور عطیات | ہر دو برادرانِ حسینؑ کے لیے اس نوع کے  
مشترک واقعات بہت سے دستیاب ہیں  
اور بعض مقامات میں خصوصاً حضرت حسینؑ کے حق میں منقول ہیں۔

حضرت شیخ علی سجوری (المعروف داتا گنج بخش) لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف  
المحجوب باب الثامن میں ایک واقعہ تحریر فرمایا ہے کہ:

”ایک روز حضرت حسینؑ کی خدمت میں ایک سائل حاضر ہوا۔ عرض  
کیا کہ اے رسولِ خدا کے بیٹے! میں ایک درویش آدمی ہوں۔ عیالدار  
ہوں۔ آپ مجھے آج کا کھانا عنایت فرمائیں۔ سیدنا حسینؑ نے فرمایا  
کہ یہاں ٹھہر جاتے۔ ہمارا وظیفہ پہنچنے والا ہے وہ پہنچ جائے تو  
دے دیں گے۔“

صفحہ ۱۱۲

کشف المحجوب  
اردو ترجمہ

کچھ زیادہ دیر نہ ہوئی کہ امیر معاویہؓ کی طرف سے پانچ عدد تھیلیاں  
رجن کے ہر ایک میں ایک ایک ہزار دینار تھا، پہنچانے والوں نے

آکر حضرت کی خدمت میں پیش کیں اور کہا کہ  
 "امیر معاویہؓ معذرت کرتے تھے کہ یہ قلیل سی مقدار ہے اسے  
 صرف فرماویں۔ حضرت حسینؓ نے وہ تھیلیاں۔ اٹل کودے دیں اور  
 معذرت بھی کی۔"

"..... حسین وے را گفت بنشین کہ مارا رزقی در راه  
 است تا بیارند بے بر نیامد کہ پنج صرہ از دینار بیاورند از معاویہؓ۔  
 اندر ہر صرہ ہزار دینار بود و گفتند کہ معاویہؓ از تو عذری خواہد الخ  
 در کشف المحجوب از شیخ علی بن عثمان الغزنوی البجوری  
 ثم لاہوری۔ المتوفی ۵۶۲ھ، ص ۹۲-۹۳۔ باب الثامن  
 فی ذکر ائمتہم من اہل البیت۔ طبع سمرقند۔  
 اور ابن کثیرؒ نے وظائف کے مسئلہ کو عبارتِ ذیل لکھا ہے۔ اہل علم احباب  
 ملاحظہ فرماویں۔"

— فلما استقرت الخلافة لمعاوية كان الحسين يتردد  
 اليه مع اخيه الحسن فيكرهما معاوية اكراما زائداً و  
 يقول لهما مرحباً واهلاً ويعطيهما عطاءً جزيلاً وقد اطلق  
 لهما في يوم واحد مائتي الف ريعني في بعض الايام )  
 (البدایہ، ج ۸، ص ۱۵۰-۱۵۱۔ طبع اول مصر۔ تخت  
 قصہ الحسينؓ و سبب خروجہ من مکتہ الی العراق )  
 — مطلب یہ ہے کہ جب خلافت امیر معاویہؓ کے لیے مستقل ہو گئی  
 تو سیدنا حسینؓ اپنے برادرِ حسنؓ کی معیت میں امیر معاویہؓ کے پاس آمد و رفت رکھتے  
 تھے۔ امیر معاویہؓ ان کی تشریف آوری پر مرحباً، اہلاً و سہلاً کے باعث الفاظ سے

استقبال کرتے اور ان دونوں حضرات سے نہایت اکرام و احترام کے ساتھ پیش آتے۔ مالی عطیات کثیرہ سے نوازتے۔ اور بعض اوقات ایک یوم میں دو دو لاکھ درہم بھی حاضر کر دیتے تھے۔

(۳) حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ دیگر ہاشمیوں  
بعض علماء نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ دس لاکھ درہم تک بھی امیر معاویہ نے دونوں برادران کو بھی دس لاکھ کے وظائف ملنا

حسین رضی اللہ عنہ کو اور عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب کو اور عبداللہ بن جعفر طیار کو وظائف دیئے اور عطیات عنایت فرماتے۔ ملاحظہ ہو:-

”..... ان معاویۃ کان یجیز فی کل عام الحسن والحسین

وعبداللہ بن عباس وعبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کل

واحد منہم بالف الف درہم“

(لطائف المعارف، ص ۲۱-۲۲ (طبع مصری)

لابی منصور عبد الملک بن محمد الثعالبی المتوفی

(۲۹۹ھ)

## مسئلہ ہذا شیعہ کے نزدیک

(۱) حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہما

ابن ابی الحدید شیعہ نے بھی دس لاکھ والی روایت مذکورہ اپنی

حدیدی شرح میں نقل کی ہے

وعبداللہ بن جعفر کے وظائف

چنانچہ لکھتے ہیں کہ حضرات حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور عبداللہ بن جعفر کو

امیر معاویہ ہر سال بطور وظیفہ دس دس لاکھ درہم دیتے تھے۔

”فانّه کان یحییٰ الحسن والحسین ابنی علیّ فی کل عام بکل واحدٍ

منہما بالف الف درہم وکذا لک کان یحییٰ عبد اللہ بن العباس

وعبد اللہ بن جعفر“

شرح نہج البلاغہ مدیدی، ج ۱۵، ص ۲۵۰۔ طبع قدیم و طبع

بیروتی، ص ۴۰۵-۴۰۶۔ بلد ثالث بحث فی المقارنتہ بین

جو درملوک بنی امیئہ و ملوک بنی ہاشم

(۲) — نیز ملا باقر مجلسی نے سیدنا

جعفر صادقؑ سے روایت نقل کی ہے

**حسین و عبد اللہ بن جعفر کے وظائف**

اس میں درج ہے کہ :

”ایک دن امام حسنؑ نے بھائی حضرت حسینؑ کو اور چچا زاد برادر عبد اللہ بن جعفر طیار کو فرمایا کہ اس ماہ کی پہلی تاریخ کو امیر معاویہؓ کی جانب سے ہدایا و تحائف تمہارے پاس پہنچ جائیں گے جب اس مہینہ کی اول تاریخ ہوئی تو امیر معاویہؓ کی طرف سے کثیر مال پہنچ گیا اور ان ہر سہ حضرات کو دے دیا گیا۔“

حضرت حسنؑ پر بہت سافر ض تھا۔ انہوں نے ان اموال سے پہلے اپنا قرض ادا کیا۔ باقی ماندہ مال کو اپنے اہل و عیال اور اپنے خاص لوگوں میں تقسیم فرمایا۔

حضرت حسینؑ نے بھی پہلے اپنا قرض ادا کیا۔ باقی مال کو اس طرح تقسیم کیا کہ ایک حصہ اپنے رشتہ داروں اور خصوصی شیعوں کو دیا اور دوسرے اپنے اہل و عیال کو عنایت فرماتے۔

اور عبد اللہ بن جعفر طیار نے بھی اس مال سے اپنا قرض ادا کیا۔

”... از حضرت صادق علیہ السلام روایت کرده است کہ روزے حضرت امام حسن بحضرت امام حسین و عبداللہ بن جعفر فرمود کہ جائزہ ہاتے معاویہ در روز اول ماہ بشما خواهد رسید۔ چوں روز اول ماہ باشد چنانچہ حضرت فرمودہ بود اموال معاویہ رسید۔ جناب امام حسن قرض بسیارے داشت از آنچه او فرستادہ بود برائے آنحضرت قرضہائے خود را ادا کرد۔ و باقی را در میان اہل بیت و شیعیان خود قسمت کرد۔ جناب امام حسین قرض خود را ادا کرد آنچه ماندہ بود بے قسمت کرد۔ یک حصہ را باہل بیت و شیعیان خود داد۔ و دو حصہ را برائے عیال خود فرستاد و عبداللہ بن جعفر قرض خود را ادا کرد۔ الخ“

(جلد العیون لما باقر، ص ۲۰۰۔ باب در بیان نصوص

امامت و معجزات امام حسن۔ طبع تہران (سن طباعت

۱۳۲۴ھ)

تنبیہ :- عبداللہ بن جعفر طیار کو امیر معاویہ نے ایک لاکھ درہم عطا کیا۔ اس مسئلہ کو ابن عنبتہ الشیعی نے عمدۃ الطالب فی النسب آل ابی طالب، ص ۳۸، ذکر عقب جعفر طیار میں درج کیا ہے۔ نیز ہی پیر کتاب ناسخ التواریخ (جلد طراز المذہب منظری) ص ۳۹۵، احوال زینب کبریٰ میں منقول ہے۔ واقعہ درست ہے۔ عبداللہ مذکور نے یہ عطیہ حاصل کیا اور امیر معاویہ نے دیا ہے لیکن واقعہ کو جس شکل و صورت میں دکھایا گیا ہے وہ امیر معاویہ سے تنفر دلانے و مبعوض بنانے کے لیے تیار فرمایا گیا ہے، جیسا کہ کسی کا مشہور مقولہ ہے :-

ع و لیکن قلم در کف دشمن است

وہی معاملہ یہاں بھی ہے۔



برادر تفضلی حضرت عقیل کا وظیفہ (۳) — حضرت علی المرتضیٰؑ

کے برادر عقیل بن ابی طالب ایک دفعہ امیر معاویہ کی خدمت میں تشریف لے گئے (مناسب موقع گفتگو ہوئی) حضرت امیر معاویہ نے فرمان دیا کہ ان کو ایک لاکھ درہم دیا جائے۔ چنانچہ انہیں وہ دے دیا گیا۔

..... قد امرنا لك بمائة الف فاعطاه المائة الف

(الامالی للشیخ ابی جعفر الطوسی اشعری شیخ الطائف)

ج ۲، ص ۳۳۲، طبع عراق (مخف اشرف)

حضرت حسینؑ کے صاحبزادے علی بن الحسینؑ کے لیے وظیفہ کا تقرر (۴) — حضرت سیدنا

حسینؑ کے صاحبزادے (علی بن الحسینؑ)، یعنی

زین العابدین کے متعلق فروع کافی میں واقعہ لکھا ہے کہ:

«مدینہ شریف پر مروان بن الحکم کو حضرت امیر معاویہ نے حاکم بنایا اور حکم دیا کہ قریش کے نوجوانوں کے لیے وظائف مقرر کریں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں، حضرت حسینؑ کے صاحبزادے علی بن الحسین مروان کے ہاں تشریف لے گئے..... (گفتگو ہوئی) علی بن الحسین فرماتے ہیں کہ میرے لیے مروان نے (امیر معاویہ کے فرمان کے مطابق) وظیفہ مقرر کر دیا تو میں نے واپس آکر اپنے والد محترم کو اس واقعہ کی اطلاع کی»

..... استعمل معاویة مروان بن الحکم علی المدینة

وامرأ ان یفرض لشباب قریش ففرض لهم فقال علی بن

الحسین علیہما السلام فاتیتہ فقال ما اسمک ؟ فقلت  
 علی بن الحسین . . . . . ففرض لی فدجعت الی ابی علیہ  
 السلام فاخبرته ۛ

(۱) — فروع کافی، ج ۲، ص ۲۶۲۔ طبع نول کشور بکھنو۔

کتاب العقیقہ باب الاسماء والکنیٰ۔ طبع قدیم۔

(۲) — ناسخ التواریخ مرزا محمد تقی لسان الملک، جلد

یازدہم (کتاب دوم) ص ۴۰۔ تحت مکالمہ مروان

بآں حضرت۔

## سیدنا حسنؑ کو ایک گاؤں کا عطیہ

— شیعہ احباب کی مشہور تاریخ ناسخ التواریخ کی جلد نہم (حسن کو

طراز المذہب مظفری کہتے ہیں) میں ایک واقعہ درج ہے کہ امیر معاویہؓ نے اپنے

دورِ خلافت میں حاکم مدینہ (مروان بن حکم) کو فرمان دیا کہ ان کے بیٹے یزیدؓ کو

کے لیے عبداللہ بن جعفر طیار کی لڑکی (زینب) کا رشتہ طلب کریں اور نکاح حاصل

کریں ہم اس قدر مال دیں گے اور اس طرح مہر ادا کریں گے۔ وغیرہ

— مروان نے عبداللہ بن جعفر کو بلا کر اس مسئلہ کی ترغیب دی۔ عبداللہ

نے یہ کام حضرت حسن بن علیؑ کی سپردگی میں دے دیا۔ پھر ایک مجلس قائم کر کے

مروان کو حضرت حسنؑ نے جواب دیا کہ ہم نے یہ رشتہ اپنے بھتیجے (قاسم

بن محمد بن جعفر) کو دے دیا ہے اور مہر میں زینب کے لیے ہم نے وہ ایک

گاؤں دے دیا ہے جو مدینہ کے علاقہ میں تھا اور ہم کو امیر معاویہؓ نے دس

ہزار دینار (طلائی) کے عوض میں دے رکھا تھا۔ یہ مہر زینب کے لیے کافی ہے۔

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ

”ماچناں بصواب شمر دیم کہ زینب را بہ سپر عیش قاسم بن محمد بن جعفر  
کابین بندم و اور ابا قاسم تزویج کردم و کابین اور ابقریہ کہ در مدینہ دارم  
و معاویہ درازائے ده ہزار دینار بمن دادہ است مقررہ اشتم و زینب  
را ایں مبلغ کفایت می کند۔“

(ناخ التواریخ جلد نہم طراز المذہب منظری ص ۳۸۰)

در بیان احتجاج عبداللہ بن جعفر با معاویہ و حکایت او

با معاویہ و زینب۔ طبع قدیم ایران سن طباعت ۱۳۱۵ھ)

واقعہ ہذا نے صاف بتلا دیا کہ حضرت حسن کو امیر معاویہ کی طرف سے باقی و مخالف  
کی طرح مدینہ طیبہ کے علاقہ میں ایک مستقل گاؤں بھی ملا ہوا تھا جس کو وہ اس موقع  
پر بطور مہر نکاح کے استعمال میں لارہے ہیں۔

## عنوانہائے مذکورہ کے فوائد

۱۔ واضح ہو گیا کہ امیر معاویہ کے متعلق بنو ہاشم و آل نبوی کے ساتھ بدسلوکی کا الزام  
بالکل واقعات کے برخلاف ہے۔

۲۔ آل نبی اولاد علی کے ساتھ امیر معاویہ کی خلافت میں ظلم و ستم کی داستانیں مخالفین  
کی تصنیف شدہ ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں۔

۳۔ ملکی نظم و ضبط کے تحت اگر کوئی واقعہ اس دور میں پیش آیا تو وہ وقتی مصلحت  
اور ضرورت کی وجہ سے رونما ہوا۔ لیکن اس کو مؤرخین نے بڑی آب و تاب کے  
ساتھ داستان ظلم و ستم بنا کر تحریر کیا۔ اور پھر اہل عناد کے قلم نے اس کو مزید زینب  
زینت دے کر رائی کا پھاڑ بنا کر عوام میں پھیلا دیا۔

۴۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت اور انسانی نصیب فرمائے اور یہ صحیح فہم بخشتے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حاملِ قرآن اور عاملِ قرآن تھے اور ایک ایک آیتِ قرآنی ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ اور اتباعِ سنتِ نبوی ان کا مقصدِ حیات تھا۔ لہذا انہوں نے اسلامی اصولوں کے ماتحت تمام ملکی نظم و نسق قائم رکھا اور امتِ مسلمہ کے لیے وہ ہادی اور خیر خواہ ثابت ہوئے۔

## سب و شتم کا اعتراض

معرض بزرگوں کی جانب سے عوام میں بڑی کوشش سے پروپیگنڈا شروع ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورِ خلافت میں امیر معاویہ کے حکم سے خطیب لوگ برسرِ منبر حضرت علی المرتضیٰؑ اور ان کی اولاد کے حق میں بر ملا سب و شتم کرتے تھے۔ حضرت علیؑ کے عزیز سنتے تھے اور مروان تو مسجد نبوی میں منبر پر اس قبیح فعل کا ارتکاب کرتا تھا۔

نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب کو سب و شتم کرنا بڑا بُرا عمل ہے۔ امیر معاویہ کے زمانہ میں ہمیشہ یہ طریق کار جاری رہا۔ اب اس طعن کے جواب میں مندرجہ ذیل معروضات پیش ہیں۔

## ازالہ

حضرت امیر معاویہؓ پر اس اعتراض کا ورود تو ظاہر ہے لیکن ساتھ ہی امیر معاویہؓ کے دور کے عمال و خطباء بھی اس طعن کے مورد بنائے گئے ہیں چاہے وہ صحابہ ہیں یا غیر صحابہ۔ اور مروان بن الحکم کو بھی اس مسئلہ میں خاص طور پر

مطعون کیا گیا ہے۔

اب شُبہ ہذا کے ازالہ کے لیے کلام پیش کیا جاتا ہے۔

اولاً

قابل توجہ یہ چیز ہے کہ سب دشتم بعن و طعن کے مثالب و مطاعن جن روایات سے مستنبط فرماتے جاتے ہیں پہلے ان کا تجزیہ کیا جاتے۔ اگر وہ فنی قواعد کے اعتبار سے صحیح ثابت ہوں اور تقسیم نہ ہوں تو پھر بے شک ان سے استدلال بھی درست اور ان سے استخراج فرمودہ مطاعن بھی صحیح ہوں گے۔ اور اگر معاملہ برعکس ہو اور یہ روایات غیر صحیح اور بیکار ثابت ہوئیں تو ان سے تیار شدہ اعتراضات بھی بے کار اور بے جانتہ طور کے بائیں گے۔

تمہیداً یہ ایک اصولی بات عرض کرنے کے بعد پہلے روایات درج کی جاتی ہیں۔

اس کے بعد ان پر متعلقہ کلام تحریر ہو گا اور اس کے ساتھ مزید چیزیں بھی ذکر ہوں گی۔

## قابل اعتراض تاریخی روایات

### جو مطاعن کا ماخذ و محور ہیں

(۱) — ایک روایت تو طبقات ابن سعد سے نقل کرتے ہیں :-

”... عن لوط بن يحيى قال كان الولاة من بني امية قبل

عمر بن عبدالعزيز يشتمون علياً فلما ولي عمر امسك عن

ذالك“

(طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۲۹۱ - تذکرہ عمر بن عبدالعزیز)

”یعنی عمر بن عبدالعزیز سے پہلے بنو امیہ کے والی و حاکم حضرت علی بن

ابی طالب کو سب و شتم کرتے تھے۔ جب عمر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے

اس بات سے روک دیا۔

یہ روایت لوط بن یحییٰ (ابو مخنف) کا اپنا قول ہے اور یہ لوط جس قسم کا بزرگ ہے اس کی کیفیت آگے آرہی ہے۔

(۲) — ایک طبری کی روایت پیش کی جاتی ہے۔ اس میں درج ہے کہ امیر معاویہ

نے جمادی الثانیہ ۱۸ھ میں جب مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ کا والی بنا کر روانہ کیا تو اس وقت مغیرہ کو نصیحتیں و وصیتیں کیں اور احکام دیئے۔ ان میں مذکور ہے کہ

..... ولست تارکاً ایصاءک بمحصلة لا تتحتم عن شتم علی

وذمہ والنزحتم علی عثمان والاستغفار لہ والعیب علی اصحاب

علی والاقصاء لہم وترک الاستماع منہم.....“

..... غیرانہ لا یدع ذم علی والوقوع فیہ“

(تاریخ طبری، ص ۱۴۱-۱۴۲۔ جلد ۶ تحت ابتدا سنہ

۵۱ھ۔ ذکر سبب مقتل حجر بن عدی)

”یعنی امیر معاویہ نے مغیرہ کو کہا ایک خصلت کی میں وصیت کرتا

ہوں کہ سب و شتم علی و مذمت علی سے نہ پرہیز کرنا عثمان پر رحمت بھینا

اس کے لیے استغفار کرنا، علی کے ساتھیوں کی عیب چینی کرنا، ان کو دود

رکھنا، ان کی طرف کان نہ رکھنا.....“

..... آگے راوی کہتا ہے کہ مغیرہ کی اور تو اچھی سیرت تھی لیکن

حضرت علی کی مذمت کرنے اور عیب چینی کو اس نے نہیں چھوڑا تھا..... الخ

— اس روایت کا راوی ہشام بن محمد کلبی اور لوط بن یحییٰ ابو مخنف ہے۔

ان کی پوزیشن ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی جاتی ہے۔

(۳) — طبری کے بعد اب بجزری شریف (الکامل لابن اثیر الجزری) کی روایت

عرض خدمت ہے۔ اس کا یہ حوالہ بھی سب و شتم کی بحث میں پیش کیا کرتے ہیں کہ امیر معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ پر حاکم بنا کر روانہ کرتے ہوئے فرمایا کہ:

”... ولست تارکاً ایصاءک بمصلحة لا تترك شتم علی و ذمہ  
والترحم علی عثمان والاستغفار له والعیب لاصحاب علی والاقضاء  
لهم... الخ“

الکامل لابن اثیر الجزری، ج ۳، ص ۲۳۴۔ ابتدا

سن ۱۵۱ھ

”یعنی میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ علی بن ابی طالب پر سب و شتم و ذمہ  
کو ترک نہ کرنا اور عثمان پر رحمت و استغفار کرتے رہنا اور علی کی پارٹی کی عیب  
چینی کرنا اور ان کو دور رکھنا... الخ“

یہاں ناظرین یاد رکھیں، جزری کی یہ روایت طبری کی بالا روایت ہی ہے  
کوئی الگ دوسری روایت نہیں ہے۔ جزری طبری سے ناقل ہے۔ اسی بنا پر اس کے الفاظ  
بالکل طبری کے الفاظ کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ معمولی فرق ہے۔ اور سن ۱۵۱ھ کی ابتدا  
میں نقل کیا ہے۔

الکامل لابن اثیر الجزری کے لیے تاریخ طبری کا ماخذ ہونا مسلمات میں سے ہے۔  
اور علامہ جزری نے اپنی کتاب کے ابتدائی مقدمے میں اس چیز کو بصراحت ذکر کیا ہے  
کہ میں نے طبری پر اعتماد کر کے اس سے تاریخی مواد حاصل کیا ہے۔

(۴) — اور البدایہ سے ایک روایت نقل کیا کرتے ہیں کہ

”... ولما کان مروان، متولياً علی المدینة لمعاویة

کان یسب علیاً کل جمعة علی المنبر وقال له الحسن بن علی لقد

لعن الله اباک الحکم و انت فی صلبہ علی لسان نبیہ فقال (النبی)

لعن الله المحكم وما ولد - والله اعلم

البدایہ والنہایہ، ج ۸، ص ۲۵۹ تحت ترجمہ مروان  
بن المحکم - طبع اول مصری

”یعنی جب مروان مدینہ پر امیر معاویہ کی جانب سے والی و حاکم تھا تو ہر جمعہ میں منبر پر علی المرتضیٰ کو سب و شتم کرتا تھا اور حسن بن علیؑ نے اس کو (جواب میں) کہا کہ تیرے باپ المحکم پر اللہ نے اپنے نبی کی زبان پر لعنت کی تو اس وقت اس کی پشت میں تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ المحکم پر لعنت کرے اور جو اس کی اولاد ہو۔“

(۵) — نیز البدایہ والنہایہ سے مزید ایک روایت کوشش سے تلاش فرما کر میدان طعن میں لایا کرتے ہیں وہ بھی سماعت فرمادیں۔

”ایک شخص محمد بن یوسف الثقفی، ولید بن عبد الملک کے دور یعنی ۹۰ھ میں یمن کا والی تھا اس کے متعلق لکھا ہے کہ:

”..... کان یلعن علیاً علی المنابر“

”یعنی محمد بن یوسف ثقفی یمن میں منبر پر علی المرتضیٰ کو لعنت کرتا تھا“

(البدایہ، ج ۹، ص ۸۰، تحت سنہ ۹۰ھ)

البدایہ کی ان دونوں روایات کی متعلقہ چیزیں اور مذکورہ روایات ابن سعد و طبری و جزیری کے متعلقات ایک ترتیب سے ذکر کیے جاتے ہیں بغور ملاحظہ فرمادیں اور قلیل سا انصاف بھی ساتھ ملا لیں اگر دستیاب ہو سکے۔

## مندرجہ روایات کا متعلقہ کلام

(۱) پہلی روایت جو طبقات ابن سعد جلد پانچ سے نقل کی گئی ہے وہ لوط بن یحییٰ



ابو مخنف کا اپنا قول ہے کسی صحابی اور تابعی کا قول نہیں اور لوط بن یحییٰ بعد کے دور کا آدمی ہے، اس دور کا آدمی نہیں۔ اور یہ شخص اس فن کے علماء کے نزدیک نہایت مجروح ہے۔ "غیر معتد" ہے ضعیف اور متروک ہے۔ اور علنے والا شیعہ ہے۔

— ابو مخنف لوط ابن یحییٰ هالك - لا یوثق به - ضعیف لیس

بشيء شیعى محترق - صاحب اخبارهم -

(۱) المعنی للذہبی، جلد دوم، ص ۸۰، تحت ابی مخنف

(۲) میزان الاعتدال للذہبی، ج ۲، ص ۳۶۰، تحت

لوط بن یحییٰ - طبع قدیم مصری -

(۳) لسان المیزان لابن حجر، ج ۴، ص ۴۹۲، تحت

لوط بن یحییٰ - طبع دکن -

(۲) — دوسری طبری کی روایت ہے جس کے روایت کرنے والے ہشام بن

محمد کلبی اور لوط بن یحییٰ ابو مخنف ہیں۔ لوط کے متعلق تو پہلے معلوم ہو چکا ہے اب

ہشام کے متعلق اس فن کے علماء کا فیصلہ سن لیجیے۔

— ہشام بن محمد بن السائب الکلبی متروک ہے، قصہ گو اخباری ہے

رافضی ہے اور غیر معتبر ہے اور ناقابل اعتماد ہے۔

« ترکوا وهو اخباری - متروک - رافضی - لیس بثقة

لا یوثق به »

(۱) — المعنی فی الضعفاء للذہبی، ج ۲، ص ۱۱، جز ثانی -

تحت ہشام بن محمد کلبی مذکور -

(۲) میزان الاعتدال للذہبی، ج ۳، ص ۲۵۶، تحت ہشام مذکور

(۳) لسان المیزان لابن حجر، ص ۱۹۶-۱۹۷، ج ۶، تحت ہشام مذکور

(۳) — تیسری روایت اکامل ابن اثیر جزیری کی ہے جس نے طبری سے ہی نقل کی ہے اور اسے کے شروع میں طبری کی طرح درج کی ہے اور طبری کی اس روایت کے راوی جس پوزیشن میں ہیں وہ آپ کے سامنے درج کر دی گئی ہے۔ لہذا ابن اثیر جزیری کی اس روایت کے غیر معتبر ہونے میں وہی درج ہے جو طبری کی روایت کا ہے اس کے لیے الگ جرح کی حاجت نہیں۔

(۴) — چوتھی روایت جو البدایہ جلد آٹھ سے (مروان بن حکم کے ترجمہ کے تحت) منقول ہے، یہ روایت البدایہ کے ایک نسخے میں پائی جاتی ہے اور مصری نسخہ سے یہ روایت ساقط ہے اور البدایہ میں اس کے منقول عنہ اور ماخذ کو نہیں بتایا گیا اور نہ ہی اس کی کوئی تخریج ذکر کی گئی ہے تاکہ صحت اور سقم کا ماخذ سے پتہ چل سکے۔ یہ ابن کثیر کی عام روش کے خلاف ہے۔

روایت کا ایک نسخہ میں پایا جانا اور دوسرے سے ساقط ہونا مصنف کے نزدیک اس کو مشکوک بنا دیتا ہے۔

اور طبری نے بھی اس روایت کو اس مقام میں نہیں نقل کیا صاحب البدایہ یعنی ابن کثیرؒ کا متوفی ہے۔ آٹھویں صدی کے مورخ کی بے سرو پا روایت کیسے قبول کی جاسکتی ہے جس کے ذریعہ صحابہ کرام کا کردار مجروح ہوتا ہو؟

دوسری بات یہ ہے کہ ابن حجرؒ نے ”تطہیر الجنان“ میں منیر مدینہ پر سب کی روایت کے متعلق خوب نقد کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ:

”..... وجوابہ انه لم یصح عنده شیء من ذالک کما

ستعلمہ مما سا ذکرہ، ان کل ما قید نحو ذالک فی سندہ علة۔

وتطہیر الجنان واللسان لا احمد بن حجر البیتھی الملکی الفصل الثانی

ذنبیہ الرابع عن شیخ الاسلام والحفاظ الخ، ص ۲۶ (مطبوعہ  
در آخر الصواعق المحرقة) طبع مصر، جدید طبع

یعنی اس قسم کی روایت کا جواب یہ ہے کہ اس نوعیت کی روایت مروان سے  
صحیح ثابت نہیں۔ اور جو روایت اس طرح کی منقول ہیں ان کی سند میں جرح اور قرح  
پائی گئی ہے۔

نیز یہاں یہ چیز بھی قابل ذکر ہے کہ اس میں دو مسئلے مذکور ہوئے  
ہیں۔ ایک مروان کا حضرت علیؑ کو برسر منبر سب کرنا، دوسرا حضرت امام حسنؑ کا  
زبان نبوی کے ذریعہ مروان اور اس کے باپ پر لعنت کرنا۔ یہ دونوں باتیں  
صحیح نہیں ہیں۔

نیز آئندہ مروان پر شبہات کے ازالہ کی بحثیں آرہی ہیں ان میں مروان پر لعن کی حدیث  
پر کلام مذکور ہوگا۔ قلیل سا انتظار فرمادیں۔

(۵) — البدایہ کی روایت جو نہم جلد سے حضرت امیر معاویہؓ پر طعن کرنے کے لیے  
پیش کی گئی ہے اس روایت کا نہ ماخذ بان کیا گیا ہے نہ تخریج ذکر کی ہے۔ اس کے  
متعلق یہ گزارش ہے کہ اگر بالفرض اس واقعہ کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو ولید بن  
عبد الملک کے دور یعنی ۳۹ھ کا واقعہ ہے اور حضرت امیر معاویہؓ کا انتقال  
۳۹ھ میں ہو چکا تھا۔ اتنی مدت دراز یعنی تیس سال بعد والے واقعہ کا ان کے  
دور کے ساتھ حقیقتاً کچھ تعلق نہیں۔ اور اس روایت کے ذریعے امیر معاویہؓ پر  
طعن کرنا سراسر ناانصافی ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ مذکورہ بالا ابن سعد و طبری و جزیری وغیرہ کی روایات  
فہم روایت کے قواعد کے اعتبار سے مجروح ہیں اور بے سرو پا ہیں، قابل  
استدلال نہیں ہیں۔ لہذا ان کے ذریعہ طعن قائم نہیں ہو سکتا۔ اور ان کے بے اصل

ہونے پر مزید چیزیں آئندہ سطور میں آ رہی ہیں۔

## ثانیاً

ان روایات کی بنا پر اگر حضرت امیر معاویہؓ اور ان کے سب حکام و عمال خصوصاً مروان، اگر مساجد میں اور خطبوں میں یہ سب و شتم کی بوچھاڑ بر ملا کرتے تھے تو پھر غور کرنا چاہیے کہ

• — دیکر صحابہ کرامؓ نے ایسے غلط کردار والے لوگوں کے ساتھ تعاون کیوں کیا؟ ان کے خلاف کیوں نہیں ہو گئے؟ عدم تعاون کی آیات (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) وغیرہ ان کو فراموش ہو گئی تھیں؟

• — ایک جماعت صحابہ کرامؓ کی ہے جو امیر معاویہؓ کے دور میں والی و حاکم بنے ہوئے تھے وہ حضرات اس غلط کام سے کیوں الگ نہیں ہوئے؟

• — مروان بن الحکم کو خاص طور پر مطعون کیا جاتا ہے کہ مسجد نبوی میں منبر نبوی پر نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عزیز و اقارب کو گالی گلوج دیا کرتا تھا تو توجہ فرمائیے! ایسے شخص کے پیچھے صحابہ کرامؓ نمازیں کیسے ادا کرتے تھے؟ بالدوام اس کی امامت کیسے صحیح ہوتی؟ حسنین شریفین کی نمازیں کیسے صاف رہیں؟ جو نیچگانہ مسجد نبوی میں باجماعت ادا کرتے تھے (حوالہ مروان کے متعلقات کے تحت عنقریب آئے گا)۔

• — صحابہ کرامؓ مروان کے کارخیز میں متعاون کیوں ہوتے تھے۔ مثلاً حضرت ابو ہریرہؓ مدینہ طیبہ پر مروان کی نیابت قبول کرتے اور نائب بنتے تھے۔

(۱) — البدایہ لابن کثیر، ص ۱۱۳ - ج ۸ - تحت ذکر

ابی ہریرہؓ -

(۲) — المنتخب ذیل المنذیل لابن جریر الطبری، ص ۸۱ -

تحت ذکر من قال ذالک مطبوعہ در آخر تاریخ الطبری -

— مروان بن الحکم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سوالات دریافت کر کے  
شرعی مسائل حل کرتا تھا۔ ایسے غلط کردار اور بد اخلاق شخص کے ساتھ اچھا سلوک کیوں  
سوارکھا گیا؟

نیز دیگر مسائل کے ساتھ سب و شتم کا ازالہ کر کے اس بدرسم کو کیوں نہیں دست  
کروایا گیا؟

طبقات ابن سعد، ص ۳۰، ج ۵۔ آخر تذکرہ مروان بن الحکم۔  
طبع لیدن۔

پیش کردہ مذکورہ بالا اشیاء کو سامنے رکھیے اور منبر نبوی پر سب و شتم کی بوجھاڑ  
ثابت کرنے والی روایات کو بھی سوچیے۔ تھوڑا سا انصاف ساتھ ملا کر خود فیصلہ فرمائیے  
کہ کونسی بات صحیح ہے؟

### ثالثاً

علیٰ سبیل التذلل گذارش ہے لیکن اس کے پیش کرنے سے قبل ناظرین کرام خوب یاد  
رکھیں کہ ہمارے نزدیک نہ یہ روایات صحیح ہیں جن میں حضرت علیؑ پر یا حسنینؑ پر امیر معاویہؓ  
کی جانب سے یا مروان کی طرف سے سب و شتم، لعن طعن کرنا دکھایا جاتا ہے اور نہ  
وہ روایات درست ہیں جن میں امیر معاویہؓ پر یا ان کے دیگر ہممنوا صحابہ کرام پر حضرت  
علیؑ یا حسنینؑ کی طرف سے لعن طعن، سب و شتم، ذکر کیا جاتا ہے۔ ان اکابر صحابہ کی  
ملاعنت و مشامت کو ان روایات کی رو سے ہم صحیح تسلیم نہیں کرتے۔ یہ بات بالکل  
غلط ہے۔

ہم اپنا موقف اور نظریہ واضح کر دینے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ بالفرض اگر

گذشتہ روایات معترض صاحبان کے ہاں درست ہیں تو اس کے بالمقابل بعض روایات ایسی بھی کتب میں پائی جاتی ہیں جو بطور الزام کے جواباً پیش کی جاسکتی ہیں جن میں معاملہ انہما نظر آئے گا یعنی وہ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰؑ خود اور حضرت علیؑ کے حامی لوگ حضرت امیر معاویہؓ کو اور حضرت عثمانؓ کو نیز دیگر ان کے ہم نوا صحابہ کو سب و شتم و لعن طعن ہمیشہ کرتے تھے اور خیر سے ابتدا بھی انہوں نے فرمائی تھی اور دوسرے فریق نے گویا جوابی کارروائی کی تھی۔ مقامات ذیل قابل مطالعہ ہیں۔

(۱) — تاریخ طبری، جلد سادس ذکر اجتماع الحکیمین بدو متہ الجندل تحت سنتہ سبع و ثلاثین۔ طبع مصری قدیم۔

(۲) — تاریخ طبری، جلد سادس تحت ذکر سبب مقتل حجر بن عدی تحت سنتہ احد و خمسين۔ طبع مصری قدیم۔

(۳) — التاريخ الكبير جلد ثانی القسم الاول، باب حنظله (بنخاری) طبع حیدرآباد دکن

(۴) — کتاب الحجرتابی جعفر بغدادی بحث من شهد صفین مع معاویة (طبع حیدرآباد دکن)

اس قسم کی روایات اور بھی دستیاب ہیں لیکن مسئلہ انہما کا توازن کرنا ہو تو اس قدر کافی ہیں۔ یہ بطور الزام ذکر کر دی گئی ہیں ورنہ مشاجرات صحابہ کے مسئلہ میں ہمارا مسلک وہی ہے جو جمہور اہل السنۃ والجماعۃ اور سلف صالحین کا ہے یعنی یہ کہ ہمارے لیے تمام صحابہ قابل صدا احترام ہیں۔ اور ہم کسی پر زبان طعن دراز کرنا درست نہیں سمجھتے۔ اور ہم اس نوع کی روایات کے ذخیرہ کو صحیح نہیں قرار دیتے۔ یہ تاریخی ملفوظات کے درجہ میں ہیں جن پر کچھ اعتماد نہیں۔

## رابعاً

تحریر ہے کہ مسئلہ سب و شتم کا زیر بحث آگیا تو اس ضمن میں قاعدہ کے طور پر  
اجمالاً اس چیز کو ذکر کر دیا جاتا ہے جو عام ناظرین کے لیے مفید ہے۔ اکابر علماء اس  
سے پہلے ہی واقف ہیں۔ ان کو اس کی حاجت نہیں۔

— صحابہ کرام کا مقام و احترام ان کی صداقت، دیانت، ان کا کردار و اخلاق  
کتاب اللہ اور سنتِ صحیحہ سے ثابت ہے۔ اس بنا پر ان کے حق میں اگر روایت سب و شتم  
لعن وغیرہ کی پائی جائے تو وہ روایت ضعیف و مجروح و بے اصل ہوگی اور قابلِ اتقان  
نہ ہوگی۔

— اور اگر صحیح سند کے ساتھ پائی گئی ہے تو وہاں سب و شتم کا مفہوم قابلِ  
تاویل ہوگا اور وہ روایت مؤول ہوگی اس لیے کہ سب و شتم کے الفاظ ہمیشہ کالی  
گلوچ کے معنی میں ہی مستعمل نہیں ہوتے بلکہ کئی مواقع میں تو صرف سخت گوئی، درشت  
کلامی اور مخاطب کی عیب چینی، ایک دوسرے کے عیوب و نقائص کی نشاندہی کرنا  
وغیرہ معانی میں پائے جاتے ہیں۔ اس پر چند مثالیں ملاحظہ ہوں:-

— بنی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کو چشمہ کے پانی کو حضرت نبی کریم  
صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے سے قبل ہاتھ لگانے سے منع فرمایا۔ ان سے غلطی ہوگئی اور پانی  
کو ہاتھ لگا دیا تو فرمانِ نبوی ہوا کہ

داہل مستما من ما ئہا شیئاً فقالا نعم فسیہما رسول  
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال لهما ما شاء اللہ ان یقول... الخ  
یعنی کیا تم نے پانی کو ہاتھ لگایا تو انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں! تو نبی کریم صلی اللہ  
علیہ وسلم نے ان کو سخت سٹت کہا اور جو اللہ نے چاہا وہ فرمایا۔

- (۱) — الموطاء للامام مالک باب الجمع بین الصلوٰتین فی الحضر والسفر۔  
 (۲) — المسنن لعبدالرزاق، ج ۲، ص ۵۴۶۔ طبع بیروت۔  
 (۳) — حضرت عمرؓ خندق کے روز پریشانی کے عالم میں کفار کو سب کرنے لگے۔

”... ان عمر بن الخطاب قال یوم الخندق وجعل یسب کفار

قریش قال یا رسول اللہ ما کدت اصلی العصر... الخ“

”یعنی خندق کے روز عمر بن الخطاب کفار قریش کو سخت کہنے اور برا کہنے لگے۔ الخ

(جامع الترمذی باب ما جاء فی الرجل نفوته الصلوٰة

بائین یداً۔ ج ۱، ص ۵۳۔ طبع قدیم)

- (۳) — بخاری شریف میں ہے کہ حضرت علیؓ و حضرت عباسؓ کا ایک معاملہ میں

تنازعہ ہو گیا تو وہاں ”استنتب۔ استنتب کے الفاظ مذکور ہوئے (یعنی ایک  
 دوسرے سے سخت کلام ہوتے اور درشت کلامی کی۔

- (۱) — بخاری شریف، ج ۲، ص ۵، ۵۔ کتاب المغازی۔

باب حدیث بنی نضیر و مخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم الیہم۔ طبع نور محمدی دہلی۔

- (۲) — بخاری شریف کتاب الاعتصام، ج ۲، ص ۱۰۸۵۔

باب ما یکره من التعمق والتنازع والغلو فی الدین

طبع نور محمدی دہلی۔

— اور بعض روایات میں طعن و فحش کی کوئی چیز منقول پائی گئی ہے اور اس

کی اچھی تاویل یا بہتر محمل بن سکتا ہے تو بتایا جائیگا اور اگر کوئی صحیح تاویل وہاں نہ ہو سکتی

ہو تو اس روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا اور صحابہ کرام کے ادب کو ہر حال میں ملحوظ

رکھا جائے گا۔



یہ مسئلہ اپنی تفصیلات کے ساتھ مندرجہ ذیل مقامات میں ملاحظہ فرمائیے :-

(۱) — الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم

للفاضل عياض، ص ۵۰-۴۹ ج ۲ - طبع مصر فصل

ومن توقير وبره صلى الله عليه وسلم توقير اصحابه الخ

(۲) — نسيم الرياض شرح الشفاء للشهاب الخفاجي ص ۲۶۶-۲۶۷

ج ۳ - تحت فصل ومن توقيره وبره صلى الله عليه وسلم

توقير اصحابه ... الخ - طبع قديم مصرى -

مختصر یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہؓ پر طعن اُذا کے متعلق ہم نے چند باتیں عرض

کی ہیں۔ ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے خود انصاف فرمادیں کہ یہ اعتراض کہاں تک

صحیح ہے؟ اور بے سرو پا روایات کا سہارا لے کر عوام میں غلط تاثرات دینا کہاں

تک درست ہے؟

— ایک فریق نے دوسرے فریق پر بعض اوقات اگر نقد و تنقید کی کوئی

چیز ذکر کی ہے یا اعتراض و تعرض کر بھی دی ہو (جو وقتی طور پر ہو سکتی ہے) تو اس

کو دائمی سب و شتم سے تعبیر کرنا خالص تعصب ہے۔ اور منبروں پر ہمیشہ گالی گلوچ

دیتے جانے کی شکل میں اس کو ذکر کرنا ناروا جانب داری ہی نہیں بلکہ عنادِ پُر دال ہے۔

اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرامؓ کے ساتھ عناد اور کینہ رکھنے سے محفوظ فرمائے۔

## گزارش

امیر معاویہؓ حضرت عثمانؓ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ دورِ عثمانی میں ایک بڑے

ملک کی ذمہ داریاں ان کے سپرد رہیں۔ پھر ان کا اپنا دورِ خلافت آیا اس میں بھی

ملی خدمات کے کارنامے سرانجام دیتے۔ اور خاندانِ نبی ہاشم کے ساتھ عمدہ روابط

قائم رکھے۔ ان کے دور میں اسلام اور اہل اسلام کو بہت فروغ ہوا۔ اس چیز کا صحیح نقشہ پیش کرنے کے لیے وسیع دفتر درکار ہے تاہم اس دور کے کچھ مختصر سے کوائف ہم نے ذکر کیے ہیں۔ اس سے امیر معاویہ کی شخصیت اور کردار بخوبی معلوم ہو سکتا ہے۔ معترض احباب نے اس دور کو جس شکل میں پیش کر کے ہر آئین اسلامی کے خاتمہ کا ذکر کیا ہے اور فتن و حوادث کا اسے گہوارہ دکھایا ہے اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آگئی ہے۔ انصاف آپ کے ہاتھ میں ہے۔ موازنہ کر کے آپ نتیجہ خود مرتب کر سکتے ہیں۔

---

# عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے متعلقاً

— (۵) —

معتز لوگوں نے حضرت عثمانؓ پر عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے ذریعہ بھی کئی قسم کے اعتراضات وارد فرماتے ہیں۔ مثلاً ایک قدیم تجربہ کار صحابی (عمرو بن العاص) کو مصر سے بلا وجہ دور کر کے اپنے رضاعی برادر (عبداللہ بن سعد) نوجواں کو والی و حاکم بنا دیا۔ اس نے اہل مصر پر کئی قسم کے مظالم کیے وغیرہ۔

ابن مطہر حلی شیبی نے لکھا ہے کہ

”... ولی عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح مصر حتیٰ تظلم منه

اہلبا... الخ“

(منہاج الکرامۃ لابن مطہر الحلی الشیبی، ص ۶۶۔ بحث

عثمانی مطاعن۔ مطبوعہ لاہور در آخر منہاج السنۃ

(جلد رابع)

— یہاں عبداللہ بن سعد کی زندگی کے چند مختصر حالات ناظرین کرام کی خدمت

میں سامنے رکھے جاتے ہیں۔ ان سے ان کی اہلیت و صلاحیت کا اندازہ ہو سکے گا اور

ان کی اسلامی خدمات بھی معلوم ہو سکیں گی۔ اور آخر میں بعض شبہات کا ازالہ کرنا پیش

نظر ہے۔ وہ بھی انشاء اللہ درج ہوگا۔ اس کے ذریعہ وارد کردہ شبہات رفع ہو

سکیں گے۔

۱۔ نسب و رضاع | ان کا نام عبداللہ بن سعد بن ابی سرح بن الحارث ہے علمری

قبیلہ سے ہیں یعنی بنو امیہ قبیلہ کے فرد نہیں ہیں۔

— حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضاعی برادر تھے۔

حضرت عثمان نے عبداللہ مذکور کی والدہ کا دودھ پیا تھا۔

طبقات ابن سعد و أسد الغابہ میں یہ مسئلہ درج ہے :-

”عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح بن الحارث ... بن عامر ... الخ

هو اخو عثمان من الرضاة ارضعت أمه عثمان ... الخ“

(۱) — طبقات ابن سعد، ج ۷، ص ۱۹۰-۱۹۱-ق ۲-

طبع لیدن تحت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح۔

(۲) — أسد الغابہ، ص ۱۷۳، ج ۳۔ تحت عبداللہ

بن سعد۔ طبع طہران۔

(۲) اسلام کے بعد ارتداد پھر اسلام لانا  
اور بیعت کرنا اور دین پر نچتہ رہنا

تراجم نویس علماء نے لکھا ہے کہ  
عبداللہ بن سعد اسلام لاتے۔  
کچھ مدت کے بعد شیطانی فتنوں

میں گرفتار ہو کر اسلام چھوڑ بیٹھے۔ اسلام کی طرف سے ان کو گردن زدنی قرار دیا گیا۔

— جب ۸ھ میں فتح مکہ ہوئی تو اس موقع پر حضرت عثمان نے ان کو

نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے معافی کی درخواست کی اور امن و

امان طلب کیا۔ امان دے دی گئی اور پھر اسلام کی بیعت نبی کریم سے عبداللہ نے کی۔ اور

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام پر بیعت فرمایا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ:

”اسلام لانا ما قبل کی تمام چیزوں کو کاٹ دینا اور ختم کر دینا ہے۔“

— اس کے بعد ان کا اسلام نچتہ ہو گیا۔ دینی حالت بہتر ہو گئی پھر ان سے

امرِ غیر سی منقول ہے اور کوئی اس قسم کی چیز ان سے صادر نہیں ہوئی جس کو منکر اور بُرا

کہا جاسکے۔

— اور لکھا ہے کہ عبداللہ بن سعد قبیلہ قریش کے بہت عمدہ لوگوں میں سے

تھے، نہایت عاقل تھے اور شرفاء میں ان کا شمار تھا۔

— فی نسب قریش . . . . . واستأمن له عثمان يوم فتح مكة

من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه وقد كان امر

بقتله . . . الخ

— فی الطبقات . . . . . وكان قد اسلم قديماً . . . ثم

افتتن وخروج من المدينة الى مكة مرتداً فاهد رسول الله

صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح فجاء عثمان بن عفان الى

البنی صلی اللہ علیہ وسلم فاستأمن له فأمنه . . . وقال

يا رسول الله تبايعه فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم

يومئذ على الاسلام وقال الاسلام يحب ما كان قبلك

— وفي الاستيعاب . . . . . واسلم عبد الله بن سعد

بن ابي سرح ايام الفتح فحسن اسلامه فلم يظهر منه شيء

ينكر عليه بعد ذلك هو احد النجباء العقلاء الكرماء من

قریش

— وفي المنتقى (للذهبي) . . . ثم انه حسن اسلامه

ولم يوشر عنه بعدها الا الخير

(۱) — نسب قریش للمصعب الزبیری ص ۳۳۳ - تحت

ولد ابی سرح -

(۲) — طبقات ابن سعد، ج ۷، ق ۲، ص ۱۹۰ - ۱۹۱ -

تتبعه، ص ۱۱، ۲، سعد بن ابی سرح -

(۳) — الاستیعاب (معہ الاصابہ) ج ۲ ص ۳۶۸۔

تحت عبد اللہ بن سعد مذکور۔

(۴) — اسد الغابہ، ج ۳ ص ۳، تحت عبد اللہ مذکور۔

(۵) — المنتقی للذہبی، ص ۲۰۳ طبع مصر۔

(۶) — جوامع السیرة لابن خزم، ص ۲۳۲۔ تحت غزوة

فتح مکہ

عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح کو اللہ تعالیٰ نے عمدہ سلاحت  
۳۔ والی و حاکم ہونا | بخشی ہوئی تھی۔ انتظامی معاملات میں مستعد کارکن تھے

اسی بنا پر حضرت فاروق اعظم نے ان کو اپنے عہد خلافت میں "سعید" کے علاقہ کا والی  
اور حاکم مقرر کر رکھا تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت عثمان نے ان کو مصر کا حاکم بنایا۔ حافظ  
ابن حجر نے ابن البرقونی کے حوالہ سے یہ مسئلہ بالفاظ ذیل نقل کیا ہے :-

"... ثنا ابو صالح من الیث قال کان ابن ابی سرح علی

السعید فی زمن عمر ثم ضم الیہ عثمان مصر کلہا... الخ"

(الاصابہ ومعہ الاستیعاب) ج ۲ ص ۳۹

تحت عبد اللہ بن سعد

وقت مصالح کے پیش نظر جب حضرت  
۴۔ فتوحات اسلامی میں کارنامے | عثمان نے عبد اللہ کو مصر کا حاکم مقرر کیا

تو انہوں نے متعدد معرکے سر کیے اور اسلام کی اشاعت کے لیے قتال کیا۔ افریقیہ کی

فتح تو ان کی نگرانی میں سب سے زیادہ مشہور ہے جو ۲۷ھ میں ہوئی تھی اور اس کے

ساتھ ساتھ غزوة اسود و ارض نوبہ میں ۳۱ھ میں، اور غزوة الصواری (بحر روم میں ۳۲ھ

میں، انہوں نے فتح حاصل کی۔ اور ان تمام وسیع علاقوں کی فتوحات عبد اللہ بن سعد

کی نگرانی اور ماتحتی میں ہوئیں۔ یہ ان کی اعلیٰ ملی خدمات ہیں جنہیں اکابرین امت بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔

— فی الاستیعاب . . . . . ثم و لآه عثمان بعد ذلك مصر

” . . . . . وفتح على يديه افریقیة سنة سبع وعشرين . . . الخ“

— وفي الاصابة . . . . . وله مواقف محمودة في الفتوح

” . . . . . وكان محموداً في ولايته وغزاه ثلاث غزوات افریقیة

وذات الصواری والاساود . . . الخ“

(۱) — الاستیعاب (مع الاصابة) ج ۲، ص ۳۶۸۔

تحت عبداللہ بن سعد۔

(۲) — اسد الغابہ، ج ۳، ص ۱۷۳۔ تحت عبداللہ مذکور

(۳) — الاصابة (مع الاستیعاب) ج ۲، ص ۳۰۹۔ تحت

عبداللہ بن سعد۔

عبداللہ بن سعد نے ایک مدت تک اسلامی ملی

۵۔ عبداللہ کا خاتمہ بالخیر | خدمات سرانجام دینے کے بعد شہادتِ عثمانیہ

فتنہ کے دور میں عزلت نشینی و خلوت گزینی پسند کر لی تھی اور پیدا شدہ تنازعات سے

الگ رہنے لگے تھے بعض نے عسقلان کے مقام میں بعض نے رملہ کے مقام میں ان کا

مقیم ہونا ذکر کیا ہے۔

— آخری ایام میں بارگاہِ خداوندی میں انہوں نے دعا کی کہ خداوند! !

میرا خاتمہ بالخیر نماز میں فرما دے۔“ دعا قبول ہو گئی۔

صبح کی نماز کے لیے وضو کیا۔ نماز میں مشغول ہو گئے۔ نماز کے آخر میں داہنی

طرف سلام پھیرا، بائیں جانب سلام کہنے لگے تو پیغامِ اجل پہنچ گیا اور دارِ آخرت

میں تشریف لے گئے (سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

”..... قیل بل اقام بالرملة حتى مات فاراً من الفتنة  
ودعاربه فقال اللهم اجعل خاتمة عملي صلوة الصبح فتوضاً  
ثم صلى الصبح..... ثم سلم عن يمينه وذهب يسلم عن  
يساره فقبض الله روحه“

(۱) — — الاستيعاب، ج ۲، ص ۳۶۶، معہ الاصابہ۔

تحت عبد اللہ بن سعد۔

(۲) — — أسد الغابہ، ج ۳، ص ۱۰۲، تحت عبد اللہ

بن سعد بن ابی سرح۔

(۳) — — الاصابہ، ج ۲، ص ۳۰۹، تحت عبد اللہ بن سعد

بن ابی سرح۔

(۴) — — سيرة الحلبيّة (علي بن بريان الدين الحلبي، ص ۲۶۲)

ج ۳۔ باب ذکر المشاہیر من کتابہ صلعم۔

## چند شبہات کا ازالہ

حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ پر مغرض احباب نے گونا گوں  
اعتراضات وارد کیے ہیں ان میں عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح کے متعلق بھی کئی  
اعتراض تجویز فرماتے ہیں۔ اور ابن ابی سرح چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رضاعی برادر ہیں،  
(اگرچہ قبیلہ بنو امیہ سے نہیں) اور ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مصر کا والی بنایا تھا اس وجہ  
سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح پر یہ مشترکہ اعتراضات ہیں۔ یہاں  
ان کا ازالہ کرنا پیش نظر ہے۔



(۱)

ایک تو یہ بات قابلِ اعتراض تجویز کرتے ہیں کہ عبداللہ مسلمان ہوتے پھر کچھ زمانہ کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کے قتل کا حکم دے دیا تھا۔ گردن زدنی قرار دیئے گئے تھے۔ وغیرہ۔ اس کے متعلق یہ وضاحت کی جاتی ہے جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، کہ ان کا اسلام لانا پھر کچھ مدت کے بعد مرتد ہونا یہ فتح مکہ سے پہلے کا زمانہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت عثمانؓ نے ان کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ مسلمان ہوتے اور تجدید بیعت کی۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام لانا سابقہ تمام خطاؤں اور غلطیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ (ان الاسلام یحب ما کان قبلہ)۔ جیسا کہ گذشتہ صفحات میں عنقریب گزرا ہے۔ اس فرمانِ نبوت کے ذریعہ مسئلہ صاف ہو گیا کہ گذشتہ خطا میں چھوٹی بڑی سب معاف ہیں۔ اور ان کا اسلام منظور ہے۔

\_\_\_\_\_ ایک مشہور صحابی عمرو بن العاصؓ ہیں ان کا واقعہ بھی کتب حدیث میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کرنے لگے تو اپنے ہاتھ کو بڑھانے سے روک کر عرض کی یا رسول اللہ! یہ شرط ہے کہ میری سابقہ غلطیاں معاف ہو جائیں تو اس وقت بھی فرمانِ نبوی یہی ہوا تھا کہ اے عمرو بن العاص! تو جانتا نہیں کہ ان الاسلام یهدم ما کان قبلہ (یعنی اسلام ما قبل کی چیزوں کو گرا دیتا ہے)۔

مسلم شریف جلد اول کتاب الایمان، ص ۶، (طبع

نور محمدی) باب کون الاسلام یهدم ما کان قبلہ... الخ

۔۔۔ اسی طرح اس دور میں کئی لوگ مرتد ہوتے تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو کر

ٹھیک ہو گئے۔ عبداللہ بن سعد کی بھی یہی صورت حال ہے۔ اب ان حالات کے بعد کئی گذشتہ خطاؤں کو شمار میں لا کر گرفت کرتے رہنا اور ان کو مرتد و طردید رسول کے لقب سے

یاد کرنا اسلامی طریقہ کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں وعید کے طور پر فرمانِ خداوندی ہے کہ:

”وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (سودہ حجرات)

”یعنی اور ایک دوسرے کو بُرے لقب سے نہ پکارو۔ ایمان لانے کے بعد بُرا نام گنہگاری ہے اور جو لوگ توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔“

(۲)

————— نیز ان لوگوں کی جانب سے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح وغیرہ پر یہ طعن کیا جاتا ہے کہ یہ طلقاء تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر انہیں معافی دے دی تھی۔ ان طلقاء کو حضرت عثمانؓ نے اُمت کا سرخیل بنا دیا تھا۔ اس وجہ سے لوگ ان کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ وغیرہ

————— اس مسئلہ کے متعلق اتنی گزارش کافی ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر باب کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر جہاں اور احکامات اور فرمان صادر فرمائے تھے ان میں یہ فرمان بھی تھا کہ ”یا معشر قریش! (یعنی اے قریش کی جماعت) اللہ تعالیٰ تم سے جاہلیت کا کبر و غرور اپنے آباؤ اجداد کے ساتھ فخر کرنا لے گیا ہے۔ تمام لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے ہیں۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ... الخ

”یعنی اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو قبیلے اور شاخیں بنایا تاکہ تم باہم جان پہچان کر سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے پرہیزگار زیادہ ہے۔“

پھر فرمایا :-

”یا معشر قریش! تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ کروں گا؟ تو لوگوں نے کہا اچھا اور بہتر معاملہ کریں گے۔ آپ خود مہربان و شریف ہیں اور مہربان و شریف کے لڑکے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سب چلے جاؤ، تم طلقاً ہو یعنی تم سب کو معافی دے دی گئی ہے۔“

(سیرۃ ابن ہشام، ص ۴۱۲، ج ۲، تحت

طواف الرسول بالبیت و کلمتہ فیہ طبع مصر)

خطبہ مذکورہ کے وقت قریش کے تمام قبائل حاضر تھے۔ تمام قوم سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا کسی ایک قبیلہ کے افراد مخاطب نہ تھے۔ اور نہ ہی چند خصوصی افراد مفسود تھے۔ قریش کے متعدد قبیلے خدمت نبوی میں حاضر تھے۔ بنی تیم تھے۔ بنی عدی تھے۔ بنی مخزوم تھے۔ بنی خزیمہ تھے۔ بنی اسد تھے۔ بنی نوفل تھے۔ بنی زہرہ تھے۔ بنی ہاشم تھے۔ بنی عبد شمس (بنی امیہ) تھے۔ وغیرہ۔ ان تمام حاضرین کو فرمان ہوا تھا کہ ”اذہبوا فانتمو الطلقاء“ (جاؤ، تم سب کو معافی دے دی گئی ہے) کسی خصوصی قبیلہ کے لیے یہ حکم نہیں تھا۔ یا معشر قریش، یا معشر قریش کے الفاظ عدم تخصیص پر بڑا واضح قرینہ ہے۔

اس کے بعد خاص بنو امیہ کے چند افراد (ولید بن عقبہ، امیر معاویہ، عبد اللہ بن ابی سرح وغیرہ) کو طلقاً، طلقاً، کہہ کر عوام میں نفرت پھیلانا کون سا کارِ خیر ہے۔ پہلے تو یہ کوئی بُرا لفظ نہیں تھا جسے آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا تھا۔ صرف معافی کے الفاظ ہیں۔ پھر اس لفظ کی وجہ سے صحابہ کرام کے دور میں کوئی باہمی تنقیر یا حقارت نہیں قائم تھی۔ نہ ہی ایک دوسرے کے حق میں اسے بطور طعن استعمال کرتے تھے نہ ہی ان حضرات کے صاحب منصب ہونے پر صحابہ کرام پریشان تھے بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے وہ اس طرح

کہ حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے دورِ خلافت میں ان (طلقاء) کو اچھے اچھے منصب عطا فرمائے۔  
عہدے دیتے جیسا کہ ہم نے سابقاً ذکر کر دیا ہے۔ اور خاص عبداللہ بن ابی سرح کو بھی  
حضرت عمرؓ نے "الصعید" کے علاقہ کا حاکم بنایا، یا دوسرے لفظوں میں طلقاء کو امت کا  
سرخیل بنا دیا۔ (عنقریب گذشتہ صفحات میں حوالہ دیا گیا ہے)

— حیرت کی بات ہے کہ صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظم کے ادوار میں انہی طلقاء  
کو منصب و عہدے دیتے جائیں تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ نہ پلک پریشان ہوتی ہے، نہ  
حضرت عمرؓ پر کوئی طعن ہے۔ اور اگر ان کو حضرت عثمانؓ کے دور میں چند عہدے مل جائیں تو  
یہ طلقاء مبعوض و مطعون بن جاتے ہیں۔ سارے عوام ان سے متنفر ہونے لگتے ہیں اور طلقاء  
کو سرخیل امت بناتے جانے کا پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔

(یا للعجب)

— (۳) —

— ایک طعن یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمانؓ نے عمرو بن العاصؓ تجربہ کار صحابی کو  
مصر سے ہٹا دیا اور اپنے برادر عبداللہ بن سعد کو یہ جلیل منصب دے دیا۔ یہ متعصبانہ کاروائی  
تھی اور نسلی امتیازات کی بنا پر کی گئی تھی۔ پھر عبداللہ بن سعدؓ نے بڑی خرابیاں کر دیں۔ وغیرہ  
— اس شبہ کے ازالہ کے لیے ذیل میں چند چیزیں پیش خدمت ہیں ان پر غور  
فرمادیں۔ مزید کسی جواب کی حاجت نہ رہے گی۔

(۱) — عبداللہ بن سعد بن ابی سرحؓ حضرت عثمانؓ کے قبیلہ (بنو امیہ) سے نہیں  
قبیلہ بنی عامر سے ہیں البتہ ان کے رضاعی برادر ہونے کو ہی معتصبین نے مجرم تجویز کر لیا ہے۔  
(۲) — عمرو بن العاصؓ رضی اللہ عنہ کو جس سال مصر سے معزول کیا گیا اور  
عبداللہ بن سعد کو والی و حاکم بتایا گیا تھا۔ اسی سال (یعنی ۲۷ھ) میں جنگ افریقیہ ہوئی  
تھی۔ عبداللہ بن سعدؓ کو رکی ماتحتی میں یہ تمام مہم سر کی گئی تھی۔ ان مجاہدین میں عمرو بن العاصؓ

کے حقیقی صاحبزادے عبداللہ بن عمرو بن العاص، شامل تھے۔ عبداللہ خود صحابی تھے اور دیگر صحابہ کرام مثلاً عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن الزبیر، معبد بن عباس، عبداللہ ابن عباس، ابن جعفر، حسن و حسین وغیرہم کے ساتھ افریقیہ کی جنگ میں باوق و شوق شریک ہوئے۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ تمام حضرات نے غنائم حاصل کیے۔ یہ سب امور عبداللہ بن سعد کی ماتحتی میں سرانجام پاتے اور عبداللہ بن سعد امیر شکر تھے۔

خلیفہ ابن خیاط نے اپنی تاریخ بلد اول میں لکھا ہے :-

” وفيها (سنة) عزل عثمان بن عفان عمرو بن العاص

عن مصر و لآها عبد الله بن سعد بن ابي سرح فغزا ابن ابي

سرح افریقیة و معه العبادلة عبد الله بن عمرو و عبد الله بن

عمرو (بن العاص) و عبد الله بن الزبير الخ

(۱) — تاریخ خلیفہ بن خیاط، جز اول، ص ۱۳۴۔

تحت سنة ۲۴ھ - طبع عراق -

اور یہ واقعہ مندرجہ ذیل مؤرخین نے بھی درج کیا ہے کہ جنگ افریقیہ میں حضرت

عمرو بن العاص کے لڑکے عبداللہ شریک ہوئے اور امیر شکر عبداللہ بن سعد بن ابی

سرح تھے۔

(۲) — فتوح البلدان للبلاذری، ص ۲۳۴۔ تحت

عنوان فتح افریقیة -

(۳) — تاریخ ابن خلدون، ج ۲، ص ۱۰۰۳۔ تحت

ولایة عبد اللہ بن ابی سرح علی مصر و فتح افریقیة

طبع جدید بیروت -

مقصد یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ نے عمرو بن العاص کو مصر سے اگڑنا جائز طریقہ سے



تو معلوم ہوا کہ مصر سے ان کی معزولی متعصبانہ نہ تھی اور نہ اس کا ان کو رنج تھا بلکہ یہ منصب کی تبدیلی وقتی مصالح کے تحت ہوتی تھی۔

تنبیہ :-

ابھی آیام میں افریقیہ کا تمام خمس ابن ابی سرح کو دیتے جانے کا طعن مشہور ہے۔ اس کا جواب انشاء اللہ تعالیٰ باعتبار رمال کے اقربانوازی کے تحت پیش کیا جائیگا۔ یہ بحثیں باعتبار منصب کے اقربانوازی کی جا رہی ہیں۔ ان کے بعد بحث رابع مذکور درج ہوگی۔ اس میں یہ مسئلہ درج کیا جائے گا۔ (بعونہ تعالیٰ)

## افادہ

اس موقع پر اعتراض کنندہ لوگوں کی طرف سے تاریخ طبری جلد پنجم، ص ۱۷۱ تحت سلسلہ سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے جس میں حضرت عثمانؓ پر سخت تنقید کی گئی ہے۔ اور کہا ہے کہ عثمانؓ کا خون گرانا حلال ہے۔ اور عبداللہ بن سعد پر گرفتیں مذکور ہیں۔ یہ تمام عیب پینی محمد بن ابی بکر اور محمد بن ابی حذیفہ کی طرف سے ذکر کی گئی ہے۔ — روایت ہذا طویل ہے۔ اس کو نقل کرنا پھر اس کا ترجمہ دینا مزید طوالت کا موجب ہے۔ اس قدر نشانہ ہی جو ذکر کی ہے تعین روایت کے لیے کافی ہے۔ — مختصراً اس پر روایت و درایت کلام عرض ہے جو منسلف طبائع کے لیے کفایت کرے گا۔ اور اس سے روایت ہذا کا غیر معتبر ہونا واضح ہو سکے گا۔

وہ اس طرح ہے ابن جریر طبری نے محمد بن عمر باعتبار روایت کے گفتگو (واقعی سے اور واقعی نے معمر بن راشد سے

پھر معمر نے زہری سے یہ قصہ نقل کیا ہے۔

(۱) — محمد بن جریر طبری نے تاریخ میں سب طرح کی صحیح و سقیم تصنیف و

قوی رطب و یابس موضوع بے اصل تمام قسم کی روایات جمع کر دی ہیں عموماً سند لاتے ہیں کبھی نہیں لاتے۔ اپنے قول کے طور پر بات ذکر کرتے ہیں۔ یہ چیز اہل علم پر واضح ہے۔ کوئی مخفی امر نہیں۔ اس روایت کی مذکورہ سند ذکر کی ہے۔

(۲) — طبری نے محمد بن عمرو اقدی سے یہ مال حاصل کیا ہے۔ واقفی بزرگ مشہور کذاب ہے، متروک ہے، واضح الحدیث ہے۔

(تقریب التہذیب و تہذیب التہذیب، ج ۹،

ص ۳۶۲۔ تحت محمد بن عمرو اقدی، ج ۹، ص ۲۶۶۔

ج ۹، ص ۳۶۴، تحت محمد بن عمرو اقدی)

جب تک دوسرے ذریعہ سے اس کے قول کی تصدیق و توثیق نہ ہو جائے قابل تسلیم نہیں اور اس کی منفردانہ اشیاء متروک ہوتی ہیں۔ اس روایت میں جو کچھ درج ہے کسی صحیح روایت سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔

(۳) — واقفی نے معمر بن راشد سے نقل کیا اور معمر اگرچہ ثقہ آدمی ہے

اور اس کے لیے مدح و توثیق بہت کچھ اہل علم نے درج کی ہے۔ اس کے باوجود یہ بات بھی ملتی ہے کہ معمر کا ایک برادر زادہ (یا خواہر زادہ) رافضی تھا۔ معمر کے ذخیرہ روایات (یعنی کتابوں) پر اس کو قدرت حاصل ہوئی اور اس نے ان میں تصرفات کر دیئے۔ اس مسئلہ کے لیے مندرجہ ذیل مقامات ملاحظہ فرمادیں۔ اور ابن حجر کے الفاظ مندرجہ ذیل ہیں :-

”قال ابو حامد ابن الشوقی هو حدیث باطل والسبب

فیہ ان معمرأ کان لله ابن اخ رافضی وکان معمر یکنہ

من کتبہ فادخل علیہ هذا الحدیث“

(۱) — میزان الاعتدال للذہبی، ج ۱، ص ۳۸، تحت



احمد بن الازہر بن نعیع النیساپوری۔

(۲) — تہذیب التہذیب لابن حجر، ج ۱، ص ۱۲ تحت

احمد بن الازہر بن نعیع۔

(۳) — ذیل اللالی المصنوعۃ السیوطی۔ کتاب المناقب ص ۶۱

مطبع علوی کھنوی قدیم طبع تحت مناقب علی بن ابی طالب

یہاں یہ بات لازماً قابل ذکر ہے کہ کوئی زریع عن الحق کرنے والا دوست یہ قاعدہ نہ تصنیف

فرمائے کہ پھر تو معمر کی تمام روایات مشکوک ہو گئیں نہیں یہ بات غلط ہے۔ بلکہ مذکورہ واقعہ

علمائے معمر کی ان روایات کے تحت نقل کیا ہے جو قواعد مسلمہ کے خلاف ہیں۔ منکر اور

شاذ قسم کی روایات ہیں۔ شریعت کے مسلمہ قواعد کے مخالف نظر آتی ہیں اور ان کا کوئی

صحیح محمل قائم نہیں ہو سکتا۔ معمر سے ایسی روایات کے متعلق محققین علماء نے بیشک تصریح

کی ہے کہ ان میں اشتباہ و تخیل پائی گئی ہے۔ اور ہماری زیر بحث ظہری کی روایت بھی

اسی نوع کی ہے۔ فلہذا وہ بھی قابل قبول نہیں۔

(البدایہ لابن کثیر، ج ۸، ص ۱۱-۱۲ تحت عنوان غریبۃ من الغریب

وآبدۃ من الاوابد)

(۴) — پھر معمر نے اس قصہ کو زہری سے لیا ہے اور یہ تمام واقعہ زہری کا اپنا

قول ہے۔ اس دور کے کسی معروف شخص کا قول نہیں۔ زہری ثقہ آدمی ہے لیکن قابل غور یہ

بات ہے کہ ابن شہاب زہری اس وقت موجود ہی نہ تھے۔ بلکہ ان کی پیدائش ۵۸ھ

میں علماء نے لکھی ہے۔ اور یہ واقعہ (جنگ افریقیہ کا قریباً ۳۷ھ میں) پیش آیا تھا۔

جیسا کہ ابن خیاط کا حوالہ گزرا ہے) اور ظہری نے اس کو سن ۳۷ھ کے تحت درج کیا

ہے لیکن خلیفہ ابن خیاط کی تحقیق درست معلوم ہوتی ہے۔ گویا کہ قریباً قریباً اکتیس سال

علامہ زہری بعد میں پیدا ہوئے تھے۔ پھر ان کا سن شعور کم از کم پندرہ سال ہی سمجھا جائے

تو سینتالیس سال ہوئے۔ اتنی مدت کے اندر یہ روایت کہاں کہاں رہی کس کس نے اسے بیان کیا۔ کس شخص نے ابن شہاب زہری کو سنائی سارے مراحل قابل تامل ہیں اس کے مقابل متصل السند اور صحیح روایات جو ہیں جن میں یہ مطاعن عثمانی نہیں ہیں ان کو قبول کیا جائے گا اور اس روایت کو متروک سمجھا جائے گا۔

درایت کے اعتبار سے اس پر کلام قابل غور چیز یہ ہے کہ اگر اس روایت کی بیان کردہ اشیا

درست فرض کر لی جائیں (کہ عثمانؓ میں فلاں فلاں عیب ہیں اس وجہ سے ان کا خون گرا نا درست ہے وغیرہ) تو جنگ افریقیہ کی اس مہم میں مدینہ منورہ سے اکابر صحابہ اور ہاشمی و قریشی جوانوں کی ایک بڑی جماعت مثلاً ابن عمرؓ، ابن عباسؓ، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر بن العوام، مشور بن مخرمہ، بسر بن ارطاة، سیدنا حسنؓ و سیدنا حسینؓ (بقول ابن خلدون) وغیرہ کیوں شریک جہاد ہوئے۔ ان لوگوں نے پہلے حضرت عثمانؓ پر، پھر عبداللہ بن سعد پر یہی اعتراضات کھڑے کرنے چاہیے تھے کیوں نہ اعتراض قائم کیے؟ خاموشی کے ساتھ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے ماتحت ہو کر جنگی مہموں میں کیوں شامل ہو گئے؟

دوسری یہ چیز قابل توجہ ہے، محمد بن ابی بکر و محمد بن ابی حذیفہ دونوں چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں بڑے بڑے اشراف و اکابر قریش تو مذکورہ مطاعن کو مد نظر نہ رکھیں اور نہ یہ عیوب پھیلائیں۔ یہ چھوٹے لوگ ان عیوب کا پرچار کریں۔ گویا ان کو یہ عیوب نظر آگئے اور اکابر کو نظر نہ آئے۔

اور بقول بلاذری حضرت ابو بکرؓ کے صاحبزادے عبدالرحمن بن ابی بکرؓ اس جنگ افریقیہ میں عبداللہ بن سعد کی ماتحتی میں بخوشی شریک ہوتے اور ان کے برادر محمد بن ابی بکرؓ عبداللہ بن سعد پر اور حضرت عثمانؓ دونوں پر شدت سے اس موقع پر طعنہ زنی کرتے ہیں۔

یہ دونوں بھائیوں کا عملی و قولی تضاد ہوا۔ اس صورت میں عبدالرحمن بن ابی بکر کے عملی تعاون کو مقدم رکھا جائے گا اور محمد بن ابی بکر کے اختلاف کو مؤخر کر دیا جائیگا۔ اس لیے کہ عبدالرحمن کا مقام و مرتبہ محمد بن ابی بکر سے ہر لحاظ سے فائق ہے۔

— اس کے علاوہ ایک یہ چیز بھی سوچنے کی ہے۔ اس روایت کی رو سے محمد بن ابی بکر اور محمد بن ابی حذیفہ نے یہ تمام شورش جنگ کے موقعہ پر جا کر کھڑی کی ہے۔ یہاں مدینہ شریف میں یہ مسئلہ کیوں نہیں اٹھایا؟ اگر یہ مسائل صحیح تھے تو ان کو پہلے مرکز اسلام مدینہ میں لوگوں کے سامنے بات رکھنی چاہیے تھی۔ مصر سے آگے نکل کر میدان جنگ میں جا کر اس کا کیا موقع تھا؟ خلاصۃ المرام یہ ہے کہ یہ روایت عقلاً بھی قابل تسلیم نہیں ہے، جیسا کہ نقلاً ناقابل قبول ہے۔

# مروان بن الحکم کے متعلقات

—(۶)—

حضرت عثمانؓ نے جن اقرباء کو حکومت کے کاموں میں شامل کیا تھا ان میں ایک مروان بن الحکم بھی ہے۔

حضرت عثمانؓ کے باقی اقارب کی طرح اس پر بھی کئی قسم کی تنقیدیں کی جاتی ہیں۔ مروان کی خوبیاں معدوم کر دی گئی ہیں اور خرابیاں اُجاگر کی گئی ہیں۔ حالانکہ ایک شخص میں اگر خامیاں ہوتی ہیں تو ضرور کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہاں مروان کے جستہ جستہ حالات ذکر کیے جاتے ہیں۔

(۱) — مروان کی زندگی کا وہ نقشہ جو اعتراض کنندگان نے پیش کیا ہے۔

اس میں قبائلی تعصب اور تاریخی بے راہ روی کو بہت کچھ دخل ہے۔ انہی تاریخی مواد پر نظر کرتے ہوئے بعض علماء اور مصنفین نے مروان پر تنقید کر دی ہے۔

آئندہ سطور میں ہم مروان کی زندگی کے چند حالات و واقعات

پیش کرتے ہیں جن سے اس کی اہلیت و صلاحیت نمایاں ہوگی اس کا اخلاق و کردار روز روشن کی طرح عیاں ہوگا۔ قبائلی تعصب کا جواب بھی ساتھ ساتھ ہوگا۔ نسلی امتیازات بے وزن نظر آئیں گے۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے تعلقات کا بہتر پہلو بھی سامنے آسکے گا۔

(۲) — مروان کی معصومیت کے ہم دعویٰ دار نہیں ہیں۔ اور نہ ہی ہم اس

بات پر مصر ہیں کہ مروان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے اس سے بعض

خطائیں موقعہ بہ موقعہ صادر ہوتی ہوں۔ اللہ اس کو معاف فرمائیں لیکن اس کی خوب چوڑی کا پہلو سامنے لانا ایک علمی اور تاریخی ضرورت ہے۔ اس بنا پر ہم آئندہ سطور میں مروانی تصویر کا دوسرا رخ عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ منصف طبائع خود بخود اصلیت سے مطلع ہو سکیں۔ اور مخالفین مروان نے جو مروان کا کردار بطور حقارت بیان کیا ہے اس کے ساتھ موازنہ کر سکیں۔

(۳) — قبل ازیں بحث اول میں مروان کے منصب و عہدہ کے متعلق مختصراً بعض اشیاء ذکر کی ہیں ان کو بھی تذکرہ مروان میں ملحوظ رکھیں۔ نیز یہ بھی عرض ہے کہ مروان کی مندرجہ اشیاء عثمانی دور کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ کئی چیزیں بعد کے دور کی ہیں۔ گویا کہ مروان کی شخصیت کے اعتبار سے بحث ہو رہی ہے۔

(۴) — اس بحث کے آخر میں بعض شبہات کا ازالہ بھی مناسب ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس کو حسب موقعہ پیش خدمت کیا جائے گا۔

**مختصر حالات** مروان کے والد کا نام الحکم بن ابی العاص بن اُمیہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت بعض علماء کے ہاں مروان کی عمر پانچ سال اور بعض کے نزدیک آٹھ سال تھی۔ یہ اپنے والد کی معیت میں ان کے انتقال تک مدینہ شریف میں مقیم رہا اور الحکم بن ابی العاص کی وفات ۳۲ھ میں ہوئی تھی۔

... قالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومروان

بن الحكم بن ثمان سنين فلم يزل مع ابيه حتى مات ابوہ

الحكم بن ابی العاص فی خلافة عثمان بن عفان ... الخ

(۱) — طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۲۴۲۔ تحت

مروان بن الحكم۔ طبع لیدن۔

(۲) — الاصابہ، ص ۲۵۶، ج ۳۔ معہ الاستیعاب

تحت مروان بن الحکم، فی القسم الثانی۔

” مات الحکم سنة اثنين وثلاثين في خلافة عثمان “

(۳) — الاصابہ، ج ۱، ص ۳۴۵۔ تحت الحکم بن ابی العاص

— ماہ رمضان المبارک ۶۵ھ میں ۶۳ سال کی عمر پا کر دمشق میں مروان

نے اس دارِ فانی سے انتقال کیا۔

” مات فی شهر رمضان سنة خمس وستين بدمشق ... الخ

(۱) — الجمع بین رجال الصیغین، ص ۵۰۱-۵۰۲۔ تحت

مروان بن الحکم۔ طبع حیدرآباد دکن۔

(۲) — الاصابہ، ص ۲۵۶، ج ۳ معہ الاستیعاب تحت

مروان فی القسم الثانی، طبع مصر۔

(۳) — البدایہ لابن کثیر، ج ۸، ص ۲۶۰۔ آخر ترجمہ

مروان بن الحکم۔

حضرت عثمانؓ کے نزدیک مروانؓ عمدہ اخلاق اور بہتر کردار کا مالک تھا۔  
**داماد عثمانؓ** | اس لیے انہوں نے اپنے اس چچا زاد بھائی کو اپنی صاحبزادی ام ابان

الکبریٰ نکاح میں دی تھی۔ اس سے مروان کی اولاد ہوئی اور ام ابان الکبریٰ مروان کی

زوجیت میں ہی فوت ہوئیں۔

”... وتزوجت ام ابان الکبریٰ مروان بن الحکم بن ابی العاص

فولدت له وتوفيت عنده زوجة اياها عثمان “

(نسب قریش، ص ۱۱۲۔ تحت اولاد عثمانؓ)

— اس کے بعد متضوی خاندان اور مروان کے قبیلہ کے مابین چند رشتے ذکر

کیے جاتے ہیں۔ بغور ملاحظہ فرمادیں۔

(۱) — علماء انساب نے لکھا ہے کہ حضرت

علیؑ کی صاحبزادی رملہ مروان بن الحکم کے

لڑکے معاویہ کے نکاح میں تھی۔ رملہ کا

حضرت علیؑ کی اولاد اور مروان  
کے خاندان کے باہمی رشتے

نکاح اس سے قبل ابوالہیاج عبداللہ بن ابی سفیان بن الحارث بن عبدالمطلب کے

ساتھ تھا۔ اس کی رملہ سے اولاد بھی ہوئی لیکن یہ اولاد فوت ہو کر ختم ہو گئی۔ اس کے

بعد رملہ کا نکاح مروان کے لڑکے معاویہ کے ساتھ ہوا۔

اول (۱) — وكانت رملة بنت علي عند ابی الهیاج واسمه عبد الله

بن ابی سفیان بن الحارث بن عبدالمطلب ولدت له وقد

انقرض ولد ابی سفیان بن الحارث ثم خلف علیها معاویة بن

مردان بن الحکم بن ابی العاصی۔

(کتاب نسب قریش، ص ۴۵ تحت ولد علی بن ابی طالب)

(۲) — ..... ومعاویة — شقیق عبد الملك ...

..... وتزوج رملة بنت علی بن ابی طالب بعد ابی الهیاج عبد الله

بن ابی سفیان بن الحارث بن عبدالمطلب۔

رحمہة انساب العرب لابن خزم، ص ۸۷ تحت

اولاد الحکم بن ابی العاصی وولد مروان ابنہ)

دوم (۲) — دوسرا رشتہ علماء انساب نے اس طرح لکھا ہے کہ حضرت امام حسنؑ

کے لڑکے حسن ثنثی کی لڑکی زینب مروان کے پوتے ولید بن عبدالمک کے نکاح

میں تھی جبکہ وہ خلیفہ تھا اور یہ زینب وہ ہیں کہ جن کی ماں حضرت فاطمہ بنت

حسین بن علیؑ بن ابی طالب ہیں۔

مصعب بن عبداللہ الزبیری نے حسن ثنیٰ کی اولاد کے تحت یہ رشتہ درج کیا ہے۔

”وكانت زينب بنت حسن بن حسن بن علي عند الوليد بن عبد الملك بن مروان وهو خليفة“

کتاب نسب قریش لمصعب زبیری، ص ۵۲۔  
تحت اولاد حسن ثنیٰ

اور ابن خرم نے جمہرۃ الانساب میں مروان بن الحکم کی اولاد کی تفصیل کے تحت رشتہ مذکورہ بالا ذکر کیا ہے۔

”... وولد معاوية بن مروان بن عبد الملك الوليد

بن معاوية امه زينب بنت الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب“

جمہرۃ انساب العرب لابن خرم الاندلسی، ص ۱۰۸  
تحت اولاد مروان بن الحکم

فائدہ :- ناظرین کرام پر واضح رہے کہ معاویہ بن مروان کے نکاح میں رملہ بنت علیؓ پہلے تھی اور زینب بنت حسن ثنیٰ اس کے نکاح میں اس کے بعد آتی تھیں (ان ہر دو کے نکاح کا زمانہ الگ الگ ہے) اور زینب بنت حسن ثنیٰ کے یکے بعد دیگرے دو خاوند تھے۔ ایک معاویہ بن مروان تھا، اس کے بعد مروان کا پوتا ولید بن عبد الملک بن مروان تھا۔ یہ تصریح معلوم نہیں ہو سکی کہ پہلے کس کے نکاح میں تھی اور بعد میں کس کے نکاح میں تھی اور بعد میں کس کے نکاح میں آئی۔ چچا اور بھتیجے کے نکاح میں یکے بعد دیگرے ایک عورت کا منکوحہ ہونا کوئی عجیب نہیں۔

سوم (۳) — اور اس خاندان کا تیسرا رشتہ اس فن کے علماء نے اس طرح



لکھا ہے کہ :-

”حضرت سیدنا حسن بن علی المرتضیٰ کے لڑکے زید بن حسن کی لڑکی نفیسه کا نکاح مروان کے پوتے ولید بن عبد الملک بن مروان سے ہوا اور اس سے اولاد بھی ہوئی۔“

”..... و نفیسة بنت زید تزوجھا ولید بن عبد الملک بن مروان فتوقیت عنده و امھا لبایة بنت عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم“

طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۲۲۲- تحت

زید بن حسن بن علی بن ابی طالب

”..... وکان لزید ابنة اسمھا نفیسة خرجت الی الولید بن

عبد الملک بن مروان فولدت منه۔“

”وقد قيل انما خرجت الی عبد الملک بن مروان انھما ماتت حاملاً منه والاصح الاول وکان زید یفد علی الولید بن عبد الملک ویفد علی سریره ویکرمه لمکان ابنته“

عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب از

سید جمال الدین ابن عنبثہ الشیعی، ص ۷۰

المقصد الاول تحت عقب زید بن حسن

تنبیہ: بعض علماء نے کہا ہے کہ نفیسه کا نکاح عبد الملک سے ہوا لیکن یہ صحیح

نہیں۔ بلکہ ولید بن عبد الملک بن مروان کے ساتھ نکاح ہونا صحیح ہے۔ اور لفظ ”خرجت“

کی تعبیر شیعہ علماء کی طرف سے ہے۔ ہمارے علماء نے اس طرح نہیں ذکر کیا۔ فافہم۔

چہام (۴) — اور چوتھا رشتہ اس طرح منقول ہے کہ مروان بن الحکم کے حقیقی بھائی

الحارث بن الحكم کے پوتے دستھی اسماعیل بن عبد الملک بن الحارث کے نکاح میں حضرت  
امام حسن بن علی المرتضیٰ کی پوتی مسماة خدیجہ بنت حسین بن حسن بن علی بن ابی طالب تھی۔ اس  
سے اسماعیل مذکور کی اولاد (مسلمہ - اسحاق - حسین - محمد وغیرہ) بھی ہوئی۔ اور خدیجہ کو بعض  
علماء ام کلثوم کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔

..... " فولد اسماعیل بن عبد الملک بن الحارث مسلمة  
واسحاق و مروان و حسینا و محمداً اہم ام کلثوم بنت الحسین  
بن الحسن بن علی بن ابی طالب "

(۱) — کتاب نسب قریش لمصعب الزبیری، ص ۱۰۹  
تحت الحارث بن الحكم۔

(۲) — کتاب نسب قریش، ص ۱۵۱ تحت حسن بن  
علی بن ابی طالب۔

..... " وولد اسمعیل بن عبد الملک بن الحارث بن الحكم المذكور  
محمد الاکبر و الحسین و اسحاق و مسلمة اہم خدیجة بنت الحسین  
بن حسن بن علی بن ابی طالب "

رجمہة النسب العرب لابن خرم، ص ۱۰۹۔  
تحت اولاد محمد بن مروان بن الحكم،

پنجم (۵)، اور پانچواں رشتہ علامہ ابن خرم نے اسی مقام میں یہ ذکر کیا ہے کہ خدیجہ مذکورہ  
کے بعد خدیجہ کی چچا زاد بہن مسماة حمادہ (بنت الحسن بن الحسن بن علی بن ابی طالب)  
اسمعیل مذکور کے نکاح میں آئی اور اس سے (محمد الاصفغر - الولید - یزید وغیرہ) اسمعیل  
کی اولاد ہوئی۔

..... " وولد اسمعیل بن عبد الملک بن الحارث بن الحكم

..... محمد الاصغر والولید ویزید اعم حمادة بنت  
الحسن بن الحسن بن علی بن ابی طالب خلف علیها بعد بنت عمها  
المذكورة۔“

دجمہرۃ انساب العرب، ص ۱۰۹ تحت ولد محمد بن

مردان بن الحکم

مندرجہ بالا عنوان کے تحت متعدد درشتہ داریاں ان ہر دو خاندانوں کی ذکر کر دی  
گئی ہیں۔ یہ ”نسبی تعلقات“ دونوں قبائل کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کے لیے عمد  
آثار ہیں جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق پر ثبت ہیں اور عمدہ شہادتیں ہیں جن کی تلمذ یا  
کرنا مشکل ہے۔

اب اگر وقتی طور پر گاہے گاہے ان خاندانوں کے درمیان کوئی تنازعہ یا مناقشہ  
پیش آیا ہے تو اس کا وقوع ایک وقتی مسئلہ کی حیثیت میں متصور ہو گا جیسے وقتی مسائل  
سامنے آتے ہیں اور فرو ہو جایا کرتے ہیں اور ان کو اپنی حدود میں ختم کر دیا جاتا ہے۔  
حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے تنازعات عموماً وقتی ہوا کرتے ہیں اور  
رشتہ داری کا تعلق دائمی ہوتا ہے اور پشہنہا پشت تک جاری رہتا ہے۔

نیز تاریخی مواد میں جو ان خاندانوں کے درمیان اختلافات کی داستانیں ذکر  
کی جاتی ہیں ان میں اصلیت کم ہوتی ہے اور افراط و تفریط کو زیادہ دخل ہوتا  
ہے۔ ان تاریخی چیزوں کو معنی برحقیقت قرار دینا کسی طرح صحیح نہیں ہوتا۔

یہ تمام رشتے حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد شریف نے مردان کے

خاندان کو بخوشی دیئے اور برضا مندی یہ نسبی تعلق قائم کیے۔ یہ تاریخی حقائق ہیں ان  
کے ذریعہ یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ حضرت مرتضیٰ کا خاندان مردان کے خاندان کو بُرا  
نہیں جانتے بلکہ اچھا سمجھتے تھے اسی بنا پر یہ نسبی تعلقات باہمی قائم کیے۔

نیز واضح ہوا کہ مروان بن حکم کے حق میں قباحتوں کی داستانیں صحیح نہیں ہیں۔ جس طرح بعد والے لوگوں نے پیش کی ہیں۔ اس لیے کہ مروان کے خاندان کے ساتھ رشتے قائم کرنے والے ہاشمی حضرات اس دور کے قریب تر لوگ ہیں ان پر یہ تمام ”مروانی کارستانیوں“ آشکارا ہونی چاہیے اور ان کے سامنے مروانی کروار واضح ہونا چاہیے تھا۔

بااں ہمہ اگر ہاشمی بزرگ یہ دائمی نسبتیں اس قبیلہ کے ساتھ قائم کرتے ہیں تو ان حضرات نے خاندانی تعامل اور عملی تعاون کے ذریعہ یہ ثابت کر دیا کہ مروان اور اس کا خاندان اس طرح قابلِ نفرت اور لائقِ مذمت نہیں ہے جس طرح روایات کے راویوں نے قوم میں نشر کر دیا ہے۔

مروان کے علمی مقام اور قابلیت کے متعلق

## علمی قابلیت اور ثقاہت

ہماری دینی کتب میں بہت کچھ مواد موجود

ہے۔ چند ایک چیزیں اس مضمون کے متعلق ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔

— مروان ابن الحکم کی علمی توثیق اس قدر مسلم ہے کہ یہ اکابر صحابہ کرام

مثلاً حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ اور حضرت زید بن ثابتؓ، عبد الرحمن بن الاسود

وغیرہم سے روایات حدیث اور مسائل شرعی نقل کرتا ہے۔ اور مروان سے بعض صحابہ

کرامؓ اور اکابر تابعین مثلاً سہل بن سعد (صحابی)، علی بن الحسین (تابعی)، عروہ بن

الزبیر (تابعی)، سعید بن المسیب و مجاہد وغیرہم روایت حاصل کرتے ہیں۔

”روی مروان عن عمرو عثمان و علی رضی اللہ عنہم و روی

عندہ (مروان) سہل بن سعد، علی بن الحسین و عروہ بن الزبیر

و ابوبکر بن عبد الرحمن“

(۱) — کتاب الجرح والتعديل لابن ابی حاتم الرازی

ج ۴- ق ۱، ص ۲۷۱ تحت مروان بن الحکم - طبع دکن -

(۲) — الجمع بین رجال الصحیحین، ص ۵۰۱-۵۰۲ تحت مروان

بن الحکم بن ابی العاص - طبع دکن -

علماء کرام نے لکھا ہے کہ مروان بن الحکم کا مقام حدیث میں مستند و مقبر ہے۔ یہ فن حدیث میں متہم نہیں۔ اس کی روایت پر اکابر محدثین اور کبار فقہائے امت نے اعتماد کیا ہے۔ اور اس کی مرویات کو اپنی اسانید کے ساتھ کتابوں میں نقل کیا ہے۔ مروان کی چند ایک مرویات بطور نمونہ ذکر کی جاتی ہیں۔

— عروہ بن الزبیر کہتے ہیں کہ حدیث کے باب میں مروان متہم نہیں۔

— سہل بن سعد صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے صدق پر

اعتماد کر کے اس سے روایت نقل کی ہے۔

— امام مالک نے مروان کی حدیث اور اس کی مجتہدانہ رائے پر پورا اعتماد

کیا اور اپنے ”موطا“ میں مروان سے متعدد شرعی مسائل نقل کیے اور مسلم کے علاوہ باقی محدثین نے مروان کی روایات پر اعتماد کیا ہے۔

— قال عدوۃ بن الزبیر کان مروان لا یتہم فی الحدیث

— وقد روی عنہ سہل بن سعد الساعدی الصحابی اعتماداً

علی صدقہ.....“

— وقد اعتمد مالک علی حدیثہ ورأیہ والباقون سوی مسلم المر

رہدی الساری مقدمہ فتح الباری لابن حجر، ج ۲-

ص ۱۶۴ تحت حرف المیم - طبع مصر -

امام مالک نے اپنی مشہور تصنیف موطا کے متعدد مقامات میں مروان بن الحکم سے شرعی مسائل باسناد نقل کیے ہیں اور

**موطا امام مالک**

اس پر پوری طرح اعتماد کیا ہے۔ مثال کے طور پر چند مقام ذکر کیے جاتے ہیں :-

(۱) — الموطاء، امام مالکؒ، ص ۱۴۱۔ طبع مجتہبائی دہلی تحت

الموضوء من مس الفرج۔

(۲) — الموطاء، امام مالکؒ، ص ۸۷۔ طبع مجتہبائی دہلی۔

کتاب الصیام، باب ماجاء فی صیام الذی یصبح جنباً۔

(۳) — الموطاء، امام مالکؒ، ص ۳۰۴۔ طبع مجتہبائی دہلی۔

جامع ماجاء فی الیمین علی المنبر۔

(۴) — الموطاء، امام مالکؒ، ص ۳۴۲۔ طبع مجتہبائی دہلی

تحت القصاص فی القتل۔

(۵) — الموطاء، امام مالکؒ، ص ۳۵۶۔ کتاب السرقة

باب ما لا قطع فیہ۔ طبع دہلی۔

اسی طرح امام محمد بن حسن الشیبانیؒ نے بھی اپنی کتاب ”موطاء“

میں مروان بن الحکم سے متعدد دینی مسائل باسناد نقل کیے ہیں اور

پورے وثوق کے ساتھ انہیں درج کیا ہے۔ ذیل میں ابواب کے ذریعہ نشانی

کر دی ہے۔ تمام عبارت نقل کرنے میں تطویل تھی۔ اس لیے یہ صورت اختیار کی ہے

اہل علم رجوع فرما کر تسلی فرما سکتے ہیں۔

(۱) — موطاء، امام محمد بن حسن شیبانیؒ، ص ۸۷، ۱۔ مطبوعہ

مصطفائی بکھنو۔ باب الرجل یطلع لہ العجری فی

رمضان وهو جنب۔

(۲) — موطاء، امام محمد بن حسن شیبانیؒ، ص ۲۹۰۔ باب

دیتة الاثنان۔

(۳) — مؤطا امام محمد، ص ۲۹۹۔ کتاب الحدود۔ باب

من سرق ثمراً او غیر ذالک مما لم یحیر۔

(۴) — مؤطا امام محمد، ص ۳۰۳۔ باب المختلس کتاب

الحدود۔

(۵) — مؤطا امام محمد، ص ۳۴۰۔ کتاب البیوع۔ باب

الہبنة والصدقة۔ مطبوعہ مصطفائی لکھنؤ۔

مشہور محدث عبد الرزاق نے اپنی تصنیف "المصنف"

**مصنف عبد الرزاق** میں مروان کے ذریعہ اپنی سند کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ

کا ایک فرمان نقل کیا ہے۔ جو بحث ایلاء کے متعلق ہے۔

"..... مروان نے کہا کہ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ ایلاء کے چار ماہ

جب گزر جائیں تو ایلاء کنندہ شخص کو مجبوس کر کے مجبور کیا جائے گا۔

یا تو اس عورت کے حق میں (قسم سے) رجوع کرے، یا پھر طلاق دے

دے۔"

یہ روایت کرنے کے بعد مروان نے کہا کہ اگر اس نوعیت کا تنازعہ

میرے سامنے آئے گا تو علی المرتضیٰ کے فرمان کے مطابق میں فیصلہ

کروں گا۔"

— عن عبد الرزاق عن الثوری عن لیث عن مجاہد عن

مروان عن علی قال اذا مضت الاربعۃ فانتہی بحبس حتی یفیئ

او یطلق۔ قال مروان ولو ولیت هذا القضیت فیہ بقضا

(۱) — المصنف لعبد الرزاق، ج ۶، ص ۴۵۰۔ طبع اول

علیؑ۔

مجلس علمی باب انقضاء الاربعۃ وبحث ایلاء، طبع بیروت

— اور المصنّف لابن ابی شیبہ، جلد خامس میں مروان کا یہ قول بہ الفاظ

ذیل منقول ہے :-

”..... قال مروان ولو وليت لفعلت مثل ما يفعل“

والمصنّف لابن ابی شیبہ، ج ۵، ص ۱۳۱۔ طبع حیدرآباد دکن

تحت فی المولی یوقف۔ ابجاث ایلاء۔

امام احمد نے مُسند امام احمد، جلد رابع میں ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے۔ اس میں المسور بن المخزوم الزہری اور مروان

**مُسند امام احمد**

بن حکم کی روایات کو ملا کر درج کیا ہے۔ اور مسور بن المخزوم صحابہ میں سے ہیں۔

ص ۲۳، ج ۴ سے لے کر ص ۳۳ تک ان دونوں حضرات کی بہت سی روایات

مُسند احمد میں مدون ہیں اور عنوان ان الفاظ کے ساتھ قائم کیا ہے کہ

”حدیث المسور بن مخزوم الزہری و مروان بن الحکم رضی اللہ عنہما“

— اور مُسند احمد جلد خامس میں زید بن ثابت کی روایات کے تحت بھی

مروان کی روایت نقل کی ہے۔

”..... عروۃ بن الزبیران مروان اخبرۃ قال قال لی

زید بن ثابت مالک تقراً فی المغرب بقصار المقصل... الخ

و مُسند احمد، ج ۵، ص ۱۸۹ معہ منتخب کنز العمال تحت

زید بن ثابت، طبع مصر، قدیم طبع۔

— اسی طرح مُسند ہذا کے متعدد مقامات میں مروان کی روایات دستیاب

ہوتی ہیں یہ نشان دہی بطور نمونہ پیش کر دی گئی ہے۔

امام بخاری نے مروان بن الحکم کی روایات صحیح بخاری میں ذکر

**بخاری شریف**

کی ہیں۔ ایک مقام میں المسور بن مخزوم اور مروان دونوں



کی روایت کتاب الوکالہ میں ذکر کی ہے۔

”..... عن ابن شہاب قال وزعم عروة ان مروان بن الحكم والمسود بن المخزوم اخبران رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين... الخ“

(بخاری شریف، ج ۱، ص ۳۰۹۔ کتاب الوکالہ، باب

ازا و سب شینا لکویل... الخ۔ طبع نور محرمی۔ دہلی۔

اسی طرح مروان سے سہل بن سعد الساعدی (صحابی) و دیگر تابعین نے روایت حاصل کی ہے وہ بھی بخاری میں ہے۔ اس چیز کی تائید و تصدیق حافظ ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں ان الفاظ سے کی ہے کہ مروان بن الحكم الاموی حدیثان... الخ یعنی بخاری میں مروان کی دو عدد حدیثیں منقول ہیں۔

(ہدی الساری مقدمہ فتح الباری ص ۱۹۲۔ ج ۲۔

تحت ذکر عدة ما نکل سجایی فی صحیح البخاری موصولاً و

معلقاً... الخ۔)

اور ابن حجر مقدمہ فتح الباری میں فرماتے ہیں:-

”..... فانما حمل عنده سهل بن سعد وعروة بن

الزبير وعلي بن الحسين و ابو بكر بن عبد الرحمن بن

الحارث وهؤلاء اخذوا البخاري احاديثهم عنده في

صحيحه... الخ“

رصدی الساری، ج ۲، ص ۱۶۴۔ تحت حرف

الميم۔ طبع مصر۔

اس مقام میں حافظ ابن حجر نے وضاحت کر دی کہ مروان بن حکم سے

سے روایت حاصل کرنے والے بعض صحابہ کرام کے علاوہ بڑے بڑے اکابر تابعین مثلاً عروہ بن زبیر اور امام زین العابدینؑ (علی بن الحسین) وغیرہ بھی ہیں جنہوں نے مروان پر دینی و علمی اعتماد کرتے ہوئے روایت حاصل کی ہے اور شرعی مسائل ان سے نقل کیے ہیں اور امام بخاریؒ نے ان چیزوں کو صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے۔

### (فائدہ ۵)

اہل علم کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ امام بخاریؒ نے اپنی تاریخ کبیر جلد رابع القسم الاول، ص ۳۶۸ میں مختصر سا تذکرہ کیا ہے لیکن ناقدانہ کوئی چیز مروان کے حق میں نہیں ذکر کی اور اسی طرح ابن ابی حاتم رازی نے کتاب المجرح والتعذیل جلد رابع القسم الاول، ص ۲۴۱ میں مروان کا تذکرہ مختصر ذکر کیا ہے کہ فلاں صحابی اور فلاں تابعی نے مروان سے روایت حاصل کی، لیکن مروان پر نقد کا لفظ نہیں لکھا صرف ثقاہت درج کی ہے۔

اہل علم حضرات کو معلوم ہے کہ مذکورہ دونوں کتابیں تراجم و رجال کی کتب کے لیے ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ کتابیں مروان کی تنقیدات سے خاموش ہیں۔ وہ نقد نہیں ذکر کرتیں جو بعد کے لوگوں نے تاریخی ذخائر سے متاثر ہو کر ذکر کر دیئے ہیں۔

علامہ ابن کثیرؒ نے البدایہ میں مروان کے ترجمہ کے تحت مروان کی اعلیٰ اصلاحتوں اور خوبیوں کو ذکر کیا ہے۔ وہاں حضرت معاویہؓ

مروان کا دینی و علمی مقام اور فقہانہ میں شمار

کا قول مروان کے حق میں نقل کیا ہے جس سے مروان کی علمی اور دینی قابلیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

(۱) — امیر معاویہؓ نے فرمایا کہ مروان بن الحکم اللہ کی کتاب کا قاری ہے۔ اللہ کے دین کا فقیہ ہے، اللہ کے حدود قائم کرنے میں مضبوط ہے۔

”فقال اما القاری لکتاب اللہ الفقیہ فی دین اللہ الشدید فی

حدود اللہ مروان بن الحکم۔

(البدایہ، ج ۸، ص ۲۵۷۔ تحت ترجمہ مروان بن الحکم)

(۲) — اس کے بعد مروان کے عہدہ قضا کا بیان درج ہے اور امام احمد سے منقول ہے کہ (امیر معاویہؓ کے دور میں بعض دفعہ) مروان منصب قضا پر بھی فائز تھا۔ اور امیر المؤمنین عمرؓ کے فیصلہ شدہ قضایا کی روشنی میں اپنے مقدمات کا فیصلہ صادر کرتا تھا۔

”عن الامام احمد قال یقال کان عند مروان قضا وکان یتبع

قضا یا عمر بن الخطاب“

(البدایہ، ج ۸، ص ۲۵۸۔ تحت ترجمہ مروان)

(۳) — اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ میں مروان کی علمی لیاقت کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ مروان اپنے دور کے فقہار میں شمار کیا جاتا تھا۔ . . . . . وکان یعدّ فی الفقہاء . . . الخ

(الاصابہ مع الاستیعاب، ج ۳، ص ۴۵۵۔ تحت

مروان بن الحکم فی القسم الثانی)

(۴) — علامہ ابن تیمیہؒ نے مروان کا علمی و فقہی مقام ان الفاظ کے ساتھ درج کیا ہے۔

”... الخرج اهل الصحاح عدة احادیث عن مروان وله قول مع

اهل الفتيا . . . الخ

(منہاج السنہ، ج ۳، ص ۱۸۹)

یعنی صحاح کے محدثین نے متعدد روایات مروان سے تخریج کی ہیں اور اہل فتاویٰ

میں مروان کا قول لیا جاتا ہے۔

(۵) — مذکورہ چند ایک چیزیں مروان کی علمی ثقاہت کی ذکر کی ہیں۔ اب ہم

آخر میں قاضی ابوبکر بن العربی المتوفی ۳۲۵ھ کا قول مروان کے حق میں درج کرتے ہیں

تاکہ ناظرین کرام مروان کے علمی مقام کا اندازہ کر سکیں۔ فرماتے ہیں کہ

— مروان صحابہ کرامؓ اور تابعین اور فقہائے مسلمین کے نزدیک عادل اور

ثقة آدمی ہے۔ . . . .

— بہر حال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے سہل بن سعد انصاری نے مروان

سے روایت نقل کی ہے۔ مروان تابعی ہے اور وہ اپنے ہم معصروں سے ایک قول کے

اعتبار سے صحابی ہونے کے شرف میں فضیلت حاصل کر چکا ہے۔

— فقہائے زمانہ کے ہاں اس کی عظمت اور اعتبار خلافت مسلم ہے۔ وہ

اس کے فتوے کی طرف التفات کرتے ہیں اور اس کی روایت کو تسلیم کرتے ہیں۔

— بے وزن مؤرخین اور بے وقعت ادیب اپنے اپنے مقام کے مطابق

مروان پر ناقدانہ کلام کرتے ہیں۔

۱ — "..... مروان رجل عدل من كبار الامة عند الصحابة

والتابعين وفتراء المسلمين۔

۲ — اما الصحابة فان سعمل بن سعد الساعدي روى عنه۔

۳ — واما التابعون فاصحابه في السن وان جازهم باسم الصحبة

في احد التولين۔

۴ — واما فقهاء الامصار فكلهم على تعظيمه واعتبار خلافته و

التلت الى فتواه والافتقار الى روايته۔

۵ — واما السنہاء من المورخین والادباء یقولون علی اقدارہم۔

العواصم من القواصم للفاضل ابی بکر بن العربی

ص ۸۹-۹۰۔ بحث مطاعن عثمانی ۱۲۱

— خلاصہ یہ ہے کہ مروان کی علمی ثقافت و قابلیت اُمت کے اکابرین کے نزدیک مستند ہے اور اکابر محدثین و فقہاء نے مروان سے دینی مسائل اٹھائے ہیں اور ان پر صحیح اعتماد کیا ہے۔ اور ہم نے اس چیز کو بطور نمونہ از خروارے پیش کر دیا ہے۔ اب اگر بعض مورخین مروان کے حق میں تاریخی رطب و یابس مواد کی بنا پر نقد و تنقید کریں تو وہ قابل توجہ نہ ہوگی۔ اور ظاہرات ہے کہ اکابر محدثین و فقہاء کی تصریحات کے مقابلہ میں تاریخی ملفومات کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔

مروان کے تذکرہ نویس علماء نے

### دینی مسائل میں صحابہ کرام سے مشورہ

یہ چیز بھی ذکر کی ہے کہ مروان

کو اپنی ولایت و نیابت کے دوران مدینہ طیبہ میں جب کسی دینی مسئلہ میں مشورہ کی ضرورت پیش آتی تو اس وقت موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کر کے مشورہ کر لیتا تھا۔ پھر جو چیز مشورہ سے طے ہو جاتی اس پر عمل درآمد کرتا تھا۔ مثلاً مدینہ شریف میں اس دور میں غلہ ناپ کرنے کا صاع ایک پیمانہ تھا اور معاشرہ میں چھوٹے بڑے کئی قسم کے صاع مروج تھے۔ ان کے متعلق مشورہ سے ایک درمیانہ صاع مقرر کر کے مروان نے مروج کیا۔ لوگ اسے مروان کا صاع کہنے لگے تھے۔

— اہل علم اس مسئلہ کو عبارت ذیل میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

ابن سعد فرماتے ہیں:

”..... وكان مروان في ولايته على المدينة يجمع اصحاب

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّئِيهِمْ وَيَعْمَلُ بِمَا  
يَجْمَعُونَ لَهُ عَلَيْهِ . . الخ

(طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۳۰ - آخر  
تذکرہ مروان بن الحکم طبع لیدن)

— اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ :-

”قالوا ولما كان نائبا بالمدينة كان اذا وقعت معضلة  
جمع من عنده من الصحابة فاستشارهم فيها قالوا وهو  
الذي جمع الصيعان فاخذ باعد لها فنب اليه الصاع  
فقيل صاع مروان“

(البدایہ، ص ۲۵۸ - ج ۸ - تحت مروان)

علمائے انساب نے مروان بن الحکم کے متعلق احتیاط

**مروان کا محتاط رویہ** | کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے :-

”عنبسہ بن سعید کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ مروان بن الحکم کو اس  
زمانہ میں دعوت دی جبکہ وہ حاکم وقت تھا میں نے اپنے مکان کو خوب  
آراستہ پیراستہ کیا۔ بہترین قسم کے پردے لگائے، عمدہ قسم کے فرش  
بچھائے، ملبوسات فاخرہ کا اظہار کیا اور پرتکلف کھانے تیار کیے  
اس دعوت میں مروان اور اس کے دونوں بیٹے عبد الملک اور  
عبد العزیز شریک ہوئے۔ جب کھانا پیش کیا گیا تو مروان نے کھانے  
میں ہاتھ ڈالا اور اپنے منہ کی طرف لقمہ لے جانے سے قبل دریافت  
کیا۔ اے عنبسہ! تجھ پر کوئی قرض ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں میں  
مقرض ہوں۔ مروان نے کہا کتنا قرض ہے؟ میں نے جواب دیا :-

شتر ہزار درہم۔ مروان نے یہ سن کر کھانے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اپنے دونوں بیٹیوں کو حکم دیا کہ کھانے سے ہاتھ اٹھا لو۔ اے عنبدہ! تیرے گھر سے کھانا تناول کرنا ہمارے لیے ناجائز ہے۔ تو ان سب چیزوں اور فضولیات کو اپنے قرض میں لگا دیتا تو بہتر ہوتا پھر مروان کھڑا ہو گیا اور طعام سے اجتناب کیا اور کچھ نہ تناول کیا۔۔۔ الخ

”..... فقال يا عنبسة! اهل عليك من دين؟ قلت نعم

ان على لدينا قال وكم؟ قلت سبعون الف درهم فقبض يده ورنعها من طعامي وقال لا بنيه ارفع ايديكما حرم علينا طعامك ما كنت تقدر ان تجعل بعض هذه الفضول التي اري في دينك؟ فهو كان اولي به ثم قام ولم يأكل من طعامي شيئاً“

رکتاب نسب قریش، صفحہ ۱۸۰-۱۸۱۔ لمصعب ابن

عبداللہ الزبیری تحت اولاد سعید بن العاص،

قبل ازیں بحث اول میں ہم اس واقعہ کو ذکر کر چکے ہیں کہ بلاذری

## جنگی معاونت اور انتظامی صلاحیت

نے فتوح البلدان میں ذکر کیا ہے کہ جس وقت غزوہ افریقیہ ۱۰ پیش آیا تو حضرت عثمان غنیؓ نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کی امداد کے لیے ۲۷ یا ۲۸ لاکھ میں ایک لشکر عظیم مدینہ شریف سے روانہ کیا۔ اس لشکر میں بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و دیگر اکابرین شریک ہوئے۔ ان میں مروان بن الحکم، حارث بن الحکم، معبد بن عباس بن عبدالمطلب وغیرہ حضرات شامل تھے۔

”..... و امداء عثمان، بجيش عظيم فيه معبد بن العباس

بن عبدالمطلب ومروان بن الحکم والحارث بن الحکم اخوه و

عبداللہ بن الزبیر . . . الخ

دفتوح البلدان بلاذری، ص ۲۳۲ تحت عنوان

فتح افریقیہ

— اور مروان بن الحکم انتظامی صلاحیت کے حامل تھے۔ اسی بنا پر حضرت عثمان کی جانب سے ان کو بحرین کے علاقہ کا والی اور حاکم بنایا گیا۔ خلیفہ بن خیاط نے اس مسئلہ کو مندرجہ ذیل الفاظ میں ذکر کیا ہے اور قبل ازیں بحث اول میں ہم اس کو نقل کر چکے ہیں۔

” . . . البحرین . . . ومن ولاتہ علیہا مروان بن الحکم “

(تاریخ خلیفہ ابن خیاط، جز اول، ص ۱۵۹ تحت

عنوان تسمیۃ عمال عثمان، البحرین)

صحابہؓ نے مروان کی نیابت کی | حدیث اور تاریخ کی کتب میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ مروان اپنی ولایت کے دوران بعض اوقات حضرت ابوہریرہؓ کو مدینہ پر اپنا نائب مقرر کیا کرتا تھا۔ حضرت ابوہریرہؓ جب فرضی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے تھے۔

” . . . ان اباہریرۃ کان حین یشغلہ مروان علی المدینۃ

اذا قام للصلوۃ المکتوبۃ کبر “

۱ — (مسلم شریف، ج ۱، ص ۱۶۹، باب اثبات تکبیر،

فی کل رفع وخفض فی الصلوۃ) طبع نور محمدی دہلی۔

حافظ ابن کثیر نے البدایہ میں یہی واقعہ عبارت ذیل درج کیا ہے۔

” والمعروف ان مروان هو الذی کان یشتبہ اباہریرۃ

فی امرۃ المدینۃ ولكن کان یكون عن اذن معاویۃ فی ذالک



۲ — البدایہ، ج ۸، ص ۱۱۲ تحت تذکرہ ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ

۳ — المنتخب ذیل المذیل لابن جریر الطبری، ص ۸۱ -

تحت ذکر من قال ذالک طبع شدہ در آخر

تاریخ الطبری -

ابو نصر سالم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مروان ایک

جنازے پر حاضر ہوا جب جنازہ ہو چکا تو

**حصولِ ثواب میں رغبت**

مروان واپس ہو گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ فرمانے لگے کہ ثواب کا ایک قیراط

حاصل کیا اور ایک قیراط سے محروم رہا قیراط اس دور کے ایک وزن کا نام تھا یعنی

شمول جنازہ کے ثواب کو تو حاصل کیا لیکن اذن عام تک ٹھہرنے کے ثواب سے محروم

رہا۔ اس بات کی اطلاع مروان کو دی گئی تو مروان تیزی سے واپس ہوا اور لوگوں

میں آکر بیٹھ گیا یہاں تک کہ اذن عام دیا گیا۔

”قال الليث عن يزيد بن حبيب عن سالم ابى النضر انّ

قال شهد مروان جنازة فلما صلى عليها انصرف فقال ابو

هريرة اصاب قيراطا وحرّم قيراطا فاخبر بذلك مروان

فاقبل يجري حتى بدت ركبنا ففعد حتى اذن له

البدایہ لابن کثیر، ص ۲۵۸ - ج ۸ تحت ترجمہ

مروان بن الحکم -

مدینہ طیبہ میں بہت سے مقامات

ایسے تھے جن میں حضور علیہ السلام سے کوئی

**موافقت و آثار نبوی کی تلاش**

معجزہ صادر ہوا یا کوئی خاص ظہور برکت کا واقعہ پیش آیا یا کوئی اور ایسا چیز اس مقام

کے متعلق ظاہر ہوئی تو مروان نے پوری عقیدت مندی کے ساتھ سعی کی کہ ان مقامات متبرکہ کے متعلق واقفیت حاصل کی جاتے ہیں اس نے ایک دفعہ ابو قتادہ انصاری کو آدمی بھیج کر بلوایا اور ان سے عرض کی کہ آپ میرے ساتھ ہو کر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص خاص مواضع پر مجھے مطلع کریں۔

”عن عبد الله بن كعب بن مالك ان مروان ارسل الى ابي قتادة وهو على المدينة ان اغد معي حتى تريني مواقف النبي صلي الله عليه وسلم۔“

التاريخ الصغير لبخاري، ص ۵۴ تحت ذكر من كان

بعد الخمسين الى ستين طبع الة آباد (مہند)

مروان کے حق میں حسنین شریفین کی سفارش اہل سنت و شیعہ دونوں حضرات نے جنگ جمل کے موقع کا واقعہ لکھا ہے۔ سعید بن منصور (سنی محدث) نے اپنے سنن کے جلد ثانی میں ذکر کیا ہے کہ جب جنگ جمل ختم ہوئی تو حضرت علیؑ نے اعلان کرایا کہ جس شخص نے اپنے مکان کا دروازہ بند کر لیا اس کو امان ہے۔ ”جس شخص نے ہتھیار ڈال دیئے اس کو بھی امان ہے۔“ مروان کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کے گھر میں تھا۔ میں نے حضرت حسنؑ، حضرت حسینؑ، عبد اللہ بن عباسؑ، اور عبد اللہ بن جعفر وغیر ہم کو حضرت علیؑ کی خدمت میں روانہ کیا کہ حضرت علیؑ سے میرے امن و امان کے متعلق کلام کریں۔ انہوں نے اس سلسلہ میں گفتگو کی تو حضرت علیؑ نے فرمان دیا کہ اسے بھی امان حاصل ہے۔

”..... من اعلق عليه باب داره فهو آمن ومن طرح السلاح

آمن قال مروان وقد كنت دخلت دار فلان ثم ارسلت الى

حسين وحسين ابني علي وعبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس

وعبد الله بن جعفر كلموه قال هو آمن... الخ

راسنن سعيد بن منصور، ص ۳۶۶ - باب جامع الشهادة

روایت ۲۹۴۴ طبع مجلس علمی کراچی، ڈاکھیل،

— شیعہ کی کتاب "نہج البلاغہ" میں بھی یہی مضمون درج ہے کہ یوم الجمل میں مروان ماخوذ ہو گیا تو حضرت علیؑ کی خدمت میں دونوں بھائیوں حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ نے مروان کے تق میں خلاصی کی سفارش کی تو حضرت علیؑ نے مروان کو امان دے کر چھوڑ دیا۔

"من كلام له عليه السلام قال لمروان بن الحكم بالبصرة قالوا

اخذ مروان بن الحكم اسيراً يوم الجمل فاستشفع بالحسن والحسين

عليهم السلام الى امير المؤمنين عليه السلام فكلما فيه فحلى

سبيله -

(۱) - نہج البلاغہ، ص ۱۲۳ فی خطبہ لہ علیہ السلام علم

فیہا الناس الصلوٰۃ علی النبیؐ - طبع مصری

— شیعہ کے مشہور مؤرخ مسعودی نے بھی حضرات حسینؑ کی سفارش پر

حضرت علیؑ کا مروان کو امان دینا بعبارت ذیل نقل کیا ہے اور ساتھ ہی ولید بن عقبہ

کی امان کا بھی ذکر کیا ہے۔

— وتكلم الحسن والحسين في مروان فآمناء وآمن الوليد

بن عقبه... الخ

(۲) — مروج الذهب، ص ۳۷۸ طبع رابع مصر تحت

وقعة الجمل كلام بين ابن عباس وعائشة -

مروان بن الحكم کی ولایت  
مروان کی اقتدا میں حسینؑ سر بسین کی نمازیں اور نیابت کے دور میں سیدنا

حسن اور سیدنا حسینؑ جماعت کے ساتھ ہمیشہ مروان کی اقتدا میں نماز ادا کرتے تھے کسی شخص کی طرف سے جناب محمد باقرؑ پر سوال کیا گیا کہ آپ کے باپ و ادا جب گھر کی طرف واپس ہوتے تو نماز پڑھتے نہیں تھے؟ تو انہوں نے قسم کھا کر فرمایا کہ ہمارے اکابر ائمہ نماز کی نماز سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔

عن جعفر عن ابیہ قال کان الحسن بن علی والحسین یصلیان خلف مروان قال فقیل لہ اما کان ابوک یصلی اذا رجع الی البیت قال فیقول لاواللہ ما کانوا یریدون علی صلوة الائمة۔

(۱) — المصنف لابن ابی شیبہ، ج ۲، ص ۳۷۸۔ طبع

حیدرآباد دکن تحت ذکر فی السلوة خلف الامراء

(۲) — البدایہ لابن کثیر، جلد ۸، ص ۲۵۸۔ تذکرہ

مروان بن الحکم۔

امام بخاری نے تاریخ صغیر میں ذکر کیا ہے کہ حضرات حسینؑ ہمیشہ مروان کے خلف میں نماز ادا کرتے تھے۔

”... حدثنی شرحبیل ابوسعد قال رأیت الحسن والحسینؑ

یصلیان خلف مروان“

(۱) — تاریخ صغیر امام بخاری ص ۵، طبع انوار محمدی

الہ آباد (ہند)

الطبقات لابن سعد میں امام محمد باقرؑ کا قول منقول ہے کہ ہم خلفائے وقت کی اقتداء میں بغیر تقیہ کے نماز ادا کیا کرتے ہیں۔ اور میں شہادت دیتا ہوں کہ میرے والدین العابدینؑ بھی خلفاء وقت کی اقتدا میں ہمیشہ بغیر تقیہ کے نماز ادا کرتے تھے۔

”... انالنسلی خلفم من غیر تقیۃ واشہد علی بن علی بن حسین انہ

کان یصلی خلفہم فی غیر تقیۃ -

(طبقات لابن سعد، ج ۵، ص ۱۵۸ تحت

تذکرہ علی بن الحسین)

شیخہ علمائے بھی امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کی روایت ذکر کی ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین مروان بن الحکم کے پیچھے ہمیشہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ کے باپ دادا جس وقت گھر واپس ہوتے تو کیا وہ نماز کو لوٹتے نہیں تھے؟ تو محمد باقر نے فرمایا کہ اللہ کی قسم سابقہ نماز پر زیادتی نہیں کرتے تھے۔

« عن موسیٰ بن جعفر عن ابيه قال کان الحسن والحسین یصلیان خانہ

مروان بن الحکم فقالوا لاحد ہما ما کان ابوک یصلی اذا رجع الی البیت

فقال لا والله ما کان یزید علی صلوة »

دکتاب بحار الانوار ملّا باقر مجلسی، ج ۱۰، ص ۱۳۹-۱۴۱-باب

احوال اہل زمانہ و ماجری بنہم و بین معاویہ بطبع قدیم ایران۔

دونوں فرقے حوالہ بات رجوا کا بر بنی ہاشم سے منقول ہیں، کی روشنی میں مسئلہ واضح

ہو گیا کہ مروان کی ولایت و خلافت درست تھی۔ نماز کی امامت ان کی سچ تھی۔ ہاشمی

اکابر ہمیشہ ان کی اقتدار میں بچکا نہ نمازیں ادا کرتے تھے اور بغیر تقیہ کے پڑھتے تھے اور

گھر تشریف لا کر نماز کا اعادہ نہیں کرتے تھے۔ دینی معاملات میں نسلی امتیازات و

خاندانی تعصبات پیش نظر نہیں رکھتے تھے۔ ان واقعات کے ذریعہ مروان کی صلاحیت

کی تصدیق ہوتی ہے اور خلافت پر وپگنڈے کی تردید ہوتی ہے۔

مصنف ابن ابی شیبہ نے

اموی خلفا حضرت علی بن الحسین کی نظر میں | جلد ثانی، تحت ذکر فی الصلوۃ

خلف الامراء میں اپنی سند کے ساتھ امام زین العابدین کا ایک بیان درج کیا ہے

وہ ان مسائل کے حل کرنے میں نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ قارئین کرام اسے بغور ملاحظہ فرمادیں اور یہ بات ملحوظ رہے، یہ مروان بن الحکم کا دور ہے ان ایام میں حضرت زین العابدینؑ نے یہ ارشادات فرمائے تھے۔

— ایک شخص ابراہیم بن حفصہ نے امام زین العابدینؑ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے عقیدت مندوں میں جو ابو حمزۃ الثمالی ہے وہ کہتا ہے کہ ان اُمراء و خلفاء کے پیچھے ہم نماز نہیں ادا کریں گے اور ان کے ساتھ نکاح اور رشتہ داری کا تعلق بھی قائم نہیں کریں گے جب تک یہ لوگ ہمارے نظریات کے موافق نظریات و خیالات نہ رکھیں۔ یہ سن کر علی بن الحسین (زین العابدین) نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس طرح نہیں بلکہ ہم ان کے پیچھے نمازیں ادا کریں گے اور سنت کے مطابق ان سے نکاح کریں گے۔

”... عن ابراهیم بن حفصۃ قال قلت لعلی بن الحسین ان ابا

حمزۃ الثمالی وکان فیہ غلو یقول لا نصلی خلف الائمة ولا نناکم

الامن یدی مثل رأینا۔ فقال علی بن الحسین بل نصلی خلفہم و

نناکم بالسنة“

المصنف لابن ابی شیبہ، جلد ثانی، ص ۳۷۸-۳۷۹،

تحت ذکر الصلوۃ، خلف الامراء۔ طبع حیدرآباد دکن،

سیدنا جعفر صادقؑ سے مروی ہے

حضرت علی بن الحسینؑ (یعنی زین العابدین) کہ ایک دفعہ مروان بن الحکم

مروان کی نظروں میں! — نے حضرت زین العابدینؑ (علی

بن الحسین) کو ضرورتِ رشتہ کے لیے ایک لاکھ درہم کی کثیر رقم بطور قرین حسنہ کے دی

تاکہ اس سے امتہ یعنی باندی خرید کر لیں۔ اس سے اولاد ہو سکے گی، چنانچہ حضرت

زین العابدین نے اسی طرح کیا۔ اس امتہ یعنی باندی سے سیدنا زین العابدین کی

بہت اولاد ہوئی۔

— اس کے بعد جب مروان بیمار ہوا تو اس نے اپنے لڑکے عبد الملک کو وصیت کر دی کہ (علی بن الحسین) یعنی زین العابدین کو جو کچھ ہم نے قرض دیا ہوا تھا ان سے واپس نہ لینا۔ مروان کی وفات کے بعد عبد الملک وغیرہ کو حضرت زین العابدین نے قرض کی رقم واپس کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے نہ لی آخر کار وہ رقم زین العابدین کے پاس رہی۔

یہ واقعہ اپنی تفصیلات کے ساتھ "البدایہ" میں دو مقامات پر درج ہے۔ اس میں مروان کی جانب سے حضرت سیدنا حسینؑ کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک اور موت کا بہترین نمونہ موجود ہے۔

(۱) ..... فلما حضرته الوفاة اوصى الى ابنه عبد الملك ان

لا يسترجع من علي بن الحسين شيئاً... الخ

(البدایہ، ج ۸، ص ۲۵۸ - ترجمہ مروان بن الحکم)

(۲) ..... ثم لما مرض مروان اوصى ان لا يخذ من علي بن

الحسين شيئاً مما كان اقرضه فجميع الحسينيين من نسله

(البدایہ، ج ۹، ص ۱۰۲-۱۰۵ - تحت ترجمہ

علی بن الحسینؑ)

مروان بن الحکم اور اس کی اولاد عبد الملک وغیرہ کے حضرت علیؑ کی اولاد کے ساتھ بہتر تعلقات تاریخ میں دستیاب

حضرت زین العابدینؑ  
عبد الملک بن مروان کی نظر میں

ہوتے ہیں۔

اس دور کے اہل علم مثلاً علامہ زہری وغیرہ بھی اس بات کی صراحت کرتے

ہیں کہ بنی ہاشم میں حضرت زین العابدین مروان اور اس کے لڑکے عبد الملک کی طرف زیادہ پسندیدہ تھے اور ان کے پوری طرح فرمانبردار اور معاون تھے۔

«عن شعيب بن ابي حمزة قال كان الزهري اذا ذكر علي بن ابي طالب قال كان اقصد اهل بيتي واحسنهم طاعة واحبهم الى مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان»

(۱)۔ طبقات لابن سعد، ج ۵۔ ق ۱، ص ۱۵۶۔ تحت

تذکرہ علی بن حسین۔ (۲) التاریخ الصغیر للبخاری ص ۴۰۔ طبع ہند

چنانچہ اس سلسلہ میں ابن سعد نے مختار کے دور کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ

«مختار نے اپنے دور حکومت میں ایک بار امام زین العابدین کی

طرف ایک لاکھ درہم کی خطیر رقم ارسال کی۔ حضرت زین العابدین اس کے

قبول کرنے میں متردد ہوئے اور ظاہری حالات کے ماتحت اس رقم

کو رد بھی نہ کر سکے اس لیے رقم ہذا کو اپنی نگرانی میں محفوظ کر لیا جب

مختار قتل ہو گیا اور عبد الملک بن مروان والی بن گیا تو زین العابدین

نے عبد الملک بن مروان کی طرف خط لکھا کہ مختار نے میری طرف ایک لاکھ

درہم ارسال کیے تھے میں اس رقم کو لینا پسند نہیں کرتا تھا اور اس

وقت نہ ہی اسے واپس کر سکا۔ اب وہ رقم میرے پاس موجود ہے۔

کوئی آدمی بھیج کر واپس منگو ایجیے۔

اس کے جواب میں عبد الملک نے تحریر کیا کہ اے میرے چچا کے

بیٹے! میں نے آپ کو وہ رقم ہدیہ دے دی ہے آپ اسے قبول کر لیں۔

تب حضرت زین العابدین نے وہ رقم قبول فرمائی»

عن سعید بن خالد عن المعیری قال بعث المختار الى علي بن



الحسين بمائة الف فكره ان يقبلها ونخاف ان يردّها فاخذها  
 فاحتبسها عنده فلما قتل المختار كتب علي بن الحسين الى عبد الملك  
 بن مروان ان المختار بعث الى بمائة الف درهم فكرهت ان  
 اردّها وكرهت ان اخذها فهي عندي فابعث من يقبضها  
 فكتب اليه عبد الملك يا ابن عم خذها فقد طيبتها لك  
 فقبلها

(١) — طبقات لابن سعد، ج ٥، ص ٨٥٨ — القسم الاول

تذكره علي بن الحسين — طبع ليدن —

(٢) — المنتخب من زيل المذيل للطبري مطبوعه در آخر

تاريخ طبري، ص ٨٩ تحت عنوان وممن صدك

في سنة ٨٣ ط — طبع مصرى —

## ازالہ شبہات

مروان کے متعلقات میں چند عنوانات جو ہم نے ناظرین کی خدمت میں پیش کیے ہیں دفع مطاعن کے لیے ان کی ایک مستقل جوابی حیثیت ہے اور ان کے ذریعے مروان کا مقام و مرتبہ اور انلاق و کردار واضح ہو گیا ہے۔ تاہم بعض شبہات کے ازالہ کی خاطر چند چیزیں قارئین کرام کے لیے ذکر کی باقی ہیں تاکہ مسئلہ ہذا کی اصل صورت واضح ہو جائے اور مروان کے حق میں سوءظنی کا ازالہ ہو سکے۔

### شبهہ اول

(جلاوطنی کا مسئلہ)

معتزین کہتے ہیں کہ مروان کے والد الحکم بن ابی العاص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خطاؤں کی بنا پر مدینہ شریف سے جلاوطن کر دیا اور ان کا بیٹا مروان بھی ان کے ساتھ تھا۔ پھر یہ باپ بیٹا شامین کے زمانے میں بھی جلاوطن رہے جب ان کے چچا زاد بھائی حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مروان کو اپنا کاتب اور صاحب تدبیر (یعنی مشیر خاص) بنا لیا۔

(منہاج الکلام لابن مطہر الحللی الشیبی، ص ۶۷۔ تحت

مطاعن عثمانی)

— یہ یعنی حضرت عثمانؓ اور الحکم بن ابی العاص اور ان کے بیٹے مروان پر مشرک طور پر تجویز کیا جاتا ہے۔

اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمانؓ نے فرمانِ نبویؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر دی۔ الحکم بن ابی العاص غلط کردار کے انسان تھے جس کی وجہ سے ان کو اپنے شہر سے نکال دیا اور مروان بھی اپنے والد کے ساتھ جلا وطنی میں ساتھ رہنے کی وجہ سے "مطروڈ" و "معتوب" و "مغضوب" ہے۔

## ازالہ

اول — گزارش ہے کہ طرد اور نفی (یعنی جلا وطنی) کا یہ واقعہ احادیث صحیحہ میں مفقود ہے اور جن روایات میں اس قصہ کو راویوں نے نقل کیا ہے وہ باعتبار سند درجہ صحت کو نہیں پہنچتیں۔ ان روایات میں واقعی جیسے غیر معتبر اور شام کلبی جیسے سخت مجروح قسم کے لوگ موجود ہیں اور کئی مصنفین نے طرد کے قصہ کو نقل کر دیا ہے لیکن سند ذکر نہیں کی جس سے واقعہ کی صحت اور سقم کو معلوم کیا جا سکے۔

علامہ ابن تیمیہؒ اور حافظ ذہبیؒ جیسے مشہور علماء نے اس جلا وطنی کے قصہ پر خوب تنقید کر دی ہے اور عدم صحت کا حکم لگا دیا ہے۔

«وقصة نفی الحکم لیسیت فی الصحاح والالہا اسناد یعرف

بہ امرها»

(۱) — منہاج السنہ لابن تیمیہؒ، جلد ثالث، ص ۱۶۶ بحث

طرد الحکم بن ابی العاص۔

(۲) — المتنتقی للذہبیؒ، ص ۳۶۵۔ الفصل الثالث بحث

بحث نفی الحکم بن ابی العاص۔

الحکم کی جلاوطنی کی عدم صحت کی تائید طبقات ابن سعد کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ابن سعد نے الحکم بن ابی العاص کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ الحکم بن ابی العاص فتح مکہ کے روز اسلام لائے اور خلافت عثمانی تک وہیں رہے۔ پھر وہ حضرت عثمان کی اجازت سے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے اور خلافت عثمانی میں مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔

”اسلم یوم فتح مکة ولعریزل بها حتی کانت خلافة

عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فاذن له فدخل المدینة فمات بها فی خلافة عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ“

(طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۳۳۱۔ تحت الحکم بن

ابی العاص۔ طبع اول۔ لیدن)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ الحکم بن ابی العاص اسلام لانے کے بعد مکہ شریف میں مقیم رہے اور انہوں نے حضرت عثمان کے دور میں انتقال مکانی کر کے مدینہ میں سکونت اختیار کی (اس دوران جلاوطنی کا واقعہ نہیں پیش آیا)۔ اللہ اعلم بالصواب۔

**دوم۔ بصورت دیگر** | یعنی علی سبیل التشریح اگر یہ صورت تسلیم کر لی جائے کہ جلاوطنی کا واقعہ پیش آیا تھا اور الحکم کو فرمان

نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جلاوطن کیا گیا۔ اور حضرت عثمان نے اسے واپس بلایا تو اس کے متعلق ابن جریر طبری وغیرہ علماء نے یہ تصریح کر دی ہے کہ حضور علیہ السلام کی

اجازت سے ہی یہ واپسی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ محاصرہ کرنے والے معترضین کے جواب میں ان کو خطاب کرتے ہوئے عند المحاصرہ یہ فرمایا کہ الحکم مکی ہیں اور رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ سے طائف کی طرف چلتا کر دیا تھا۔ اور پھر حضور علیہ

السلام نے ان کو واپس کیا۔ کیا یہ بات اسی طرح ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں

اسی طرح ہے۔

مضمون ابدا طبری نے اپنی تاریخ میں متعدد مقامات میں درج کیا ہے۔

(۱) . . . قالوا انی ردّدت الحکم وقد سیّره رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم والحکم مکی سیّره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

من مکة الى

الطائف ثم ردّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم سیّره ورسول اللہ علیہ وسلم ردّہ اذکذاک؟

قالوا اللّٰهم نعم !

(۱) — تاریخ طبری، ص ۱۰۲-۱۰۳-ج ۵ تحت حالات

آمد وفود مصری و عراقی بر مدینہ تحت ۳۵ھ

(۲) — البدایہ لابن کثیر، ج ۷، ص ۱۷۱- در ابتداء

۳۵ھ -

دوسرے مقام میں طبری لکھتے ہیں کہ بعض اہل مدینہ کو مخاطب کر کے محاصرہ کے

دوران حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ :-

(۲) . . . فقال ان الحکم کان مکیاً فسیّره رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم منها الى الطائف ثم ردّہ الى بلدہ فرسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم سیّره بذنہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم ردّہ بعفوه

(۱) — تاریخ طبری، ج ۵، ص ۱۳۵ تحت ذکر

بعض سیر عثمانؓ

(۲) — کتاب التہیید والبیان فی مقتل الشہید عثمانؓ،

ص ۸۳-۸۴ طبع بیروت

مندرجہ بالا حوالہ جات کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت جلا وطنی ہوتی اور ان کے فرمان کی وجہ سے الحکم کو معافی مل گئی اور فرمان نبوت ہی واپسی ہوئی۔

یہ بات ہے کہ حکم کے حق میں جلا وطنی کی یہ سزا دائماً نہیں تھی۔ وہ ایک مدت سوم کے ساتھ متعین و مقید تھی اس لیے کہ شریعت میں اس قسم کے گناہ پر مدت العمر جلا وطنی کی سزا اس سے ساقط ہو جاتی ہے اور بعد از توبہ وہ شخص دائمی سزا کا مستوجب نہیں رہتا۔

چنانچہ اس مسئلہ کو مشہور علماء (مثلاً ابن حزم اور ابن تیمیہ وغیرہ) نے اپنی اپنی تصانیف میں مذکورہ بحث کے تحت درج کیا ہے۔ اہل علم کی تسلی کے لیے بعینہ عبارت درج ہیں۔ ابن حزم لکھتے ہیں کہ :-

(۱) ..... ونفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للحکم لم یکن حدًا واجبًا ولا شریعةً علی التابید وانما کان عقوبةً علی ذنب استحق بہ النفی والتوبة مبسوطة فاذا تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلا خلاف من احد من اهل الاسلام و صارت الارض کلها مباحة :-

کتاب الفصل فی الملل والایہواء والنحل، ج ۴، ص ۱۵۴، لابن حزم ابی محمد علی بن حزم المتوفی ۴۵۶ھ مع کتاب الملل والنحل للشہرستانی طبع اول بحث الکلام فی حرب علی ومن حاربه من الصحابة رضی اللہ عنہم

اور ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ :-

(۲) ..... واذا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد عذر

رجلاً بالنفی لعل یلزم ان یتقی منقیاً طول الزمان فان هذا  
لا یعرف فی شیء من الذنوب ولمرتأت الشریعة بذنب  
یتقی صاحبہ منقیاً دائماً بل غایة النفی المقدر سنة وهو  
فی نفی الزانی والمختت حتی یتوب من التخنیت فان کان تعزیر  
الحاکم لذنب حتی یتوب منه فاذا تاب سقطت العقوبة  
عنه“

(منہاج السنہ لابن تیمیہ، ج ۳، ص ۱۹۶۔ بحث

طر حکم بن ابی العاص و جواب آن)

یہ چیز ہے کہ طرد کے واقعہ کے وقت مروان صغیر اور زنا بالغ تھا۔ اس میں  
چہارم مروان کے مجرم ہونے کا کچھ مطلب ہی نہیں۔ باپ کا جرم صغیر بیٹے کے  
پڑے میں ڈال کر اسے مجرم قرار دینا کسی صورت میں درست نہیں۔

”..... فلم یکن لمروان ذنبٌ یطرد علیہ علی عهد

النبی صلی اللہ علیہ وسلم“

(۱) — منہاج السنہ، ج ۳، ص ۱۹۶۔

(۲) — المنتقی، ص ۳۹۵۔ الفصل الثالث الحقیق

فی نفی الحکم و اطلاقہ۔

بعض لوگوں نے باپ بیٹے کے اس واقعہ کو بڑا چمکایا ہے اور کئی مفروضے  
قائم کر کے اس معتوب باپ کے منغضوب بیٹے یعنی مروان کی خوب پوزیشن خراب  
کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانانِ سلف کے حق میں بدگمانی اور سوئظنی رکھنے سے محفوظ  
فرمائے۔ فرمانِ خداوندی ہے :-

”إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِتْمٌ وَلَا جَسَسُوا“

حالانکہ اسلام میں قانون شرعی ہے جب مومن کسی معصیت سے توبہ کرے تو وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے اور اس شخص کی عدالت ساقط نہیں ہوتی۔ علماء نے فرمایا ہے کہ

”..... وليست الذنوب مسقطه للعدالة اذا وقعت منها التوبة“

(العواصم من القواصم، ص ۹۲۔ للقاضی ابی بکر ابن العسبئی)

ان چیزوں کے پیش نظر توبہ باپ بیٹا دونوں قابلِ مواخذہ نہیں۔ ان کا ایمان و اسلام صحیح ہے اور دیانت درست ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ :-

(۱) ————— ”جلا وطنی“ کا واقعہ محدثین کے نزدیک کوئی مسلمات میں سے نہیں ہے۔ اس میں مختلف قسم کی مرویات ہیں جو درجہ مصحت کو نہیں پہنچتی۔

(۲) ————— اگر بالفرض یہ واقعہ درست ہے تو فرمانِ نبوی کے موافق وقوع پذیر ہوا۔ اس میں فرمانِ نبوی کے خلاف حضرت عثمانؓ کا کردار اور عمل نہیں تھا۔ بلکہ فرمانِ نبوی کے تحت تھا۔ اور حضرت عثمانؓ کا مقام بھی یہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ :

”..... وما كان عثمان ليصل مهجور رسول الله صلى الله

عليه وسلم ولو كان اباة ولا ينقض حكمه“

”یعنی عثمان ایسے نہیں تھے کہ حضور علیہ السلام کے مہجور کے ساتھ تعلق

جوڑ دیں اور آنجناب کے حکم کو توڑ دیں اگرچہ ان کا باپ ہو“

(العواصم من القواصم، ص ۷۷۔ تحت جوابات مطاعن عثمانی)



(۳) — نیز الحکم کی غلطی دائمی نہ تھی وقتی تھی اور قابل معافی تھی جس پر عفو ہوا اور معاملہ درگزر کر دیا گیا۔

(۴) — صغریٰ کے باوجود مروان کو اس مسئلہ میں قصور و ازگردانا اور اسے قابل نفرت و مذمت قرار دینا نہایت ناانصافی ہے جو کسی طرح روا نہیں ہے۔

## شَبَّہ دَوْم

مروان کے متعلق مروان کے مخالفین یہ چیزیں بڑی آب و تاب سے ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے اپنی خلافت کے امور کا اسے والی بنا دیا، اور خلافت کی باگ ڈور اس کے ہاتھ میں دے رکھی تھی اس کی وجہ سے امت میں کئی فتنے کھڑے ہو گئے اور مروان کی خرابیوں کی وجہ سے حضرت عثمانؓ پر محاصرہ ہوا اور وہ شہید کر دیئے گئے وغیرہ۔

— وولی مروان امرئہ و القی الیہ مقالید امورہ

و دفع الیہ خاتمہ فحدث من ذالک قتل عثمان وحدث

من الفتنۃ بین الامۃ ما حدث

رمنہاج الکرامۃ لابن مطہر الحلی الامامی الشعی ص ۶۷

آخر منہاج السنۃ، جلد چہارم، طبع لاہور

## اِزَالہ

قبل ازیں بحث اول میں ہم درج کر چکے ہیں کہ :-

— حضرت عثمانؓ نے مروان بن الحکم کو اپنا

**مروان کی عہدہ داری**

الکاتب (یعنی منشی) مقرر کیا ہوا تھا۔ تمام سلطنت پر قابض یا اپنا نائب نہیں بنایا

ہوا تھا۔ اس عہدہ پر مروان ہمیشہ سے نہیں تھا بلکہ بعض اوقات وہ بحرین پر حاکم و  
والی رہا ہے اور بعض دفعہ مروان نے جنگی مہموں میں بھی شرکت کی مثلاً افریقیہ کی  
جنگ میں دیگر اکابر کے ساتھ مروان بھی شامل تھا۔ اس پر حوالہ جات بحث اول  
میں دیئے جا چکے ہیں۔

اس سے واضح ہو گیا کہ کاتب کے عہدے پر مروان ہمیشہ نہیں رہا اور نہ  
ہی ان کے زعم کے موافق "مغضوب مروان" اپنے "معتوب باپ" الحکم کی وجہ سے  
حکومت کے کاموں پر کبھی اثر انداز ہوا۔

— اور مروان کا کاتب ہونا صحابہ پر ناگوار نہیں تھا۔ اکابر صحابہ کرام پر  
ناگوار ہونے کا مسئلہ خواہ مخواہ فرض کر لیا گیا ہے۔ کیونکہ اکابر صحابہ کے نزدیک اگر  
مروان کا کاتب عثمان ہونا غلط تھا تو جب حضرت عثمان نے حکام کی متعلقہ شکایات  
کے ازالہ اور تبدیلی کے لیے اعلان عام کیا تھا کہ جس کو اس قسم کی شکایت ہو اس کو  
دور کیا جائے گا۔ اس وقت کسی صاحب نے (خواہ صحابی ہو یا غیر صحابہ سے) مروان  
کے تبدیل منصب کا مسئلہ سامنے نہیں رکھا اور نہ اس کی متعلقہ شکایات پیش کیں۔  
(بحث اول میں حوالہ گزر چکا ہے)۔ بعد کے لوگوں نے آہستہ آہستہ ان اعتراضات  
کو چن چن کر اٹھایا اور پھیلا یا ہے، حالانکہ عہد عثمانی میں صحابہ کرام اس پر معترض  
نہیں تھے۔

— نیز یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ حضرت عثمان کے آخری تین سالوں  
میں بھی مروان کاتب رہا ہے اور اس دور میں مروان کا والد الحکم کسی سال قبل  
یعنی ۳۲ھ میں فوت ہو چکا تھا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے کو مغضوب  
نصو کرنا اور صحابہ کرام پر اس کا ناگوار گزرتا یہ ایک بالکل فرضی داستان ہے  
جس کو بیجا تاریخی روایات کے ذخیرہ سے ہر ذرا تنبہ ط کیا گیا ہے کسی صحیح

روایت کی رو سے) اعتراض قائم نہیں کیا گیا

— اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضرت عثمانؓ نے کسی قدیم صحابی کو معزول کر کے اس کے عہدے پر مروان کو فائز نہیں کیا بلکہ ابتدا ہی سے یہ عہدہ اسے دیا گیا۔ ملاحظہ ہو۔

(تاریخ خلیفہ بن خیاط، جز اول، ص ۱۵۶-۱۵۷ تحت

تسمیۃ عمال عثمان - مطبوعہ نجف اشرف عراق)

— حضرت عثمانؓ کی خلافت ایک وسیع و عریض سلطنت تھی جس کے تحت

بے شمار علاقے اور صوبہ جات تھے ان کا تمام نظم و نسق حضرت عثمانؓ کے ہاتھ میں تھا اور ان میں حکام کا عزل و نصب بھی حضرت عثمانؓ کے تحت تھا اور اس میں مرن کے کنٹرول کو کوئی دخل نہ تھا وہ ایک نشی اور محرر کے درجہ میں کام کرتا تھا۔ ان دور دراز ممالک پر عمال و حکام کے ذریعہ خود حضرت عثمانؓ کا اعلیٰ حاکم ہونا قرین قیاس بھی ہے۔

قبل ازیں بحث اول میں سلطنت عثمانی کے مقبوضات کی وسعت کا ایک خاکہ درج کیا گیا ہے۔ یہاں پھر بطور یاد دہانی کے عثمانی سلطنت کا اجمالی نقشہ تحریر ہے جو ابن قتیبہ دینوری نے "المعارف" میں اور امام نووی نے تہذیب الاسماء میں لکھا ہے اور یہ عہد صدیقی و فاروقی سے مزید فتوحات و مقبوضات شمار کیے جاتے ہیں۔ مثلاً الرمی، الاسکندریہ، ساہور، افریقیہ (مجمع اپنے صوبہ جات کے)، قبرس کے قلعے، سواحل بحر الروم، اصطخر الآخریہ، فارس الاولی، جور، فارس الآخریہ، طبرستان، دازبجورد، کرمان، بختان، الاساورہ (بحری)، ساحل الارون۔ مرو (مجمع اپنے علاقہ جات کے) وغیرہ۔

(المعارف لابن قتیبہ، ص ۸۳-۸۴ تحت اخبار عثمانؓ)

(۲) — تہذیب الاسماء للنووی، جلد اول، ص ۳۲۳ -

تحت عثمان بن عفان

ان تمام ممالک اور علاقہ جات پر حضرت عثمانؓ کی بجائے مروان کی حکمرانی و فرمانروائی کا تصور صحیح سمجھنا اور دوسروں کو باور کرانا محض خوش فہمی ہے اور واقعات کے برعکس ہے اور اس دور کی تاریخ پر بڑا ظلم ہے جسے منصف مزاج انسان قبول کرنے کو تیار نہیں۔

مروان بن الحکم حضرت عثمانؓ کا چچا زاد برادر  
**مروان کی دیانتدارانہ حیثیت**

تھا اور شخصی طور پر ایک اچھا اور دیندار انسان تھا۔ دین اسلام کی خدشات میں مصروف رہتا تھا۔ حضرت عثمانؓ نے اس کو اپنی صاحبزادی ام ابان الکبریٰ نکاح کر دی تھی۔ قبل ازیں تذکرہ مروان میں اس کا حوالہ دیا جا چکا ہے (یعنی نسب قریش، ص ۱۱۲ تحت اولاد عثمانؓ)۔

حضرت عثمانؓ کی دیانت و امانت پر اعتماد کرتے ہوئے ہم یقین کرتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے کسی بے دین اور خلاف شرع شخص کو اپنی صاحبزادی کا رشتہ نہیں دے دیا تھا بلکہ وہ دیندار آدمی تھا اور اس منصب و اعزاز کی اہلیت رکھتا تھا۔ نیز وہ آیات و احادیث حضرت عثمانؓ کے سامنے تھیں جن میں وارد ہے کہ عاصی و ظالم او بدکردار انسان کی طرف دست تعاون دراز نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ دوستانہ رابطے قائم نہ رکھے جائیں۔

مختصر یہ ہے کہ مروان کی دینی صلاحیت کی خاطر حضرت عثمانؓ کا اس کے ساتھ ربط و تعلق قائم رکھنا ہی کافی ضمانت ہے جسے تاریخی ملغوبات کی وجہ سے رد نہیں کیا جاسکتا۔

**عثمانی شہادت کے ایام اور مروان کا کردار** | شہادت عثمانی سے قبل کئی واقعات

ایسے رونما ہوئے جن کی وجہ سے واقعہ شہادت پیش آیا۔ شہادت کے اسباب و علل کے متعلق ان ابحاث کے آخر میں انشاء اللہ حسب ضرورت مختصراً کلام کیا جائے گا۔ اب یہاں اس موقع پر مروان کی متعلقہ چیزیں پیش خدمت ہیں۔

حضرت عثمانؓ کا جب باغی و طاعنی لوگوں نے محاصرہ کر لیا تو صحابہ کرامؓ نے باغیوں اور حضرت عثمانؓ کے درمیان تنازعہ فیہ مسائل کو حل کرنے کی جدوجہد کی اور صحابہ کرام کے ساتھ باغیوں کے شر سے مدافعت کے لیے مروان برابر شریک رہا۔ چنانچہ حضرت امام حسنؓ و حسینؓ، حضرت ابن عمرؓ، ابن زبیر اور مروانؓ تمام حضرات ہتھیار لگا کر حضرت عثمانؓ کی حفاظت کے لیے ان کی حویلی میں داخل ہوئے اور مخالفین سے مقابلہ کرنے کی پوری آمادگی ظاہر کی تو حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ ”میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم واپس ہو جاؤ اور ہتھیار رکھ دو اور اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ تو اس وقت ابن عمر اور حسنؓ و حسینؓ تو باہر آگئے لیکن ابن الزبیر اور مروان نے کہا کہ ہم نے اپنے آپ پر لازم کر دیا ہے کہ مدافعت کی خاطر اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے (ابتدائی مراحل میں یہ ان حضرات کی طرف سے ایک پیش کش تھی)۔“

خلیفہ بن خیاط نے اپنی تاریخ میں اس چیز کو بالفاظ ذیل درج کیا ہے:-

”عن محمد بن سیرین قال انطلق الحسن والحسين وابن

عمر وابن الزبير ومروان كلم شاك في السلاح حتى دخلوا

الدار فقال عثمان اعزم عليكم لما رجعتم فوضعتم اسلحتكم

ولزمتكم بيوتكم فخرج ابن عمر والحسن والحسين فقال ابن

زبير ومروان ونحن نعزم على انفسنا ان لا نبرح“

(تاریخ خلیفہ بن خیاط، ص ۱۵۱-۱۵۲- ج ۱ طبع اول

طبع نجف اشرف عراق تحت الفتنہ فی زمن عثمانؓ۔)

یہ مفسد لوگ اپنے قلوب میں ایک غرضِ فاسد رکھتے تھے جس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کئی جیلے تجویز کیے ہوئے تھے۔ ان جیل میں سے فساد کھڑا کرنے کا آخری جیلہ یہ تجویز کیا کہ حضرت عثمانؓ سے مطاببات منوانے کے بعد واپس ہو لیے اور کچھ مراحل دُور جانے کے بعد پھر یہ تمام بصری، کوئی مصری باغی یکدم مدینہ پر پلٹ پڑے اور پھر دوبارہ حضرت عثمانؓ کا محاصرہ کر لیا اور صحابہ کرامؓ پر اپنے لوٹنے کی یہ وجہ ظاہر کی کہ ہم نے حضرت عثمانؓ کی طرف سے ایک خط پکڑا ہے جس کو ناقہ سوارِ حاکمِ مصر کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس میں تھا کہ جب یہ مصری وفد واپس پہنچے تو اس کے فلاں فلاں آدمی کو سزا دی جائے۔ اس خط پر حضرت عثمانؓ کی مہر لگی ہوئی تھی اور خط بردار حضرت عثمانؓ کے اونٹ پر سوار تھا۔

لہذا حضرت عثمانؓ نے ہمارے ساتھ بد عہدی کر دی ہے اور ہمیں دھوکہ دیا ہے اس وجہ سے ہم عثمانؓ کو ختم کر دیں گے۔

صحابہ کرامؓ نے جب واقعہ کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے حضرت عثمانؓ سے گفتگو کی تو حضرت عثمانؓ نے حلف اٹھا کر فرمایا کہ مجھے اس چٹھی کے متعلق کوئی علم نہیں اور نہ ہی میں نے تحریر کروائی ہے (تو جواباً) باغیوں نے کہا کہ اس خط پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہے اور آپ کے ہی اونٹ پر خط بردار سوار ہے۔ (اس لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا)۔ پھر بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مروان بن الحکم کا لکھا ہوا ہو گا اس کو ہمارے حوالے کیا جائے تو اس وقت مروان نے بھی حلف اٹھا دیا (کہ میں نے نہیں لکھا) اور حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ اس معاملہ میں اور کچھ نہیں ہو سکتا اور مروان کو ان کے حوالے نہ کیا۔ پھر باغیوں نے حضرت عثمانؓ کی حویلی کا محاصرہ کر لیا۔ اور موقعہ پا کر حضرت عثمانؓ کو شہید کر دیا جس کی وجہ سے

مسلمانوں کے درمیان ایک بڑے فتنے کا دروازہ کھل گیا۔

ابن خلدون اس موقع کی تفصیل دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :-

فأنصرفوا قليلاً ثم رجعوا وقد لبسوا بكتاب مدلس يزعمون  
انهم لقتوه في يد حامله الى عامل مصر بان يقتلهم وحلف  
عثمان على ذلك فقالوا مكننا من مروان فانه كاتبك فحلف  
مروان فقال ليس في الحكم اكثر من هذا فحاصروه بداره  
ثم بيتوه على حين غفلة من الناس وقتلوه وانفتح باب  
الفتنة .

مقدمہ لابن خلدون لعبد الرحمن بن خلدون المغربي

الفصل الثالثون في ولايته العبد، ص ۲۱۵-۲۱۶

مطبع مصر، ص ۳۸۱-۳۸۲، مطبع بيروت۔

عثمانی شہادت کے موقع پر ان اشرار و مفسدین نے جو  
**ایک مصنوعی خط** جعلی خطوط صحابہ کی جانب سے اپنے پروپیگنڈے کے  
لیے پھیلانے تھے ان میں ایک خط یہ بھی تھا جو ناقہ سوار کے ذریعہ حاکم مصر کی طرف  
بھیجا جا رہا تھا۔ یہ حضرت عثمانؓ پر اقرار باندھ کر تیار کیا گیا تھا اور مروان کو تو کاتب  
عثمان ہونے کی وجہ سے شامل کر لیا گیا۔

قتل عثمانؓ کے لیے یہ ایک مقبول بہانہ تجویز کیا گیا تھا۔ مؤرخین علماء نے ان  
خطوط کے جعلی ہونے کی صراحت کر دی ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ :-

« هذا كذب على الصحابة انما كتبت مزورة عليهم كما كتبوا  
من جهة علي وطلحة والزبير الى الخوارج كتباً مزورة عليهم  
انكروها . . . . . وهكذا زور هذا الكتاب على عثمان ايضا فانه لم

یا مریبہ ولم یعلم بہ ایضاً۔

دالبدایہ، ج ۷، ص ۵۷، بحث مجی الاخراب الی عثمان

مغرض بزرگوں نے اس موقع پر مروانی کردار کا عجیب نقشہ مرتب فرمایا ہے۔ ذیل میں پیش خدمت ہے۔ اس کو ملاحظہ فرما کر پیش نظر رکھیے۔ پھر جواب کے لیے قلیل سا انتظار فرمائیے۔

## مروان کو مطعون کرنے والی تاریخی روایات کا ایک جائزہ

— عثمانی دور کے آخر میں فتنہ انگیزی اور شہزادی مروان کے سکڑ پڑی کے عہدہ پر مامور رہنے کی وجہ سے ہوئی۔  
— اکابر صحابہ کرام اور حضرت عثمانؓ کے مابین تعلقات خراب کرنے کی مروان نے مسلسل کوشش کی۔

— اس موقع پر مروان نے صحابہ کے مجمع میں ایسی تہدید آمیز تقریریں کیں جن کا سنا صحابہ کے لیے طلقاً کی زبان سے ناگوار اور مشکل تھا۔

— حضرت عثمانؓ کے لیے اس موقع کی مشکلات پیدا کرنے کی ذمہ داری سراسر مروان پر عائد ہوتی ہے اور یہی عظیم فتنہ کا سبب بنا۔

مختصر یہ ہے کہ محمد بن مسلمہ انصاری صحابیؓ اور مروان کے مابین سخت کلامی ہفتہ علی کی مروان پر سخت تنقید کرنا اور تمام معاملہ کا اسے ذمہ دار ٹھہرانا، حضرت عثمانؓ کی بیوی نائلہ کا مروان کو غلط کار اور مفسد قرار دینا وغیرہ، ان سب معاملات کی تان مروان پر اکڑا کر ٹوٹی ہے۔

— جو اباً عرض ہے کہ جس تاریخی مواد کی بنا پر "مبارک خاکہ" بالا تجویز فرمایا گیا ہے اس کو ثقلاً عقلاً جانچ لیا جائے اور تجزیہ کر لیا جائے۔ اگر صحیح ہو تو پھر یہ سب کچھ درست ہے۔ اگر معاملہ برعکس ہوا اور بنیادی خراب ٹھہری تو آخر کار



کی تمام عمارت ہی بیکار ہوگی۔ اب توجہ فرمائیے۔

اولاً۔۔۔ مروان کے عہدہ کتابت پر مامور رکھنے اور تقرب دینے کا مسئلہ جہاں مذکور ہے وہاں یہ چیز ”قالوا“ کے الفاظ سے نقل کی گئی ہے یعنی یہ بات لوگ کہتے ہیں، حضرت عثمانؓ کے دور تک بسند صحیح یہ بات نہیں پہنچی۔ واقعہ تک بسند صحیح پہنچنا مشکوک ہو گیا۔ خدا جانے کس قسم کے لوگ ہیں؟ کیسے ہیں؟ جو مروان کو مامور کرنے اور تقرب دینے پر حضرت عثمانؓ پر اعتراض کر رہے ہیں؟

(طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۲۲-۲۵۔ تحت

مروان بن الحکم، طبع اول لیدن)

۔۔۔ پھر حضرت عثمانؓ اور صحابہ کرام کے تعلقات کو مروان کا خراب کر دینا صحابہ کے مجمع میں مروان کا تہدید آمیز لیکچر دینا، اس موقعہ کی مشکلات پیدا کرنے کی مروان کی ذمہ داری، محمد بن مسلمہ انصاریؓ کا اور حضرت علی المرتضیٰؓ کا اور حضرت عثمانؓ کی بیوی نائلہ کا مروان کے حق میں سخت تنقید کرنا اور تلخ نوائی کرنا وغیرہ۔ ان روایات کے ناقل اور راوی جناب حضرت واقدی صاحب ہیں ”لبیری شریف“ اٹھا کر ملاحظہ فرمائیں متعدد مقامات پر یہ روایات درج ہیں۔ ذیل مقامات کو ملاحظہ فرمادیں :-

(تاریخ طبری، ج ۵، ص ۱۰۹-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۸-۱۱۹۔

تحت عنوان ذکر سیر من سارالی ذی خشب من اہل

مصر... الخ۔ زیر حالات ۳۵۔ طبع قدیم مصری)

اہل علم حضرات تو معاملہ سمجھ گئے ہونگے مگر عوام دوستوں کے لیے عرض ہے کہ مذکورہ بالا روایات کا ناقل ایک غیر معتبر اور ضعیف شخص ہے جس کی اس نوع کی روایات کو قبول کرنا علماء نے ترک کر دیا ہے۔ اس کی روایات صدق و کذب

کا مجموعہ ہیں ان کو تسلیم کر لینا گویا سچ و محسوس کے امتیاز کو ختم کر دینے کے مترادف ہے۔ خصوصاً وہ چیزیں جن کی وجہ سے صحابہ کا بہترین دور داغدار ہوتا ہو اور بالواسطہ حضرت عثمانؓ کی پوزیشن خراب ہوتی ہو ان کو بالکل تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ یہ روایات جعلی ہیں۔ ان میں صدق و کذب کو مخلوط کر دیا گیا ہے۔

اہل علم کی تسلی کے لیے ایک دو حوالے حضرت واقفی صاحب کی پوزیشن واضح کرنے والے پیش خدمت ہیں۔ القلیل یدل علی الکثیر۔

واقفی پر بعض محققین علمائے ہمارے بالفاظ ذیل نقد کیا ہے۔ مثلاً میزان الاعتدال میں علامہ ذہبیؒ لکھتے ہیں :

(۱) "..... قال احمد بن حنبل هو كذاب يقلب الاحاديث..."

قال البخاری و ابو حاتم متروک ..... واستقر الاجماع علی

وهن الواقدی :-

(میزان الاعتدال للذہبی، ج ۳، ص ۱۱۰ طبع قدیمی مصری

تحت محمد بن عمر بن واقف الاسلمی)

(۲) اور تذکرۃ الحفاظ میں ذہبیؒ لکھتے ہیں کہ

"..... لم استق توجتہ ہنا لاتفاقم علی ترک حدیثہ... الخ :-"

(تذکرۃ الحفاظ، ص ۳۲۸، ج ۱ طبع بیروت، تحت

الواقدی محمد بن عمر بن واقف الاسلمی)

(۳) — اور حافظ ابن حجرؒ تہذیب میں درج کرتے ہیں کہ

"..... قال البخاری الواقدی مدنی سكن بغداد متروک

الحديث... قال احمد بن حنبل الواقدی كذاب..

..... قال الشافعی كتب الواقدی كلها كذب... الخ :-"

تہذیب التہذیب لابن حجر، ص ۳۶۴-۳۶۶، ج ۱

تحت محمد بن عمر الواقدی

مطلب یہ ہے کہ واقدی غیر معتمد اور متروک شخص ہے۔ اس کی اس نوع کی روایت متروک اور غیر مقبول ہے اور دوسرے محدثین اور مؤرخین کی روایات سے تصحیح اور توافق کے بغیر واقدی کی روایات کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔

ثانیاً۔۔۔ بالفرض اگر مروانی کردار کا مجوزہ مذکورہ نقشہ درست ہے اور اس موقعہ کے فساد اور خرابیوں کا بنیادی سبب مروان ہے تو پھر ہاشمی حضرات حضرت علیؑ، حضرت حسنؑ و حسینؑ، ابن عباسؑ وغیرہ، اور دیگر صحابہ کرام، مثلاً ابن عمرؓ، زید بن ثابتؓ، ابو ہریرہؓ وغیرہم، حضرت عثمانؓ کی حفاظت کرنے اور ان کی حمایت کرنے اور ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے سے دست بردار کیوں نہیں ہوتے؟ ہتھیار لگا کر مدافعت عثمانیہ کیوں کرتے رہے؟ پانی بند ہونے پر پانی پہنچانے کے سامان کیوں کیے؟ حضرت عثمانؓ قسمیں دے دے کر ان کو تباہ اٹھانے سے روکتے تھے۔ یہ لوگ پھر بھی آخری دم تک حفاظتی تدابیر کرتے رہے۔ اس مرحلہ میں حضرت عثمانؓ کا کیوں ساتھ دیا اور ایسا کیوں تعاون کیا؟

زما ریح خلیفہ بن خیاط، جزا اول، ص ۱۵۰-۱۵۱۔

تحت فتنہ زمن عثمانؓ

یہ حضرات حضرت عثمانؓ کو صاف کہہ دیتے کہ یہ تمام شر و فساد مروان نے اٹھایا ہے جس کے ہاتھ میں آپ نے تمام سلطنت کی باگ ڈور دے رکھی ہے اور سیکرٹری خاص بنا رکھا ہے تمام فتنہ کی ذمہ داری اس پر ہے لہذا مروان جانے اور آپ کا کام جانے ہم اس غلط کام میں تعاون نہیں کر سکتے۔ حکم خداوندی ہے کہ

”وَتَعَادُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقْوَىٰ وَلَا تَعَادُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاسْتُوا لِلَّهِ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - (پ ۶)

نیز یہ چیز بھی غور کرنے کے قابل ہے کہ مصری وفد کے حق میں جو خط پکڑا گیا تھا جس میں محمد بن ابی بکر وغیرہ کے قتل کا حکم درج تھا، شتر سوار لے کر بارہا تھا وہ بھی اگر مروان نے ہی لکھ کر ارسال کیا تھا تو ایسے شریر انسان کو تو پہلے قتل کرنا چاہیے تھا اور عثمان کو قتل کر دیا گیا، لیکن مروان کو چھوڑ دیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟

ثالثاً۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جنگ جمل پیش آئی۔ اس وقت مروان حضرت علی کی جماعت کے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ حضرت علی کی جماعت کے مخالفین میں سے تھا۔ حسنین نے مروان کے لیے حضرت علی کے ہاں معافی کی سفارش کی۔ انہوں نے معافی دے دی۔ اس سفارش کا مسئلہ ذیل مقامات میں درج ہے اور قبل ازیں متعلقات مروان میں سنی و شیعہ دونوں کتب سے نقل کیا گیا ہے۔

(سنی) (۱) — السنن لسعید بن منصور، ص ۳۶۶۔ باب جامع الشہادۃ

روایت ۲۹۴۷۔ طبع مجلس اعلیٰ کراچی۔ ڈائجیل۔

(شیعہ) (۲) — بیج البلاغۃ، ص ۱۲۳۔ فی خطبۃ لہ علیہ السلام علم فیہا الناس

الصلوۃ علی البنی، طبع مصری۔

بقول مقررین اگر مروان تمام شرارتوں کی جڑ تھا اور اس کی وجہ سے فتنہ عثمانی پیش آیا تھا تو حسنین نے ایسے آدمی کی سفارش کیوں کی؟ اور حضرت علی نے قبول کیوں کی؟ اس کو تو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ مروان کے حق میں سفارشات اور معافیاں کیوں جاری ہوئیں؟

ان تمام حالات پر غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ عظیمہ اور

اس کے مبادی کا اصل سبب مروان کی کارستانیاں نہیں ہیں بلکہ اس کے اسباب

دوسرے ہیں۔ اس کے متعلق انشاء اللہ تعالیٰ اباحت ہذا کے آخر میں مستقل عنوان

قائم کر کے مختصراً کلام کیا جائے گا۔  
 — مقرر لوگوں کو چونکہ عثمانی دور کی خرابیاں خامیاں اور تقائص مدون کرنے  
 مقصود خاطر ہیں اس لیے وہ اپنے ”مزعومہ مقاصد“ کے اتمام کے لیے اپنے زورِ قلم سے تاریخ  
 کے ردی مواد سے یہ مباحث مستنبط فرماتے ہیں  
 - اعتراض کنندگان کی اس کارکردگی سے مروان کو نقصان پہنچے یا نہ پہنچے مگر حضرت  
 سیدنا عثمان (خلیفہ راشد) کا کردار ضرور عیب دار ہوتا ہے اور ان کے حق میں سورہ نملی  
 یقیناً پھلتی ہے (یا اسفا!) ان اللہ وانا الیہ راجعون -

## شبه سوم

بنو امیہ اور الحکم کی اولاد مروان وغیرہ کا ”مبغوض“

”وللعون“ ہونا

مقرر دست چند ایسی روایات اس موقعہ پر پیش کرتے ہیں جن میں بنی امیہ  
 اور پھر اولادِ حکم (مروان) وغیرہ کا مکروہ و مبغوض ہونا اور لعین ہونا دکھایا جاتا ہے۔  
 اس مسئلے کی متعلقہ چند روایات سامنے رکھ کر یہاں مختصراً بحث کی جاتی ہے تاکہ حقیقت  
 واقعہ صحیح طور پر معلوم ہو سکے۔ اور اعتراض کا بے جا ہونا ثابت ہو سکے۔

## ازالہ شبہ

اس مقام میں دو طریقہ سے بحث پیش خدمت کی جائے گی۔

روایت — و درایت

۱۔ یعنی پہلے ان روایات کو باعتبار نقل کے جانچنا ہوگا۔ روایت کے قواعد کی رو سے ان کا کیا مقام ہے؟ قابل قبول ہیں؟ یا قابل رد ہیں؟ علماء نے ایسی روایات پر کیا حکم لگایا ہے؟

۲۔ دوسرے یہ دیکھنا ہوگا کہ باعتبار عقل کے یہ روایات لائق تسلیم ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ اور یہ واقعات کے بالکل متضاد و متعارض تو نہیں پائی جاتیں؟ ان چیزوں کے متعلق غور و فکر کرنے سے خود بخود مسئلہ واضح ہو جائے گا اور نقلاً و عقلاً بحث کر لینے کے بعد کوئی خفا باقی نہ رہے گا (انشاء اللہ تعالیٰ) کہ اس قسم کی روایات بے اصل ہیں اور واقعات کے برخلاف ہیں۔

(۱)

## مبغوض ہونا

صحابہ بنو امیہ کے ساتھ عناد رکھنے والے دوستوں کی طرف سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ ابو بزرہ اسلمی کہتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمام قبائل میں سے بہت مبغوض (قابل نفرت) تین قبیلے تھے۔ ایک بنو امیہ، دوسرے بنو حنیفہ، تیسرے ثقیف تھے۔“

”..... عن ابی بردة الاسلمی قال کان البغض الاحیاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو امیة، بنو حنیفة و ثقیف.....“

المُتَدْرِكُ لِلْحَاكِمِ، ص ۴۸۰-۴۸۱، جلد رابع تحت کتاب  
الفتن والملاحم ذکر البغض الاحیاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وسلم۔

نیز بعض روایات میں پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

تین قبائل کو مکروہ جانتے تھے۔ ثقیف و بنو امیہ و بنو حنیفہ۔

اولاً۔۔۔ یہاں یہ بات قابل وضاحت ہے کہ ابو بزرہ اسلمی کی یہ روایت

حاکم نے یہاں ایک واسطہ سے امام احمد بن حنبل اور ان کے صاحبزادے عبداللہ

سے نقل کی ہے۔ ہم نے مسند احمد جلد رابع کی طرف رجوع کر کے ابو بزرہ اسلمی کی

تمام مرویات دیکھی ہیں۔ اس میں یہ روایت دستیاب ہوتی ہے لیکن وہاں بنو امیہ

کے الفاظ منفقود ہیں۔ صرف بنو حنیفہ و ثقیف کا ذکر موجود ہے۔ ملاحظہ ہو:

مسند احمد، ج ۴، ص ۲۲۰۔ تحت منادات ابی بزرہ

اسلمی۔ اول مسند البصرین۔ طبع اول مصری

یہاں سے واضح ہوا کہ اصل روایت میں بنو امیہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ بعد

میں بعض راویوں کی طرف سے روایت میں داخل کر دیئے گئے ہیں۔ اس کو ادراج

راوی کہا جاتا ہے اور یہ راویوں کے تصرفات کا ادنیٰ کرشمہ ہے اور کئی راوی روایت

میں اس طرح کمی بیشی کر دیا کرتے ہیں

ثانیاً۔۔۔ قابل غور یہ چیز ہے کہ اگر یہ روایت درست ہے اور نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قبیلہ بنو امیہ نہایت مبغوض و مکروہ اور قابل

نفرت تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ ذیل افعال کس طرح درست

ہوئے؟ اور بنو امیہ کے ساتھ مندرجہ ذیل معاملات کیسے جاری رکھے گئے؟ فرمان

نبوی کے ذریعہ یہ قبیلہ قابل مذمت و لائق نفرت ہوا۔ اور عمل نبوی نے ان کے

ساتھ حسن معاملہ کر دیا۔ یہ عجیب بات ہے۔

۔۔۔ اسی طرح مبغوض و مکروہ قبیلہ بنو امیہ کے ساتھ بنو ہاشم نے

روابط نسبی اور دیگر تعلقات کیوں قائم دائم رکھے؟ اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم

نے بھی بنو اُمیہ سے اچھے معاملات کیسے روارکھے؛ اور اسلامی حکومت میں کس طرح انہیں عمدہ مناصب دے دیتے؛ ذیل میں بطور یاد دہانی چند امور پیش کر دیتے ہیں۔ ان کو ملاحظہ فرما کر مسئلہ ہذا میں تدبیر و تفکر فرمادیں۔ کتابوں کے حوالہ جات ان کے لیے قبل ازیں گزر چکے ہیں۔ رجوع فرما کر تسلی کریں۔

## نسبی تعلقات

- ۱۔ صاحبزادی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عثمان اموی کے ساتھ تھا۔
- ۲۔ صاحبزادی ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عثمان اموی کے ساتھ تھا۔
- ۳۔ ام حبیبہ بنت ابی سفیان (اموی) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔
- ۴۔ حضرت علیؑ کے حقیقی برادر جعفر طیار کے بیٹے (عبداللہ بن جعفر) کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمانؓ کے بیٹے ابان بن عثمان بن عفان (اموی) کے ساتھ ہوا۔
- ۵۔ سیدنا امام حسینؓ کی لڑکی سکینہ بنت حسینؓ کا نکاح حضرت عثمان (اموی) کے پوتے زید بن عمرو بن عثمانؓ کے ساتھ تھا۔
- ۶۔ سیدنا امام حسینؓ کی لڑکی فاطمہ بنت حسینؓ کا نکاح حضرت عثمان (اموی) کے پوتے عبداللہ بن عمرو بن عثمان بن عفان کے ساتھ تھا۔
- ۷۔ سیدنا امام حسنؓ کی پوتی ام القاسم بنت حسن بن حسن کا نکاح حضرت عثمانؓ (اموی) کے پوتے مروان بن ابان بن عثمانؓ سے تھا۔ (مذکورہ رشتوں کے کتابی حوالہ جات سوا ام حبیبہ کے "رجماء بنہم" حصہ سوم عثمانی کے باب



اول میں تفصیلاً گزر چکے ہیں)۔

۸۔ امیر معاویہ کی بہن (مہذبنت ابی سفیان) اموی کا نکاح حضرت علیؓ کے

چچا زاد برادر حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب بن ہاشم کے

ساتھ ہوا۔

۹۔ حضرت علیؓ کے چچا حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب کی پوتی لبا بہ بنت عبید اللہ

بن عباس کا نکاح امیر معاویہ کے بھتیجے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان (اموی) کے

ساتھ ہوا۔

۱۰۔ حضرت جعفر طیارؓ کی پوتی رملہ بنت محمد بن عبد اللہ بن جعفر کا نکاح پہلے سلیمان

بن ہشام بن عبد الملک اموی کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد امیر معاویہ کے بھتیجے

ابو القاسم بن الولید بن عتبہ بن ابی سفیان (اموی) کے ساتھ ہوا۔

ان رشتہ داروں کے حوالہ جات قبل ازیں بحث ثانی میں امیر

معاویہ کے خاندان کے ساتھ رشتوں کے عنوان میں مذکور ہو چکے ہیں

(رجوع فرمادیں)

سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو قبیلہ مکروہ و منغوض ہو اس کے

ساتھ اس طرح کے برادرانہ تعلقات اور نسبی روابط قائم کرنے کس طرح درست ہوئے؟

سوچیے اور انصاف فرمائیے۔

## غیر نسبی روابط

۱۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حضرت عثمانؓ (اموی) کا تب وحی

تھے۔ (یہ مسئلہ مسلمات میں سے ہے)۔

۲۔ اسی طرح امیر معاویہؓ بھی کاتب نبوی تھے (یہ مسئلہ بھی مسلمات میں سے ہے)۔

۳۔ حضرت عثمانؓ (اموی) عہدِ نبوی میں متعدد دفعہ کئی امور کے ذمہ دار و عہدیدار بنائے گئے۔

۴۔ امیر معاویہؓ اموی کو عہدِ نبوی میں کئی امور کا والی بنایا گیا اور عہدِ صدیقی و فاروقی میں متعدد بار امیر و حاکم بنائے گئے۔

رجسٹ اول تحت عنوان "الثام" حوالے دے دیئے گئے ہیں۔

۵۔ حضرت ابوسفیانؓ (امیر معاویہ کے والد) اموی کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے علاقہ پر عامل و حاکم بنایا۔

۱۔ منہاج السنہ لابن تیمیہ، ص ۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۳ ج۔

۲۔ المنتقی للذہبی، ص ۳۸۲-۳۸۳۔

۶۔ اور یزید بن ابی سفیانؓ (امیر معاویہ کے برادر) اموی کو صدیق اکبرؓ نے فتوح الشام کے لیے افواج پر والی و امیر بنا کر روانہ کیا۔ پھر حضرت عمرؓ نے یزیدؓ کو اس کام پر مامور رکھا۔ (بحوالہ مذکور)

۷۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے عتاب بن اسید اموی کو مکہ پر حاکم بنایا۔ (بحوالہ مذکور)

۸۔ خالد بن سعید بن العاص اموی کو عہدِ نبوی میں بنی مدج کے صدقات پر اور صنعاء اور یمن پر عامل و حاکم بنایا گیا۔ (بحوالہ مذکور)

۹۔ ابان بن سعید بن العاص اموی کو عہدِ نبوی میں پہلے سہرا یا پر عامل بنایا گیا۔ پھر العلاء بن الحضرمی کے بعد البحرین کا حاکم مقرر کیا گیا۔ (بحوالہ مذکور)۔

۱۰۔ عمرو بن سعید بن العاص اموی کو عہدِ نبوی میں تیما، خیبر، قرنی عرینہ پر حاکم

۱۱۔ (قولہ عمرو بن سعید بن العاص) یہاں اصل کتاب میں عثمان بن سعید لکھا ہوا ہے۔

بنایا گیا۔

(۱) — بحوالہ مذکور یعنی منہاج السنہ، ص ۱۷۵-۱۷۶۔

ج ۳۔ تحت جوابات مطاعن عثمانی۔ طبع لاہور

(۲) — تاریخ خلیفہ ابن حیاظ، ج ۱، ص ۶۱-۶۲۔ تحت

تسمیۃ عمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو قبیلہ مکروہ و مبعوض و قابل نفرت ہو اسے یہ عزت کے مواقع کیوں مہیا کیے گئے؟ اور نبوی، صدیقی، فاروقی دور میں ان لوگوں پر اعتماد کرتے ہوئے مذکورہ ذمہ داریاں کیوں سپرد فرمائی گئیں؟ غور و فکر کے بعد خود فیصلہ فرمائیے۔

متعدد مقامات میں حضرت  
بنو امیہ کے حق میں حضرت علی کے اقوال

علی المرتضیٰ سے قبیلہ بنو امیہ کے حق میں فضیلت اور منقبت کے اقوال منقول ہیں جن سے حضرت علی کے نظریات بنو امیہ کے متعلق واضح ہوتے ہیں۔ مثلاً:

— ابن سیرین کہتے ہیں کہ ایک شخص نے قبائل قریش کے متعلق حضرت علی سے سوال کیا تو حضرت علی نے دیگر قبائل کی صفات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ

۴۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ عمرو بن سعید بن العاص ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انساب و رجال کی عام مندرجہ کتابوں میں (جو بندہ کے پاس ہیں) سعید بن العاص کی اولاد میں عمرو تو مذکور ہے۔ لیکن عثمان بن سعید اولاد میں نہیں ملتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ناقل کے قلم سے سہو ہو گیا ہے۔ اور عمرو کی بجائے عثمان لکھا گیا ہے تا حال بندہ کی تحقیق یہی ہے۔

لعل اللہ یحدث بعد ذالک امداً (مند)

قبیلہ بنو امیہ کے فضائل بالفاظ ذیل بیان فرماتے۔

— ہمارے بھائی بنو امیہ ہم میں سے بھاری عقل والے اور وزنی  
فہم و فراست والے ہیں۔

— ہمارے برادران بنو امیہ زیادہ علم والے ہیں۔

— بہر حال ہمارے بھائی بنو امیہ افواج و جیوش کی قیادت کرنے  
والے ہیں۔

— لوگوں کو خوراک و طعام مہیا کرنے والے ہیں اور عزت کی نعمت  
اور حرمت کی حمایت کرنے والے ہیں۔

— عن ابن سیرین قال قال رجل لعليّ اخبرني عن قریش

قال اذرتنا احلامًا اخوتنا بنی امیة۔

المصنف لعبد الرزاق، ج ۵، ص ۴۵۱۔ تحت عنوان

بیعة ابی بکر

— ”... فقال رعی، اذرتنا احلامًا اخوتنا بنو امیة“

(المصنف لعبد الرزاق، ج ۱۱، ص ۵۶، باب فضائل قریش)

— ”... فقال رعی، اما اخوتنا بنو امیة فقادة ادبة“

ذادة“

(۱) — المصنف لعبد الرزاق، ج ۱۱، ص ۵۷۔ تحت

فضائل قریش

(۲) — کتاب الفائق للزمخشري، ج ۲، ص ۲۶۴۔

تحت نون مع الجیم۔ طبع دکن۔

## حاصلِ کلام

مختصر یہ ہے کہ قولِ نبوی و عملِ نبوی کے ذریعہ اور حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے تعامل کی روشنی میں یہ بات واضح ہوئی کہ صحابہ بنو امیہ کو مبعوض و مکروہ جاننا واقعات کے برخلاف ہے۔ خود حضرت علیؑ کے فرامین کے برعکس ہے بلکہ ان کا منظور و مقبول ہونا مستحسن و پسندیدہ ہے اور جن روایات میں بغض و کراہت بنی امیہ کا ذکر پایا گیا ہے وہ درست نہیں بلکہ رواۃ کی طرف سے مدرج معلوم ہوتی ہیں۔

۲

## ”ملعون ہونا“

اول (۱) — عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میرے والد اپنے گھر کپڑے بدلنے گئے تاکہ یہاں آکر مجلس میں شریک ہوں۔ اس اثنا میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس لعین شخص داخل ہوگا۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں اندر باہر دیکھتا رہا۔  
 ”حتی دخل فلاں یعنی الحکمہ“ حتی کہ داخل ہوا فلاں شخص۔ راوی کہتا ہے  
 یعنی حکم داخل ہوا۔“

(بحوالہ مسند احمد، تحت روایات عبداللہ بن

عمرو بن العاص)

قابلِ توجہ یہ بات ہے کہ یہ روایت اخبارِ آحاد میں سے ہے اگر اس کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو آپ نے کسی شخصِ معین کا نام لے کر لعنت نہیں فرمائی بلکہ لعین شخص کے

داخل ہونے کی اطلاع کی۔ پھر وہ فلاں شخص مجلس میں داخل ہوا۔ راویوں میں سے ایک راوی کہتا ہے کہ وہ حکم ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اصل روایت میں "حکم" کا نام تصریحاً مذکور نہیں تھا۔ لیکن بعد میں فلاں سے مراد حکم لیا گیا۔ اس طریقہ سے یہ روایت اپنے مضمون پر صریح الدلالت نہ ہوئی بلکہ راوی کا اپنا گمان ٹھہرا۔

دوم (۲)۔ عبد اللہ بن زبیر سے منقول ہے کہ وہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے بیٹھے تھے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی ایک روایت سنائی کہ:-  
 "لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاناً وما ولد من صلبہ۔"

یعنی حضرت نے لعنت فرمائی فلاں شخص پر اور جو اس کی پشت سے اولاد ہوئی۔

(مسند احمد تحت مسندات عبد اللہ بن زبیر)

روایت ہذا اخبار آحاد میں سے ہے۔ اگر اس کو صحیح تسلیم کیا جائے تو اس میں ایک ایسے شخص اور اس کی اولاد پر لعنت کی گئی ہے جس کا نام اور تعین کچھ معلوم نہیں۔ نہ اس کا نام روایت میں ہے اور نہ ہی کسی راوی نے واضح کیا ہے۔

لہذا یہ روایت مدعا مذکور کو مثبت نہ ہوتی اور معلوم نہ ہو سکا کہ "فلاں" سے مراد کون شخص ہے؛ جو دلیل مدعا کو ثابت نہ کر سکے وہاں تقریب تام نہیں ہوتی۔

سوم (۳)۔ عبد اللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ:-

"ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن المحکم وولده"

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "المحکم" اور اس کی اولاد پر لعنت

کی۔

المستدرک للحاکم، کتاب الفتن والملاحم تحت ذکر  
الغرض الاحیاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طبع اول کن

اس روایت کی سند کے متعلق علماء کرام نے نقد اور جرح کر دی ہے۔ لہذا یہ  
روایت درست نہیں اور نہ ہی قابل استدلال ہے۔ مثلاً اس سند میں ایک راوی  
احمد بن محمد بن الحجاج بن رشید بن المصری ہے۔ اس کے متعلق ذہبی نے تلخیص مستدرک  
میں لکھا ہے کہ الرشیدی کو ابن عدی نے ضعیف قرار دیا ہے اور میزان الاعتدال  
جلد اول میں ذہبی نے لکھا ہے کہ ابن عدی کہتے ہیں کہ ابن رشید کو لوگوں نے  
جھوٹا قرار دیا اور اس کی کئی منکر روایات ہیں اور اس سے کئی باطل اور جھوٹی  
چیزیں منقول ہیں۔

میزان الاعتدال للذہبی، جلد اول

تحت احمد بن محمد الرشیدی،

اسی طرح لسان المیزان میں بھی مذکور جرح پائی گئی ہے اور حافظ ابن حجر نے

مزید لکھا ہے کہ احمد بن صالح الرشیدی کو کذاب کہتے تھے۔“

لسان المیزان، جلد اول، ۲۵۷-۲۵۸۔

تحت احمد مذکور،

اور کتاب الجرح والتعديل رازی (القسم اول - جلد اول) میں رشید مذکور

پر جرح پائی گئی ہے۔ لہذا میں مزید بعض راویوں پر بھی جرح موجود ہے لیکن

اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ یہ روایت سنداً صحیح نہیں۔ لہذا

قابل حجت نہیں ہو سکتی۔

چهارم (۴) — مستدرک للحاکم کی ایک روایت میں واقعہ مذکور ہے

کہ جب امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی بیعت کے لیے مروان کو کہا تو مروان نے

لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی تو اس وقت عبدالرحمن بن ابی بکر اور مروان کے درمیان اس مسئلہ میں تیز کلامی ہو گئی۔ عبدالرحمن نے کہا کہ یہ طریقہ ہر قتل اور قیصر کا ہے۔ مروان نے کہا کہ قرآن مجید کی آیت وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُتِيَ تَكْمًا۔ تمہارے حق میں نازل ہوئی۔ پس یہ بات حضرت عائشہ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا :-

— كَذَبَ وَاللَّهِ مَا هُوَ بِهِ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَعَنَ ابْنُ مَرْوَانَ وَمَرْوَانُ فِي صَلْبِهِ... الخ

یعنی حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مروان نے غلط کہا۔ اللہ کی قسم!

اس طرح بات نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ کو لعنت کی اور مروان اس کی پشت میں تھا۔

المستدرک للحاکم، ج ۴۔ کتاب الفتن

والملاحم تحت ذکر البغض الاجیاء الی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

روایت ہذا پر مندرجہ ذیل کلام کیا جاتا ہے :-

۱۔ ایک تو یہ ہے کہ اس روایت میں انقطاع پایا گیا ہے۔ علامہ ذہبی نے

اپنی تلخیص میں اس روایت کے تحت یہ لکھا ہے :-

”قلت فيه انقطاع محمد لم يسمع من عائشة“

”یعنی محمد بن زیاد نے کورنے حضرت عائشہ سے یہ روایت نہیں سنی“

بلکہ درمیان میں کوئی اور شخص ساقط ہے جس کے ذریعے یہ روایت محمد کو پہنچی (خدا جانے وہ کیسا آدمی تھا)۔

تلخیص مستدرک حاکم، ج ۴، ص ۸۱

(تحت روایت)



۲۔ دوسری بات یہ ہے کہ روایت مذکورہ یعنی عبدالرحمن اور مروان کی باہمی مذکورہ گفتگو، مندرجہ ذیل مقامات میں اکابر علماء نے ذکر کی ہے لیکن اس مقام میں مروان اور اس کے والد حکم پر زبانِ نبوت سے لعن طعن مذکور نہیں۔

— بخاری شریف میں عبدالرحمن اور مروان کی گفتگو مذکورہ کا ذکر ہے لیکن وہاں بھی حکم اور مروان پر لعن طعن کا کوئی ذکر نہیں۔

۱۔ بخاری شریف، جلد ثانی، سورۃ احقاف،

باب قولہ والذی قال لوالدیہ اُتِ لکما۔

۲۔ الاصابہ، ج ۱، ص ۲۴۵۔ تحت الحکم۔

۳۔ اسد الغابہ لابن اثیر، ج ۳، ص ۳۰۶۔ تذکرہ

عبدالرحمن بن ابی بکرؓ۔

۴۔ الاصابہ لابن حجر، ج ۲، ص ۴۰۰۔ تذکرہ

عبدالرحمن بن ابی بکرؓ۔

۵۔ البدایہ لابن کثیر، ج ۸، ص ۸۹۔ تحت تذکرہ

عبدالرحمن بن ابی بکرؓ۔

(۵۸ھ) میں مذکورہ باہمی گفتگو مندرج ہے لیکن مندرجہ بالا ۵ عدد

کتب میں زبانِ نبوی سے مروان و حکم پر لعن طعن کا اضافہ نہیں پایا جاتا اور جہاں

کہیں اس واقعہ میں حضرت عائشہؓ کی زبان سے لعن طعن کا اضافہ پایا جاتا ہے۔ اس

کے متعلق حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ روایات صحیح نہیں۔

”ویروی انہا بعثت الی مروان تعتبہ و توثبہ و

تخبہ بخبرنیہ ذم لہ و لابیہ لایصم عنہ“

”یعنی جن روایات میں یہ مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مروان کو عتاب اور زجر و توبیخ کی اور ایک ایسی خبر دی کہ جس میں مروان اور اس کے باپ کے لیے مذمت مذکور تھی تو وہ روایات صحیح اور درست نہیں۔“

البدایہ لابن کثیر، ج ۸، ص ۸۹ - تذکرہ

عبدالرحمن بن ابی بکر تحت ۵۸

مذکورہ پیش کردہ چیزوں کے ذریعہ ثابت ہوا کہ اس واقعہ کی جو روایات صحیح ہیں ان میں لعن طعن مذکور نہیں اور جہاں کہیں اس میں لعن دیکھا گیا ہے وہ مرویات صحیح نہیں۔ لہذا یہ روایت مدعا کو ثابت نہیں کر سکتی اور تقریباً تمام نہیں۔

پنجم (۵) — حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ سے ایک روایت ذکر کی گئی ہے کہ:

”حضور علیہ السلام کے دور میں اہل اسلام کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں دعا و برکت کے لیے حاضر کیا جاتا۔ آپ اس کے لیے دعا فرماتے۔ چنانچہ مروان بن الحکم پیدا ہوا تو اس کو حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آنجناب نے فرمایا:

”هو الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون“

”یعنی گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے اور ملعون کا بیٹا ملعون ہے۔“

امتدک للحاکم، کتاب الفتن والملاحم تحت عنوان اذا

بلغت بنو امیة اربعین... الخ۔

اس روایت کے متعلق علماء نے مندرجہ ذیل کلام کر دیا ہے۔ لہذا یہ روایت بالکل

بے اصل اور بے بنیاد ہے۔

۱۔ علامہ ذہبی نے مستدرک کی تلخیص میں اس روایت کے تحت فرمایا ہے کہ :-

”قلت لا والله وميناء كذبه ابو حاتم“

”یعنی حاکم نے روایت کو صحیح کہا تھا۔ اس کو رد کرتے ہوئے ذہبی فرماتے

ہیں کہ اللہ کی قسم! ایسی بات نہیں ہے اور اس روایت کے راوی میناء کو ابو حاتم

رازی نے جھٹلایا ہے۔

(۱) — تلخیص مستدرک للحاکم، ج ۴، ص ۴۷۹ تحت

روایت۔

(۲) — المغنی فی الضعفاء للذہبی، ص ۶۹۱۔ جز ثانی

تحت میناء ابن ابی میناء۔

۲۔ ابن ابی حاتم رازی نے کتاب الجرح والتعديل جلد الرابع قسم اول میں اسی راوی

میناء رمولی عبد الرحمن بن عوف کے حق میں لکھا ہے کہ منکر الحدیث۔ روی

احادیث فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناکیر۔ لا یعباء

بعد یتہ کان یکذب“

یعنی میناء حضور کے صحابہ کے حق میں منکر روایات روایت کرتا تھا۔

اس کی حدیث کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا۔ وہ جھوٹ بولتا تھا“

کتاب الجرح والتعديل، ص ۳۹۵۔ ج ۴۔

قسم اول تحت میناء۔ طبع حیدرآباد دکن

۳۔ ابن حبان نے اپنی کتاب الجرح و جہن میں میناء کے حق میں لکھا ہے کہ

”..... وجب التکب عن حدیثہ“

یعنی میناء کی روایت سے اجتناب کرنا واجب اور الگ ہو جانا لازم ہے

کتاب المجروحین لابن حبان جز ثانی، ص ۲۲۵ تحت میناء  
 مولیٰ عبدالرحمن - طبع حیدرآباد دکن

حافظ ابن حجر نے تہذیب میں کہا ہے کہ :-

”..... قال المجوز جانی انکر الائمة حدیثہ لسوء مذہبہ۔

”..... قال ابن عدی ..... انه یغلوفی التشیع ...“

”..... قال یعقوب بن سفیان ..... ان لایکتب حدیثہ۔“

یعنی کبار علماء نے میناء کے برے مذہب کی وجہ سے اس کی حدیث

سے انکار کر دیا ہے۔ ابن عدی نے کہا کہ وہ شیعہ مذہب میں غلو رکھتا

تھا۔ اور یعقوب بن سفیان نے کہا کہ میناء کی روایت کو نہ لکھا جائے۔

اور اس سے روایت نہ لی جائے۔“

(تہذیب التہذیب لابن حجر، ج ۱۰، ص ۳۹۷۔)

تحت میناء بن ابی میناء۔)

\_\_\_\_\_ علماء کبار کی مندرجہ بالا تصریحات سے ثابت ہوا کہ میناء کی یہ روایت

بے اصل ہے اور اس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔

تذنیہ :-

مروان اور اس کے والد حکم کے سلسلہ میں اس قسم کے لعن طعن کی روایات

کئی انواع کی صورت میں راویوں نے چلا دی ہیں ان کا شمار کر کے احتساب کرنا

ایک بڑی طویل بحث ہے۔ ہم نے بطور نمونہ اس نوع کی چند روایات ناظرین

کی خدمت میں پیش کر کے ان پر کلام کر دیا ہے کہ بعض روایات تو مدعا کو ثابت

نہیں کر سکتیں اور بعض دوسری مرویات غیر معتبر راویوں کی وجہ سے بے اصل ہیں۔

## نذمت کی روایات علماء کی نظروں میں

”صحابہ بنو امیہ“ اور ان کے ہم نوا اصحاب کے متعلق بعض روایات میں نذمت اور تنقیص دستیاب ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں کبار علماء نے روایات کے اس قسم کے ذخیرہ پر طبعاً عمدہ کلام کر دیا ہے۔ نمونہ کے طور پر ہم ذیل میں اس کو نقل کرتے ہیں تاکہ صحابہ بنو امیہ کے خلاف روایات کا ایک گونہ جائزہ لیا جاسکے اور شبہ ہذا کے تحت جو بعض لعن وغیرہ کی روایات ذکر کی گئی ہیں ان کا یکجا تجزیہ ہو سکے۔

۱۔ علامہ ابن قیمؒ نے اپنی تصنیف ”المنار المنیفة فی السیح والضعیف“ کے فصل سنتیں میں مذکورہ روایات پر عجیب بحث کی ہے۔ ناظرین کرام کے لیے اس میں سے چند جملے نقل کیے جاتے ہیں:-

..... ومن ذالک الاحادیث فی ذم معاویة - وكل  
 حدیث فی ذمہ فهو کذب - وكل حدیث فی ذم عمرو بن  
 العاص فهو کذب - وكل حدیث فی ذم بنی امیة فهو کذب  
 ..... وكذلك احادیث ذم الولید و ذم مردان بن المحکم  
 یعنی ان جعلی روایات میں سے وہ احادیث ہیں جو امیر معاویہ کی  
 تنقیص میں منقول ہیں اور ہر وہ حدیث جو ان کی نذمت میں ہے  
 دروغ اور جھوٹ ہے:-

اسی طرح ہر وہ حدیث جو عمرو بن العاص کی نذمت میں ہے جھوٹ  
 ہے اور ہر وہ حدیث جو بنی امیہ کی نذمت میں ہے وہ دروغ ہے۔

..... اسی طرح وہ احادیث جو ولید اور مروان بن الحکم کی مذمت  
میں ہیں جعلی ہیں۔“

(المنار المنیفة فی الصحیح والضعیف لابن قیم  
فصل سینتیں، ص ۱۱۷۔ مطبوعہ حلب)

(۲) — — ملا علی قاریؒ نے بھی اسی طرح ان مذمت و تنقیص اور لعن طعن پیش کرنے  
والی روایات کے متعلق یہ ذکر کیا ہے کہ :-

”ومن ذالك الاحادیث فی ذم معاویة و ذم عمرو بن العاص  
و ذم بنی امیة ..... و ذم مروان بن الحکم ... الخ۔“  
”یعنی ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ ان جعلی روایات میں وہ احادیث  
ہیں جو امیر معاویہؓ کی مذمت میں اور عمرو بن العاص (صحابی) کی مذمت میں  
ہیں اور قبیلہ بنی امیہ کی مذمت میں ہیں ..... اور اسی طرح مروان  
بن الحکم کی مذمت میں روایات بھی جعلی ہیں۔“

۱۔ — موضوعات ملا علی قاری، ص ۱۰۶۔ مطبوعہ مجتہبائی دہلی

فصل و ما وضعہ جہلہ المنتسبین الی السنۃ۔

۲۔ — الاسرار المرفوعہ فی اخبار الموضوعہ، ص ۴۷۷۔ یعنی

موضوعات کبیر ملا علی قاری۔ مطبوعہ بیروت لبنان۔

۳۔ — کوثر البنیؒ از مولانا عبد الغزیز پیر ہاروی (حصہ دوم)

تحت بحث احادیث موضوعہ (قلبی)

— اس فن کے مشاہیر علماء نے اُمتِ مسلمہ پر واضح کر دیا ہے کہ بنی امیہ

کے مشہور مشہور حضرات کے حق میں لعن طعن و مذمت و تنقیص دکھلانے والی روایات

راویوں نے از خود تصنیف فرما کر قوم میں نشر کر دی ہیں۔ اب اس قسم کے ذخیرہ روایات

پر نظر کرنے سے لوگوں کو کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر ان کے حق میں بدظنی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ علمائے نے "احقاقِ حق" کا اپنا فریضہ خوب ادا فرمایا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص حق بات کو قبول نہیں کرتا اور خواہ مخواہ "زیرِ عن الحق" کی راہ اختیار کرتا ہے۔ تو یہ "تعصب" ہو گا جس کا انجام بخیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والحق احقّ ان یتَّبَع" یعنی حق بات اس کی زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔

— (۴) —

## مذکورہ روایات عقل و درایت کی روشنی میں

اس سلسلہ میں اس مسئلہ پر غور کرنا ہے کہ اگر الحکمہ اور اس کی اولاد مروان وغیرہ پر لعن طعن کی مذکورہ بالا روایات درست ہیں اور اگر (لسانِ نبوت) سے الحکم اور اس کی اولاد ملعون ہے تو پھر مندرجہ ذیل چیزیں کیسے صحیح ہوئیں۔ مثلاً :-

- ۱۔ حضرت عثمانؓ کی طرف سے مروان کو اپنا داماد کیسے بنا یا گیا؟
- ۲۔ حضرت عثمانؓ نے مروان کو اپنا کاتب کیسے تجویز فرما دیا؟
- ۳۔ حضرت عثمانؓ نے مردان کو "بحرین" کا حاکم اور والی کیسے بنا دیا؟
- ۴۔ حضرت عثمانؓ نے الحکم کو جمع اس کی اولاد کے مدینہ میں قیام کی کیسے اجازت دے دی؟ کیا حضرت عثمانؓ کو حضور علیہ السلام کے یہ لعن طعن کے فرمودات معلوم نہیں تھے؟ یا پھر ان فرامین نبوت سے متاثر نہ ہوئے؟ کونسی بات درست ہے؟ حضرت عثمانؓ کی دیانتداری و جان نثاری کے مقام کو مد نظر رکھیں اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں۔

۵۔ اگر یہ خاندان زبانِ رسالت کے ذریعے لائقِ نفرت، قابلِ حقارت اور

لعن کا مورد ہے تو حضرت علی المرتضیٰ نے قبیلہ بنو امیہ (جس کی الحکم اور اس کی اولاد ایک بڑی شاخ ہے) کے حق میں مذکورہ بالا فضیلت و منقبت کے اقوال کیسے فرمادیئے اور ان کے عمدہ خصال کس طرح شمار کر دیتے؟

۶۔ نیز حضرات حسنینؑ نے جنگ جمل میں مروان کی گرفتاری پر مروان کو رہا کرنے کے لیے حضرت علیؑ کے ہاں سفارش کس طرح کر دی؟ اور پھر حضرت علیؑ نے اس کے حق میں سفارش کیسے منظور فرمائی؟

۷۔ سہل بن سعد (صحابی)، علی بن الحسین ہاشمی (یعنی زین العابدین تابعی، عروہ بن زبیر تابعی، سعید بن المسیب تابعی وغیرہم اکابرین اُمت نے مروان کی دیانت پر کیسے اعتماد کیا۔ اور اس سے روایات حدیث کیسے حاصل کیں؟

۸۔ امام مالکؒ نے اپنے ”موطا“ میں مسائل شرعی میں اعتماد کرتے ہوئے مروان سے متعدد مسائل کیسے نقل کر دیئے؟

۹۔ امام محمد بن حسن الشیبانی نے اپنے ”موطا“ میں مروان سے بہت سے مسائل شرعی کیسے نقل کر دیئے؟

۱۰۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہؓ مدینہ طیبہ پر ایسے مروان کا نائب مناب اور قائم مقام ہونا کیسے گوارا کرتے تھے؟

۱۱۔ حضرت سیدنا زین العابدین کا قول اموی خلفاء کے حق میں کیسے صحیح ہوا؟ جب کہ ایک شخص کے جواب میں آپ نے فرمایا:-

”بل نصلیٰ خلفہم و نناضحہم بالسنتہ“

”یعنی ہم بنی امیہ خلفاء کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے اور ان کے ساتھ رشتہ داری کا تعلق سنت کے مطابق قائم کریں گے“



۱۲۔ سیدنا زین العابدینؑ کے حق میں علامہ زہری کا قول کس طرح صحیح ہوگا۔ وہ فرماتے

ہیں کہ احسنہم طاعةً احبہم الی مروان و عبد الملک بن مروان۔

یعنی اہل بیت حضرات میں سے سیدنا زین العابدینؑ مروان و عبد الملک بن مروان

کے نہایت عمدہ تابعدار ہیں اور اس کی طرف زیادہ محبت رکھنے والے ہیں۔

۱۳۔ مزید تدبیر فرمائیے۔ اگر بالفرض فرمان نبوی کے اعتبار سے بنی امیہ مذموم و

مبغوض ہیں اور خصوصاً الحکم اور اس کی اولاد مروان وغیرہ ملعون ہے تو پھر

ایسے منحوس خاندان کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰؑ کی اولاد شریف نے رشتہ

داری کے نسبی تعلقات کیسے قائم فرمادیئے؟ اور لطف یہ کہ متعدد رشتے حضرت

علیؑ کی اولاد نے مروان کی اولاد کو دیئے ہیں ان سے بے نہیں مثلاً :-

(۱)۔ رملہ بنت علی بن ابی طالبؑ مروان کے بیٹے معاویہ کے نکاح میں تھی

(۲)۔ حسن ثنیٰ کی لڑکی (زینب) مروان کے پوتے ولید بن عبد الملک بن

مروان کے نکاح میں تھی۔

(۳)۔ امام حسنؑ کی پوتی (نفیصہ بنت زید بن امام حسن) مروان کے پوتے

ولید بن عبد الملک بن مروان کے نکاح میں تھی۔

(۴)۔ امام حسنؑ کی پوتی (خدیجہ بنت الحسین بن حسن) مروان کے بھائی

الحارث بن الحکم کے پوتے اسمعیل بن عبد الملک بن الحارث کے نکاح میں تھی

اسی خدیجہ کو ام کلثوم کے نام سے بھی ذکر کیا جاتا ہے۔

(۵)۔ خدیجہ ہذا کے نکاح کے بعد ان کی چچا زاد بہن (حمادہ بنت الحسن

المثنیٰ بن امام حسنؑ) مروان کے حقیقی بھائی الحارث بن الحکم کے پوتے اسمعیل

بن عبد الملک بن الحارث کے نکاح میں تھیں۔

مذکورہ بالا امور کے حوالہ جات قبل ازیں امیر معاویہؓ اور مروان کے حالات میں

دے دیتے گئے ہیں، رجوع فرما کر تسلی کی جاسکتی ہے۔

قابل غور یہ بات ہے کہ کیا حضرت علیؑ کی اولاد نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام فرمودات دجن میں بغض، کراہت، لعن وغیرہ مذکور ہے (یکسر فراموش کرتے ہوئے خاندان مروان سے دائمی تعلقات رشتوں کی صورت میں استوار کر لیے۔ یا یہ روایات ان کے دور میں ان لوگوں کے سامنے ہی نہیں آئی تھیں۔ بلکہ بعد میں راویوں نے اپنے اپنے مقاصد کی خاطر تصنیف فرما کر قوم میں نشر کر دیں۔

ناظرین کرام میں بڑے بڑے فہیم، ذہین، فطین، ذکی، مفکر موجود ہیں۔ ہم نے گویا اس مسئلہ کی مختلف جوانب پیش کر دی ہیں۔ منصفانہ غور و خوض فرما کر امید ہے بہتر نتائج خود برآمد کر سکیں گے۔ ہماری طرف سے صرف اتنی گزارش ہے کہ گروہی تعصب سے بالاتر ہو کر غور فرماویں۔

## بحث مروان کا خاتمہ

مروان بن الحکم کے لیے پہلے مختصر حالات دیتے گئے۔ اس کے بعد مروان کے متعلق چند ایک مشہور مشہور اعتراضات کے جوابات پیش کیے ہیں۔ ان دونوں بحثوں میں کما حقہ علمی مواد ہم نہیں پیش کر سکے۔ بعض تاریخی کتب (مثلاً تاریخ بلدہ دمشق کامل ابن عساکر وغیرہ) ہمیں حاصل نہیں۔ اس وجہ سے یہ بحثیں نامکمل ہیں۔ تاہم مالایدرک کلا لایترک کلا کے قاعدہ کے موافق جو کچھ حاضر تھا وہ پیش کر دیا گیا۔

قبل ازیں بحث ہذا کی ابتدا میں بھی ذکر کیا گیا۔ اب دوبارہ آخر بحث میں لکھا جاتا ہے کہ کسی مسئلہ میں بھی افراط و تفریط مناسب نہیں ہوتی۔ اس بناء پر مروان کے معصوم عن الخطاء اور غلطی سے متبرا ہونے کا ہرگز دعویٰ نہیں ہے۔

بہت ممکن ہے کئی مواقع میں مروان سے غلطی ہوئی ہو لیکن ساتھ ہی مروان کی خوبیاں  
 کو اور دینی و قومی خدمات کو یکسر ختم کر کے اس کی خامیوں کی داستانیں نشر کرنا بھی  
 کوئی "کارِ خیر" نہیں اور نہ اسلام و دین کی یہ کوئی بہترین خدمت ہے۔  
 سلف صالحین کے طریقہ پر "خدا صفا و دوع ماکدر" پر عمل کرنا مناسب  
 ہے۔ حق بات کو حق کہنا، غلط بات کی حمایت نہ کرنا یہ اسلم طریق ہے اور تعصب  
 سے اجتناب کی بہترین صورت ہے۔ اگر قبول خاطر ہو جائے۔

# بحث ثالث

بحثِ ہذا میں اس مسئلہ کو دو طریقہ سے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ معلوم کیا جائے "اقربا نوازی" کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعاً کس طرح محمود اور صحیح ہے؟ اور کن کن صورتوں میں مذموم اور قبیح ہے؟

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ واقعات کے اعتبار سے اس مسئلہ کو معلوم کیا جائے اور دورِ عثمانی سے پہلے گذشتہ ادوارِ عہدِ نبوی، عہدِ فاروقی اور بعد والے ایامِ عہدِ رضویٰ میں غور و فکر کر لیا جائے کہ ان ایام میں رشتہ داروں کو مناصب دینے میں کیا طرز اختیار کیا گیا؟ اور عہدہ جات تقسیم کرنے میں قبیلہ داری کی رعایت رکھی گئی؟ یا قریبیوں کو حکومت کے مناصب سے الگ رکھا گیا؟ ان ہر دو طریقے سے مسئلہ ہذا خوب واضح ہو جائے گا۔

## طریقِ اول

شریعت میں اقرباء کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(۱) — وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ... الخ

یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان اور بھلا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیمی اور مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ (قرآن مجید۔ پارہ پنجم۔ پاؤ اول)

(۲) — إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔

یعنی اللہ تعالیٰ امر کرتے ہیں انصاف کرنے کے ساتھ اور احسان کرنے  
کے ساتھ اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کے ساتھ اور منع فرماتے  
ہیں بے حیائی کے کاموں سے اور بُرے کاموں سے اور زیادتی کرنے  
سے۔

(پارہ ۱۴ - پاؤچہارم)

حدیث شریف میں آیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”عن ابن عمر انّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابوالبرّان

یصل الرجل وداہیہ (بعد ان یوتی)

یعنی کامل صلہ رحمی یہ ہے کہ اپنے والد کے بعد اس کے احباب کے ساتھ

حسن سلوک اور اچھا معاملہ کیا جائے۔

(۱) — مسلم شریف، ج ۲، ص ۳۱۴۔ باب فضل صلۃ

اصدقاء الاب والام ونحوہا۔ طبع نور محمدی دہلی

(۲) — ابوداؤد شریف، ج ۲، ص ۳۵۳۔ باب فی

برالوالدین۔ طبع مجتہبائی دہلی۔

اسی طرح بہت سی نصوص شرعیہ میں اقرباء کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے اور

اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنے کی تاکید ہے۔

لہذا حضرت عثمانؓ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عہدہ اور منصب کے معاملہ

میں اگر رعایت فرمائی ہے تو یہ شرعی احکام کے موافق ہے۔ طریق شریعت کے

برخلاف نہیں۔

”اقربا نوازی“ کے مذموم اور ناجائز ہونے کی صورت یہ ہے کہ غیر کے حق کو

دبا کر اپنے قریبی کو دے دیا جائے۔ اسی طرح دوسرے شخص کے حق کو ضائع کر کے اس کی اجازت کے بغیر اپنے رشتہ دار کو مستحق قرار دیا جائے۔ یہ طریق کار شریعت میں قبیح شمار کیا جاتا ہے۔

اگر یہ صورت نہ ہو تو رشتہ دار کو منصب عطا کرنے میں کچھ سقم نہیں بشرطیکہ وہ اس کا اہل ہو۔

## طریق ثانی

اس طریقہ کے متعلق ناظرین کرام کی خدمت میں دور نبوی کے چند اہم مناصب اور عہدے پہلے ذکر کیے جاتے ہیں جو سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں (بنو امیہ اور بنو ہاشم) کو عنایت فرماتے تھے۔ اس کے بعد دور فاروقی اور اس کے بعد عہد مرقضوی کے مناصب ذکر کیے جائیں گے جو انہوں نے اپنے اقرباء کے لیے تجویز فرمائے تھے۔ تاکہ اس مسئلہ کو اہل فہم و فکر حضرات واقعات کی شکل میں حل فرما سکیں۔ اور باقی ادوار کے ساتھ عثمانی دور کا تقابل و توازن بھی قائم کر سکیں۔

## دور نبوی میں اقرباء کیلئے مناصب دہی کے چند واقعات

اول۔۔ حضور علیہ السلام نے اپنے داماد حضرت عثمان بن عفان کو اپنے دور رسالت میں کئی اہم مناصب اور عہدوں پر فائز فرمایا مثلاً۔  
۱۔ کتابت وحی کا عہدہ انہیں عنایت فرمایا گیا اور کاتبان وحی میں حضرت عثمان شامل تھے۔

۱۔ زاد المعاد لابن قیم ج ۱، ص ۳۳ فصل فی کتابہ صلی اللہ علیہ وسلم

۲۔ السيرة النبوية لابن كثير، ج ۳، ص ۶۶۶۔ تحت  
کتاب الوحى وغيره بين يديه۔

۳۔ سيرة الحلبية، ج ۳، ص ۳۶۴۔ باب ذكر المشاهير  
من كتابه صلى الله عليه وسلم۔

۴۔ جوامع السيرة لابن خزم، ص ۲۶۔ تحت كتابه صلى الله  
عليه وسلم۔

۲۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش مکہ کی طرف حضرت عثمانؓ کو حضور علیہ السلام  
نے اپنا سفیر بنا کر روانہ فرمایا۔

حضرت عثمانؓ کی یہ سفارت صحاح سنہ اور سیرت کی عام کتابوں میں غزوہ  
حدیبیہ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر مذکور ہے۔

(مشکوٰۃ شریف، باب مناقب عثمان الفصل

الثانی والثالث، ص ۵۶۱-۵۶۲ طبع نور محمدی دہلی)

۳۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو غالباً ایک بار مدینہ شریف پر  
اپنا نائب بنایا تھا اور حضرت عثمانؓ کو متعدد دفعہ مدینہ طیبہ پر اپنا قائم مقام اور خلیفہ  
بنایا۔ ایک دفعہ غزوہ ذات الرقاع میں مدینہ پر اپنا خلیفہ بنایا۔ دوسری دفعہ غزوہ  
عطفان میں اپنا قائم مقام بنایا۔

« استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة

في غزوته الى ذات الرقاع عثمان بن عفان واستخلفه ايضاً

على المدينة في غزوته الى عطفان... الخ »

(۱) طبقات ابن سعد، ج ۳، ص ۳۹۔ قسم اول تحت

ذكر اسلام عثمانؓ۔ طبع اول بيدن۔

(۲) — منہاج السنہ لابن تیمیہ، ج ۳، ص ۱۶۔

اگر بالفرض کسی صاحب کو حضرت عثمانؓ کی مذکورہ متعلقہ چیزوں میں المصادرة الی المطلوب پاتے جانے کا شبہ نظر آتے تو ان کی بجائے مندرجہ ذیل بنی امیہ کے قریبی اشخاص کے مناصب کو سامنے رکھیں اور مسئلہ میں غور فرمائیں۔

**دوم** — حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ جو حضرت امیر معاویہؓ کے والد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے باعزت صحابی ہیں۔ فتح مکہ کے موقعہ پر اسلام لائے۔ بنی امیہ کے سرداروں میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا قریبی رشتہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی حرم محترم اُم المؤمنین ام حبیبہؓ یعنی رملہ بنت ابی سفیان کے والد شریف ہیں۔ ابوسفیان کے حضور علیہ السلام داماد ہیں اور وہ ان کے خسر ہیں۔ یہ مسئلہ اسلامی تاریخ کے مسلمات میں سے ہے۔

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چچا حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ کے یہ زمانہ جاہلیت میں بھی دوست تھے۔ فتح مکہ کے روز حضرت عباسؓ کی ترغیب سے ایمان لائے تھے اور بعد از اسلام بھی خاص ہم نشین اور صاحب رہے۔

نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوسفیانؓ کو کئی منصب اور عہد عطا فرمائے اور کئی اہم ذمہ داریاں ان کے سپرد فرمائیں۔ ان میں سے ذیل میں صرف چند چیزیں بالاختصار پیش خدمت ہیں جو مضمون بالا کے مناسب ہیں۔ مثلاً

**اول۔ نجران کا حاکم ہونا** | نجران کے علاقہ پر حضور علیہ السلام نے ابوسفیان کو عامل اور حاکم بنایا۔

”واستعملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نجران“

(۱) — کتاب نسب قریش لمصعب الزبیری، ص ۱۲۲۔

تحت ولد حرب بن امیہ۔



(۲) — کتاب الحجرات جعفر بغدادی، ص ۱۲۶ تحت

امراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(۳) — تاریخ خلیفہ ابن خیاط، ج ۱، ص ۶۲ تحت

عمال نبوی -

قبیلہ بنی ثقیف جب اسلام لائے، ان میں  
دوم بُت شکنی کے لیے روانگی | ایک بُت نصب تھا جس کو وہ گرانہ نہیں چاہتے

تھے لیکن سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بُت شکنی کے لیے حضرت ابوسفیانؓ اور  
مغیرہ بن شعبہ کو روانہ فرمایا۔ انہوں نے اس کو گرا کر پاش پاش کر دیا۔

” . . . . . فابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان بیعت

اباسفیان بن حرب والمغیرة بن شعبه فیہد ماہا “

(۱) — سیرت ابن ہشام، ج ۲، ص ۵۴۰-۵۴۱ تحت

عالات وفد ثقیف -

(۲) — البدایہ لابن کثیر، ج ۵، ص ۳۰-۳۳ تحت قدم

وفد ثقیف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

قبیلہ بنی ثقیف میں عروۃ نامی اور الاسود نامی دو  
سوم۔ ادائیگی قرض | مقروض شخص تھے ان کے قرضہ کو اتارنے کے لیے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوسفیان کو منتخب فرمایا تاکہ وہاں سے مال  
لے کر ان دونوں کے قرض کو اتار دیں۔ پس حضرت ابوسفیانؓ نے حسب فرمان نبوی

ان کا قرض ادا کیا۔

— فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اباسفیان

ان یقضی دین عروۃ والاسود من مال الطاغیۃ فلما جمع

المغيرة مالها قال لابي سفيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم  
قد امرك ان تقضى عن عروة والاسود وبينهما فقصي عنهما

رسیرت ابن ہشام، ج ۲، ص ۵۲۲ تحت

امروند ثقیف واسلامہا

چهارم: تقسیم مال | ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مال  
ارسال فرمایا جو قریش مکہ میں تقسیم کرنا مقصود تھا۔ وہ  
حضرت ابوسفیان کی تحویل میں دیا گیا اور ان کے ذریعے قریش مکہ میں تقسیم ہوا یہ فتح  
مکہ کے بعد کا واقعہ ہے چنانچہ اس واقعہ کو عمرو بن فغواء نے مندرجہ ذیل الفاظ میں  
ذکر کیا ہے۔

”دعانی رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اراد ان

يبعثني بمال الى ابي سفيان يقسمه في قریش بمكة بعد الفقه

..... فبضينا حتى قد منا مكة فدفعت المال الى ابي

سفيان... الخ“

(۱) — طبقات ابن سعد، ص ۳۲-۳۳، ج ۴، قسم ثانی۔

طبع لیدن تحت عمرو بن فغواء۔

(۲) — السنن الکبریٰ للبیہقی، ج ۱۰، ص ۱۲۹۔ کتاب

آداب القاضی۔ باب الاحتیاط فی قرأۃ الکتاب

تنبیہ: حضرت ابوسفیان کے حق میں بہت سے مناقب و فضائل

حدیث و سیرت و تاریخ اسلامی کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں اور ان کے مجاہدانہ

کارنامے و ملی خدمات بہت کچھ دستیاب ہیں (ہم نے یہاں ان میں سے صرف چار عدد

ذکر کر دیئے ہیں) ان کی تمام دینی خدمات اور مساعی پر تعصب و در کر کے منصفانہ نظر

کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت موصوف کے خلاف جو کچھ مواد روایات میں دکھائی دیتا ہے (خواہ طبری میں ہو یا حسینی وغیرہ میں) وہ واقعے کے اعتبار سے صحیح نہیں اور فنی تجزیہ کی روشنی میں وہ مرویات عموماً سنداً مجروح و مقدوح ہیں۔ یا پھر وہ معروف روایات کے خلاف ہونے کی وجہ سے تلقاً منکر ہیں یا شاید یہ ان صورتوں سے خالی نہیں۔

— اور جن حضرات نے حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے کردار کو خراب کرنے اور ان کے دینی مقام کو گرانے والی مرویات کا ذکر کیا ہے انہوں نے نہ مقام صحابہ کا لحاظ کیا ہے نہ عظمت صحابہ کو ملحوظ رکھا ہے، نہ شان صحابہ کی رعایت کی ہے۔ بلکہ ان روایات کے حق میں فنی تجزیہ کرنے کی تکلیف ہی گوارا نہیں فرمائی تاکہ ان پر ان کا سقم واضح ہو سکتا اور درایت کے اعتبار سے اس مواد کا ملاحظہ ہی نہیں کیا کہ اس کا واقعات کے برخلاف ہونا معلوم ہو سکتا۔ قبائلی تعصب، خاندانی نفرت، نسلی امتیازات کے یہ کرشمے ہیں ورنہ ان چیزوں کو نقلاً و عقلاً بیاچ لینے سے کوئی بات مانع نہیں تھی۔

(بداہم اللہ تعالیٰ خیر الہدایہ و عافاہم عن العسبیتہ)

**سوم** — حضرت ابوسفیانؓ کے لڑکے زید بن ابی سفیان ہیں جو امیر معاویہؓ کے بڑے بھائی ہیں اور حضور علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار ہیں یعنی حضرت کے حرم محترم ام المومنین ام حبیبہ بنت ابی سفیانؓ کے برادر ہیں۔ اس صورت میں زید بن ابی سفیانؓ آپ کے برادر نسبتی ہوتے اور حضور علیہ السلام ان کے بہنوئی ہوئے۔ بڑی عمدہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لاتے تھے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوہ حنین میں شریک ہوئے اور ان کو آپؐ نے غزوہ حنین سے بہت سا مال عنایت فرمایا تھا۔

سیرت اور اسلامی تاریخ کے علماء نے ان کو "زید الخیر" کے نام سے یاد کیا ہے۔

(۱) — طبقات ابن سعد، ج ۷، ق ۲، ص ۱۲۷۔ تحت

ذکر یزید بن ابی سفیان اموی۔

(۲) — البدایہ، ج ۷، ص ۹۵۔ تذکرہ یزید بن ابی سفیان

تحت ۱۸ طبع اول۔

یزید بن ابی سفیانؓ کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لیاقت اور صلاحیت کی بنا پر اپنے عہد نبوت میں متعدد اعزاز بخشے اور کئی مناصب ان کو نصیب ہوئے مثلاً: (۱) — یزید بن ابی سفیانؓ کا شمار کاتبان وحی نبوت میں کیا گیا اور علمائے کاتبان وحی کا شمار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”..... ومعاویة بن ابی سفیان ای و اخو یزید... الخ“

(۱) جوامع السیرة لابن جریر، ص ۲۶ سیرت حلبیہ، ج ۳، ص ۳۶۴۔ باب ذکر

تحت کتابہ صلی اللہ علیہ وسلم المتأخیر من کتابہ صلی اللہ علیہ وسلم،

(۲) — حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید بن

ابی سفیان کو قبیلہ بنی فراس کے صدقات پر عامل و حاکم بنایا۔ وہ قبیلہ ان کے تہیال کا تھا۔

— یزید بن ابی سفیان صحر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس القرشی الاموی امیر

الشام و اخو الخلیفہ معاویہ کان من فضلاء الصحابة من مسلمة الفتح۔

و استعمله النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی صدقات بنی فراس

و كانوا احواله... الخ“

(۱) — الاصابہ مع الاستیعاب، ص ۶۱۹، ج ۳۔

تحت یزید بن ابی سفیانؓ۔

(۲) — اسد الغابہ، ص ۱۱۲، ج ۵۔ تحت یزید مذکور

(۳) — اور ابو جعفر بغدادی نے کتاب الحجرت میں لکھا ہے کہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید بن ابی سفیانؓ کو تیما کے علاقہ پر بھی امیر بنایا تھا۔

— ویزید بن ابی سفیانؓ (امیر) علی تیما... الخ

دکتاب الحجرت، ص ۱۲۶ - تحت امراء رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم

**چہارم** — حضرت ابوسفیانؓ کے لڑکے امیر معاویہؓ مشہور و معروف صحابی

ہیں اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ یعنی حضرت کے حرم محترم اُمّ المؤمنین اُمّ حبیبہ بنت ابی سفیانؓ کے بھائی ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہؓ بن ابی سفیانؓ کو آنجناب کے برادر نسبتی ہونے کا شرف حاصل ہے اور دوسری بیبات ہے کہ حضرت امیر معاویہؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں یعنی اُمّ المؤمنین اُمّ سلمہؓ کی بہن قریۃ الصغریٰ امیر معاویہؓ کے نکاح میں تھیں جیسا کہ قبل ازیں بحث ثانی میں نبی روابط کے تحت تفصیلاً ذکر کیا جا چکا ہے۔

(۱) — نسب قریش لمصعب الزبیری، ص ۱۲۲-۱۲۳۔

تحت ولد ابی سفیان بن حرب۔

(۲) — کتاب الحجرت، ص ۱۰۲۔ طبع حیدرآباد دکن۔

(۱) — امیر معاویہؓ کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کے عہدہ پر فائز فرمایا ہوا تھا۔ دیگر کاتبان وحی کے ساتھ ان کا شمار تھا، جیسا کہ علماء سیرت نگار نے ذکر کیا ہے۔

البتہ علامہ ابن حزم اور علی بن برہان الدین الحلبی وغیرہما نے مزید تصریح کر دی ہے کہ یزید بن ثابت انصاریؓ اور رفیع مکہ کے بعد، امیر معاویہؓ آنحضرت رسالتناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کتابت کے لیے حاضر باش خادم تھے۔ چاہے

وحی کی کتابت ہونے کا خواہ غیر وحی کی ہو۔

”... وكان زيد بن ثابت من الزم الناس لذلك ثم تلاه معاوية بعد الفتح فكانا ملازمين للكتابة بين يديه صلى الله عليه وسلم في الوحي وغير ذلك لا عمل لهما غير ذلك۔

۱۔ جوامع السيرة لابن حزم الاندلسي، ص ۲۷۔

تحت كتابه صلى الله عليه وسلم۔

۲۔ سيرة الحلبي، ج ۳۔ ۳۶۴۔ باب ذكر المشاهير

من كتابه صلى الله عليه وسلم۔

(۲)۔ عہد نبوی میں بعض اوقات حضرت امیر معاویہؓ کو نبی اقدس صلی اللہ

علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو قطعہ اراضی دینے کے لیے بھی روانہ فرمایا تھا۔ چنانچہ

وائل بن حجر کو حضرت امیر معاویہؓ کے ذریعے زمین عنایت فرمائی گئی تھی قبل ازیں

یہ واقعہ بحث اول کے عنوان ”الشام“ کی ابتدا میں ذکر کیا جا چکا ہے۔

(۱)۔ تاریخ کبیر امام بخاری، ص ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ جلد ۱

القسم الثاني۔ تحت وائل بن حجر۔

(۲)۔ اسد الغابہ، ج ۵۔ ص ۸۱۔ تحت وائل بن حجر۔

(۳)۔ الاصابہ، ج ۳، ص ۵۹۲۔ ذکر وائل بن حجر۔

حضور علیہ السلام کے قریبی رشتہ داران (جو بنی امیہ سے ہیں) کے چند مناصد

ہم نے ذکر کیے ہیں جو ان کو عہد نبوت میں دیتے گئے۔ اب ذیل میں وہ چند عہدے

ذکر کیے جاتے ہیں جو بنی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داران بنی ہاشم کو

عنایت فرماتے تھے۔

## دور نبوی میں نبی ہاشم کے عہدہ جات

(۱) - نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار کو غزوہ موتہ ۳ھ میں امیر لشکر بنا کر بھیجا تھا۔ ان کے ساتھ عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارثہ کو بھی یکے بعد دیگرے امیر مقرر فرمایا تھا۔

(۲) - سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے آخری ایام ۶ھ میں جس موقعہ پر فتح خیبر ہوئی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کو امیر لشکر مقرر کر کے روانہ فرمایا۔

(۳) - نیز حضرت علی المرتضیٰ کو یمن کے علاقہ پرستہ میں ایک فوجی حاکم تجویز فرما کر ارسال کیا تھا۔

(۴) - غزوہ تبوک ۹ھ کے موقعہ پر جب آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہذا میں تشریف لے گئے تو حضرت علی المرتضیٰ کو وقتی طور پر خانگی امور کے لیے مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا تھا۔

یہ واقعات چونکہ سیرت طیبہ اور اسلامی تاریخ کے مشہور اور مسلمات میں ہیں اس بنا پر حوالہ جات درج کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی اور مضمون میں طوالت سے اجتناب کرنا بھی خصوصاً مطلوب ہے۔

مندرجات بالا کے ذریعے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے دور مبارک میں آنجناب نے اپنے بنی امیہ رشتہ داروں اور بنی ہاشم اقربا کو موقعہ بہ موقعہ عہدے اور مناصب عنایت فرماتے۔ مذکورہ بالا تمام واقعات میں یہ تعامل اور کارکردگی

مسئلہ ہذا کو واضح کرتی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان نے بعض اقربا کو مناصب وہی کے سلسلہ میں کوئی جدید طرز اختیار نہیں کیا بلکہ اس مسئلہ میں حضرت عثمان کا طرز عمل نبوی طریقہ کے مطابق تھا۔ نیز واضح ہوا کہ اس مسئلہ میں حضرت عثمان سے کوئی غلطی سرزد

نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ان کا یہ کام شرعاً و اخلاقاً و سیاستاً غلط تھا اور امام المزیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد (حضرت عثمان) کو مسئلہ ہذا میں غلط کار و خطا کا قرار دینے سے یہ زیادہ سہل ہے کہ انہیں غلط کہنے والوں کو غلط کار اور خطا وار تصور کیا جائے۔

## عہد فاروقی میں اقتربانوازی

(۱) - حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنے قریبی رشتہ دار قدامتہ بن مظعون کو بحرین کا والی و حاکم بنایا تھا۔

حضرت عمر کی لڑکی حفصہ (جو اہم المومنین ہیں) اور ان کے لڑکے عبداللہ بن عمر کے ماموں تھے۔

» ..... ان عمر بن الخطاب استعمل قدامته بن  
مظعون علی البحرین وهو حال حفصة وعبد اللہ بن عمرؓ

۱۔ المصنف لعبد الرزاق جز ۹ ص ۲۴۰-۲۴۱۔

باب من حد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم

۲۔ تاریخ خلیفہ ابن خیاط ج ۱ ص ۱۸۵ تحت تسمیہ عمال عمر بن الخطاب۔

(۲)۔ حضرت عمرؓ کے قبیلہ بنی عدی سے ایک بزرگ النعمان بن عدی ہیں وہ

حبشہ کے مہاجرین میں سے تھے۔ ان کو حضرت عمرؓ نے ميسان کے علاقہ کا والی  
بنایا تھا۔ اگرچہ بعد میں اس منصب سے الگ کر دیا گیا۔

۔ وانه من مهاجرة الحبشة وولى عمر النعمان هذا ميسان۔

(الاصابة لابن حجر ج ۳ ص ۵۳۲ تحت حرف النون (النعمان بن عدی))

### عہدِ مرتضوی میں خویش نوازی

اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے دورِ خلافت میں تقریباً چھ عدویا اس سے زیادہ

اپنے رشتہ داروں کو اعلیٰ مناصب دیئے اور مختلف مقامات پر ان کو والی و حاکم بنایا۔

اول۔ عبید اللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم۔

حضرت علیؓ نے اپنے چچا زاد برادر (عبید اللہ) کو یمن کے علاقے کا والی بنایا۔

۳۶ھ اور ۳۷ھ میں ان کو حج کا امیر بھی مقرر کیا۔

(الیمین) ..... واستعمله علی بن ابی طالب علی الیمین وامرؤ

فحج بالناس سنة ۳۶ وسنة ۳۷ ومات عبید اللہ بالمدينة۔

(۱)۔ تاریخ خلیفہ ابن خیاط، ج ۱ ص ۱۸۴-۱۸۵ تحت

تسمیة عمال علی بن ابی طالب۔

(۲)۔ کتاب نسب قریش لمصعب الزبیری، ص ۲، تحت

ولد العباس بن عبد المطلب۔



۳ — الاصابہ، ج ۲، ص ۳۳، تحت عبید اللہ

بن عباس -

دوم — قثم بن العباس بن عبد المطلب :-  
حضرت علیؑ نے اپنے چچا زاد بھائی قثم بن العباس کو مکہ شریف اور  
طائف کا والی بنایا۔

رکتہ مکرمہ) . . . . . وولی قثم بن العباس فله یزل علیہا مکة،  
والیاً حتی قُتِلَ عَلِیٌّ ؑ“

(تاریخ خلیفہ ابن خیاط، ج ۱، ص ۱۸۵، تحت تسمیۃ

عمال علی بن ابی طالب)

” . . . . . وکان علی مکة والطائف قثم بن العباس“

(تاریخ ابن جریر طبری، ج ۶، ص ۵۳، در آخر ۳۷۷ھ)

اور اسی سال ۳۷۷ھ میں قثم بن العباس نے حضرت علیؑ کی طرف سے لوگوں  
کو حج کرایا اور وہ ان دنوں حضرت علیؑ کی طرف سے مکہ شریف کے حاکم تھے“

رکتہ مکرمہ) . . . . . و حج بالناس فی هذا السنة ۳۷۷ھ

قثم بن العباس من قبل علیؑ علیہ السلام . . . . . وکان قثم

یومئذ عامل علیؑ علی مکة . . . الخ“

(تاریخ ابن جریر طبری، ج ۶، ص ۷۷، در آخر سن

۳۷۷ھ)

— مزید یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰؑ اپنے چچا زاد

برادر معبد بن العباس بن عبد المطلب کو بھی مکہ شریف کا والی بنایا تھا۔ چنانچہ دارقطنی

کی کتاب الاخوة کے حوالہ سے درج ہے کہ :-

”..... و ذکر الدارقطنی فی کتاب الاخوة

ان علیاً ولّاه مکة“

رالاصابہ لابن حجر، ج ۳، ص ۲۵۷۔ تحت

معبد بن العباس بن عبد المطلب ۸۳۳

مندرجات بالا کے ذریعہ واضح ہوا کہ مکہ شریف پر حضرت علیؑ کی

طرف سے متعدد والی یکے بعد دیگرے مقرر ہوئے۔ ان میں قثم بن العباس اور  
معبد بن العباس دونوں ہاشمی حضرات تھے اور چچا زاد برادر تھے۔

سوم — تمام بن العباس بن عبد المطلب :-

حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے ایام خلافت میں مدینہ شریف پر پہلے سہل بن حنیف

کو والی بنایا۔ اس کے بعد ان کو معزول کر کے اپنے چچا زاد برادر تمام بن العباس کو

مدینہ کا والی بنایا۔ بعض لوگ اسی کو تمام بن العباس بن عبد المطلب کے نام سے  
بھی تعبیر کرتے ہیں۔

(المدینة الطيبة)..... ثم عدله (سهل بن حنیف) ولی

تمام بن العباس“

۱۔ تاریخ خلیفہ ابن خیاط، ج ۱، ص ۱۸۵۔ تحت تسمیہ

عمال علی بن ابی طالب

۲۔ تاریخ ابن جریر طبری، ج ۶، ص ۵۳۔ در آخر ۳۷

چہارم — عبداللہ بن العباس بن عبد المطلب :-

حضرت علی المرتضیٰ نے بصرہ کے علاقہ پر اپنے چچا زاد برادر عبداللہ بن العباس

کو والی و حاکم بنایا۔ جب ابن عباس باہر کہیں تشریف لے جاتے تو زیاد کو اپنا قائم

مقام بناتے۔

(البصرة) . . . . . وولی عبد الله بن العباس فثخص ابن عباس  
واستخلف زیاداً

(تاریخ خلیفہ ابن خیاط، ج ۱، ص ۱۸۶ - تحت تسمیہ عمال  
علی بن ابی طالب -

” . . . . . وكان علی البصرة عبد الله بن العباس . . الخ  
(تاریخ ابن جریر طبری، ج ۶، ص ۵۳ - در آخر ۳۷ھ)

پنجم — محمد بن ابی بکر :-

حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے متبنی محمد بن ابی بکر (جو کہ آپ کی بیوی اسماء بنت عیس  
سے حضرت ابوبکرؓ کا لڑکا تھا) کو مصر کا والی بنایا۔ پھر وہ وہاں قتل کر دیا گیا۔  
(مصر) . . . . . فولی محمد بن ابی بکر فقتل بها . . . . .“

۱ - تاریخ خلیفہ ابن خیاط، ج ۱، ص ۱۸۶ - تحت  
تسمیہ عمال علی بن ابی طالب -

۲ - تاریخ ابن جریر طبری، ج ۶، ص ۵۳ - در آخر  
سنہ ۳۷ھ -

## ایک تائیدی حوالہ

علامہ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ، جلد ثالث میں مذکورہ بالا ہر پانچ اقارب  
مرتضوی کو یکجا ذکر کیا ہے اور اس مقام میں یہی مضمون مذکور ہے کہ حضرت علی المرتضیٰؑ  
نے ان پانچ قریبی رشتہ داروں کو ان کلیدی اسمیوں پر اپنے دورِ خلافت میں  
متعین فرمایا۔ اہل علم کی تسلی کے لیے بعینہ عبارت درج کی جاتی ہے -  
” . . . . . ومعلوم ان علیاً ولی اقاربه من قبل ابیه و امته

كعبدا لله وعبيدا لله ابني عباس فولى عبيدا لله بن عباس على  
اليمن وولى على مكة والطائف قثم بن العباس واما المدينة  
فقيل انه ولى عليها سهل بن حنيف وقيل ثمامة العباس و  
اما البصرة فولى عليها عبد الله العباس وولى على مصر ربيعة  
محمد بن ابى بكر الذى رباها فى حجره -

(منهاج السنة، ج ۳، ص ۳، تحت جرابات

مطاعن عثمانى)

نشتم — مذکورہ پانچ عزیزوں کے علاوہ ایک اور رشتہ دار یعنی  
حضرت علیؑ کا خواہر زادہ (جعدہ بن ہبیرہ بن ابی وہب القرشى المخزومی جس کی ماں کا نام  
ام ہانی بنت ابی طالب ہے) کو حضرت علی المرتضیٰ نے خراسان کے علاقہ کا والی بنایا۔

۱۔ "..... بعث علی بعد ما رجع من صفین جعدۃ بن ہبیرۃ

المخزومی وام جعدۃ ام ہانی بنت ابی طالب الی خراسان فانتهی

الی ابرشہر"

(تاریخ ابن جریر طبری، ص ۵۳ - ج ۶ - آخر ۳۷ھ)

۲۔ "..... وولى خراسان لعلی الخ"

۱۔ الاصابہ، ج ۱، ص ۲۳۸ - تحت حرف الجیم ۱۱۶۱

(جعدہ بن ہبیرہ)

۲۔ الاصابہ، ج ۱، ص ۲۵۸ - تحت القسم الثانی ۱۲۶۵

(جعدہ بن ہبیرہ)

## تائیدی حوالہ جات

(شیعہ کتب سے)

حضرت علیؑ کے دور کے حکام اور ولایت (جو حضرت علیؑ کے قریبی رشتہ دار ہیں) کا مختصر سا خاکہ ناظرین کے سامنے پیش کیا گیا ہے جس میں تقریباً سات عدد اقرباء مذکور ہوئے ہیں یعنی عبید اللہ بن عباس، قثم بن عباس، معبد بن عباس، تمام بن عباس، عبید اللہ بن عباس، محمد بن ابی بکر اور جعدہ بن ہبیرہ۔

اب اس مسئلہ کی تائید میں شیعہ مورخین کی طرف سے ایک دو حوالے پیش خدمت ہیں۔ قدیم شیعہ مورخ یعقوبی لکھتے ہیں کہ حضرت علیؑ المرتضیٰ نے عثمان بن عفان کے حکام کو ابو موسیٰ اشعری کے بغیر شہروں اور علاقہ جات سے معزول کر دیا اور اپنے چچا زاد برادر قثم بن عباس کو مکہ کا والی بنایا اور عبید اللہ بن عباس کو یمن کا والی بنایا۔

— وعزل علی عمال عثمان عن البلدان خلا ابی موسیٰ الاشعری  
کلمہ فیہ الاشترا فاقدرہ وولی قثم بن العباس مکة وعبید اللہ

بن العباس الیمن“

(تاریخ یعقوبی دا احمد بن ابی یعقوب بن جعفر الکاتب  
العباسی المعروف بیعقوبی ۲۵۹ء) ج ۲، ص ۱۷۹ -  
تحت خلافت امیر المؤمنین علی علیہ السلام۔ جدید طبع بیروت

— وکتب ابوالاسود الدثلی وكان خلیفة عبد اللہ بن

العباس بالبصرة الی علیؑ الخ

(تاریخ یعقوبی، ج ۳، ص ۲۰۵۔ تحت خلافت

امیر المؤمنین علیہ السلام۔ طبع جدید بیروت)

مندرجات بالا کے ذریعے واضح ہو گیا کہ مرتضوی دورِ خلافت میں حضرت علیؑ کے قریبی رشتہ دار کلیدی اسامیوں پر مقرر تھے اور اعلیٰ مناصب پر فائز تھے۔ اگر یہی چیز اقربانوازی سے تعبیر کی جاتی ہے جس کو عثمانی دور کے مقررین اجاب حضرت عثمانؓ پر بطور طعن تجویز کرتے تھے۔ تو یہ حضرت علیؑ کے دور میں واضح طور پر پائی جاتی ہے۔ یہ اس دور کا مسلمہ مسئلہ ہے۔

ہماری رائے میں یہ حضرت عثمانؓ پر کوئی طعن نہیں تھا جس کو طعن تصور کر لیا گیا، بلکہ ایک وقتی مسامت اور مقامی ضرورت تھی جو حضرت عثمانؓ نے اختیار فرمائی تھی۔ جیسا کہ حضرت علیؑ کے دور پر ہم اقربانوازی کے مسئلہ میں اعتراض نہیں کرتے بلکہ اس چیز کو اس دور کے وقتی تقاضوں پر محمول کرتے ہیں۔

اس طریقہ سے ان دونوں بزرگوں کا احترام بھی ملحوظ رہتا ہے اور تاریخی واقعات کا صحیح محمل بھی قائم ہو جاتا ہے۔

اور اگر بات کو خواہ مخواہ طول دینا مطلوب ہو اور جا بجا طعن کھڑے کرنے ہوں تو پہلے دورِ نبوی کو ملاحظہ کیجیے۔ پھر دورِ فاروقی کو دیکھیے۔ پھر مرتضوی دور کو جانچیے۔ اس کے بعد عثمانی دور کو سامنے رکھیے۔

— مذکورہ سب ادوار میں اقربانوازی کی گئی ہے اور قریبی رشتہ داروں کو مناصب دیے جاتی رہی ہے۔ پھر صرف حضرت عثمانؓ کے دور کو ہی کیوں موردِ طعن تجویز کیا جاتا ہے۔

## ایک عذر اور اس کا جواب

حضرت عثمانؓ کے دور پر اقربانوازی کا اعتراض قائم کرنے والوں کی طرف سے یہ بھی عذر لنگ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت علیؑ اپنے دورِ خلافت میں اقربانوازی کو

حاکم و والی بنانے میں مجبور ہو گئے تھے بعض باصلاحیت صحابہ کرام معتزل ہو گئے تھے بعض فوت ہو چکے تھے اور کچھ حضرات تعاون نہیں کر رہے تھے اور کچھ حضرات فرقی متقابل سے منتفق ہو گئے تھے۔ اس قسم کی مجبور یوں کی وجہ سے حضرت علیؑ نے اپنے چچا زاد برادران کو کلیدی اسامیوں پر متعین کیا۔

اس شبہ کے ازالہ کے لیے مختصراً اتنا بیان کر دینا کافی ہے کہ مذکورہ بالا معذرت واقعات کے خلاف ہے اس لیے کہ صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد حضرت علی المرتضیٰ کے علاوہ خلافت میں موجود تھی اور حضرت علیؑ کے خلاف نہ تھی۔ اگر ان سے استفادہ کیا جاتا تو حکومت کے امور میں حصہ لینے کی صلاحیت کھتی تھی۔ اتنی بالباقت کثیر تعداد صحابہ کی موجودگی میں اپنے اقرباء کی طرف مجبور ہونے کا تخیل محض خوش فہمی ہے اور غدر لنگ ہے۔

جو صحابہ کرام مرتضوی حلقہ خلافت میں مقیم تھے ان میں سے بعض حضرات کی ایک

مختصر سی فہرست ناظرین کرام کے ملاحظہ کے لیے پیش خدمت ہے مثلاً

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| (۱) عبدالرحمن بن ابی بکرؓ | (۲) انس بن مالکؓ                 |
| (۳) زید بن ارقمؓ          | (۴) حکیم بن حزامؓ                |
| (۵) ابو ہریرہؓ            | (۶) سعید بن زیدؓ                 |
| (۷) معقل بن یسارؓ         | (۸) عمران بن حصینؓ               |
| (۹) جبیر بن مطعمؓ         | (۱۰) ابو مخزومہؓ (مؤذن نبوی)     |
| (۱۱) عمرو بن حزم انصاریؓ  | (۱۲) ابو طیب بن عبدالعزیٰ، وغیرہ |
| (۱۳) عثمان بن ابی العاصؓ  |                                  |
| (۱۵) کرز بن علقمہؓ        |                                  |

(ملاحظہ ہو: اسد الغابہ - دول الاسلام للذہبی - الاصابہ معہ الاستیعاب)

مطلب یہ ہوا کہ اس قسم کے صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد یقیناً موجود تھی جن کو حکومت کے مسائل میں منصب دیا جاسکتا تھا۔ اقرباء کی طرف رجوع کرنے کی ہرگز مجبوری نہ تھی۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت علیؑ نے جس طرح وقتی تقاضوں کے تحت اقرباء کو شامل حکومت کیا تھا، ٹھیک اسی طرح حضرت عثمانؓ نے بھی عصری تقاضوں کے پیش نظر بعض اقرباء کو منصب عطا فرمائے تھے۔ یہ دونوں دور اس مسئلہ میں قابل طعن اور لائق اعتراض نہیں ہیں لیکن حضرت علی المرتضیٰؑ کے دور کو اقرباء نوازی کے طعن سے بچانا اور حضرت عثمانؓ کے دور کو اس میں ملوث و مطعون کرنا خالص جانبداری اور گروہی تعصب ہے جس سے قبائلی عصبیت نمایاں ہوتی ہے اور قوم میں باہمی منافرت و اختلاف کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ اس سے اہل اسلام کو بچانے کی ضرورت ہے۔

یہاں پر بحث ثالث ختم ہوتی ہے۔



# بحث اربع

## اقربا بر کے لیے مالی عطیات

گذشتہ بحثوں میں حضرت سیدنا عثمانؓ کے اقربا بر کے لیے مناصب دہی کا تذکرہ کیا گیا۔ اب اس بحث اربع میں حضرت عثمانؓ کے خویش و اقارب کے لیے مالی عطیات کا ذکر کرنا مقصود ہے۔

— حضرت عثمانؓ کے دور پر اعتراض کرنے والے احباب نے اس مسئلہ میں بھی عمدہ طریقہ سے اعتراضات قائم کیے ہیں اور لکھا ہے کہ حضرت عثمانؓ نے اپنے رشتہ داروں کو بیت المال سے ناجائز طریقہ سے مالی عطیات دے دیئے اور بیت المال کے اموال کی غلط تقسیم کر دی اور بے جا طریقہ سے اپنے اقارب کو اموال عنایت کر دیئے جس کی وجہ سے لوگوں میں نفرت کے آثار پیدا ہوئے۔ وغیرہ۔

ابن مطہر الحلی اشعری فرماتے ہیں :-

”..... وكان يؤثر اهله بالاموال الكثيرة من بيت

مال المسلمين..... الخ“

(منہاج الکرامتہ فی معرفۃ الامامہ لابن المطہر الحلی اشعری  
الرافضی (المنتونی ۶۶۷ھ) ص ۶۷۔ تحت مطاعن عثمانی  
مطبوعہ در آخر منہاج السنۃ جلد چہارم۔ طبع جدید لاہور)

یعنی اپنے رشتہ داروں کو حضرت عثمانؓ مسلمانوں کے مال سے اموال کثیرہ دے دیتے تھے۔

معرض دوستوں نے حضرت عثمانؓ کے متعلق یہ پروپیگنڈا نہایت سلیقہ سے کیا ہے کہ ان کے نزدیک یہ صلہ رحمی کا تقاضا تھا، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ

(۱) — حضرت عثمانؓ کہا کرتے تھے کہ شیخینؓ نے اپنا مالی حق بیت المال کے اموال سے ترک کر دیا تھا اور میں نے اسے لے کر اپنے اقارب میں تقسیم کیا۔

(۲) — حضرت عثمانؓ فرماتے تھے کہ شیخینؓ اس مال کے معاملہ میں اپنے نفسوں کو اور اپنے اقارب کو روکتے اور باز رکھتے تھے اور میں نے اس معاملہ میں صلہ رحمی کی تاویل کی ہے۔

(۳) — حضرت عثمانؓ فرماتے تھے کہ شیخینؓ اپنے قرابت داروں کو اموال کے روکنے کے مسئلہ میں ثواب حاصل کرتے تھے اور میں اپنے قرابت داروں کو یہ مال دے کر ثواب حاصل کرتا ہوں۔

مندرجہ ذیل نوع کی روایات سے اعتراضات مستنبط کیے گئے ہیں۔

(۱) — محمد بن عمر (الواقفی) - محمد بن عبد اللہ - عن الزہری

قال لما ولي عثمان . . . . . واعطى اقرباءه المال وتناول في

ذلك الصلة التي امر الله بها واتخذ الاموال واستسلف

من بيت المال وقال ان ابا بكر وعمر من بيت المال تركا

من ذلك ما هولهما واني اخذته فقسمته في اقربائي

فانكر الناس عليه ذلك

- (۱) طبقات ابن سعد، ص ۲۲، ج ۳۔ ذکر سبغیہ عثمانؓ۔ طبع لیبون  
 (۲) انساب الاشراف للبلاذری، ج ۵، ص ۲۵۔ تحت ما انکروا من سیر عثمانؓ  
 (۳) نیز یہاں حضرت عثمانؓ کا ایک قول ذکر کیا جاتا ہے جو ان روایات کا ہم مفہوم و ہم مضمون ہے۔  
 البسور بن محزمہ نے نقل کیا ہے۔ اس کا راوی بھی واقفی صاحب ہے۔

- (۱) طبقات ابن سعد، ص ۲۲۔ جلد ثالث ذکر سبغیہ عثمانؓ۔  
 (۲) انساب الاشراف، ص ۲۵۔ ج ۵۔ ذکر ما انکروا من سیر عثمانؓ  
 (۳) وقال ابو مخنف والواقفی فی روایتہما انکوالناس علی  
 عثمان..... فقال ان له قرابۃ ورحمًا قالوا افضما کان لابی  
 بکر وعمر قرابۃ وذو رحمیم؟ فقال ان ابا بکر وعمر کانایحسبان  
 فی منع قرابۃہما وانا احتسب فی اعطاء قرابۃتی... الخ

انساب الاشراف للبلاذری، ج ۵، ص ۲۸۔

تحت ذکر ما انکروا من سیر عثمانؓ

مندرجہ بالا قسم کی روایات کے پیش نظر متعرض لوگوں نے حضرت عثمانؓ پر مذکورہ  
 بالا اعتراضات قائم کیے تھے۔ یہ چند روایات بطور نمونہ کے ہم نے باسند ذکر کر دی  
 ہیں۔ اہل علم حضرات ان پر نظر ڈالنے سے خوب سمجھ گئے ہونگے کہ ان کا پایہ اعتقاد کیا ہے؟  
 عام ناظرین کی خدمت میں ہم یہ وضاحت عرض کرتے ہیں کہ اس قسم کی روایات  
 جن پر اس طعن کی مدار ہے، وہ واقفی اور ابو مخنف جیسے ظالم راویوں کی مرہون منت  
 ہیں اور یہ لوگ فن روایت میں کذاب اور دروغ گو ہیں اور صحابہ کرامؓ کے خلاف  
 اس قسم کی روایات کا نشر کرنا ان کا فطری شیوہ ہے اور علماء کے نزدیک لوگ متروک ہیں۔

امیران الاعتدال ذہبی اور تہذیب التہذیب عسقلانی ملاحظہ ہوں

لہذا مذکورہ بالا اعتراضات نرت عثمانؓ پر تصنیف شدہ روایات سے تجویز کئے

گتے ہیں اور بالکل بے سُرپا ہیں ان کی کچھ اصلیت نہیں ہے۔

## تنبیہ

مندرجہ بالا روایات طعن ہذا کے لیے بطور ضابطہ اور قاعدہ کے مقروض پیش کرتے ہیں۔ اجمالاً ان پر نقلاً کلام کر دیا ہے اور ان پر عقلاً کلام عنقریب ذکر کیا جائے گا قلیل سا انتظار فرماویں۔

— اور جن روایات میں حضرت عثمانؓ کے رشتہ داروں کے صریحاً نام لے کر مالی عطیات کا ذکر کیا گیا ہے اب ان کو ایک ترتیب سے ہم ناظرین کرام کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ان پر روایت و درایت کلام کیا جائے گا تاکہ ناظرین باتملکین پر اس طعن کی حقیقت آشکارا ہو سکے اور معلوم ہو جائے کہ یہ بناء الفاسد علی الفاسد ہے اور حضرت عثمانؓ نے اس معاملہ میں کوئی غلط اقدام نہیں کیا۔ اور آئین شرعی کے خلاف ہرگز نہیں کیا تھا۔

پہلے قابل اعتراض روایات پیش کی جاتی ہیں اس کے بعد ان پر بقدر ضرورت بحث کی جائے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

## عثمانی رشتہ داروں کے حق میں

### مالی عطیات کی روایات

مقروضین حضرت عثمانؓ کے رشتہ داروں دہنہیں مالی عطیات دیتے گئے تھے کی ایک فہرست پیش کیا کرتے ہیں ہم یہاں چند رشتہ داروں کی تعداد اور ان کو عطا شدہ اموال کی قلیل سی تفصیل درج کرتے ہیں جس سے اصل مسئلہ کی نوعیت خوب معلوم ہو جائے گی۔

(۱) — بلاذری نے اپنی مشہور کتاب  
 ”انساب الاشراف“ میں یہ واقعہ

## مروان بن الحکم اور آل الحکم کے لیے

عبداللہ بن الزبیر کی زبانی ذکر کیا ہے کہ :-

”حضرت عثمانؓ نے ہم کو ۲۷ھ میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کی ماتحتی  
 میں افریقیہ فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ عبداللہ بن سعد کو بہت سا مال غنیمت  
 حاصل ہوا۔ حضرت عثمانؓ نے غنائم کا خمس (یعنی پانچواں حصہ) مروان بن الحکم  
 کو عطا فرما دیا۔“

”..... عن الواقدي عن أسامة بن زيد بن اسلم عن نافع

مولى الزبير عن عبد الله بن الزبير..... فاعطى عثمان مروان

بن الحكم خمس الغنائم..... الخ“

انساب الاشراف للبلاذری، ج ۵، ص ۲۷-تحت

ذکر ما انکروا من سیرة عثمانؓ

(۲) — بلاذری نے دوسری روایت ام بکر بنت المسور بن المخزومہ کے ذریعے ذکر

کی ہے۔ اس نے اپنے والد المسور سے نقل کیا ہے کہ المسور اور مروان کی ایک

معاملہ میں باہمی گفتگو ہوئی تو المسور نے بطور طعن مروان کو کہا کہ حضرت عثمانؓ نے

تمہیں افریقیہ کا خمس عطا کر دیا۔

”..... عن الواقدي عن عبد الله بن جعفر عن أم بكر

بنت المسود..... فاعطاك ابن عفان خمس افریقیة... الخ“

انساب الاشراف للبلاذری، ج ۵، ص ۲۸

تحت ذکر ما انکروا من سیرة عثمانؓ

(۳) — اس مسئلہ میں بلاذری کی تیسری روایت میں یوں مذکور ہے کہ :-

”عبداللہ بن سعد بن ابی سرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا رضاعی بھائی تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے افریقیہ پر اس کو حاکم بنایا۔ ۲۷ھ میں اس نے افریقیہ کو فتح کیا۔ مروان بن الحکم اس کے ساتھ تھا۔ افریقیہ کی غنیمت کے خمس کو مروان نے ایک لاکھ دینار سے خریدا اور دوسرے قول کے مطابق دو لاکھ دینار سے خمس خریدا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی پس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ تمام رقم مروان کو بخش دی۔ اس بات کی وجہ سے لوگ سیدنا عثمان کو ناپسند جاننے لگے۔“

”..... عن لوط بن يحيى ابى مخنف عن ..... حدثه

قال كان عبد الله بن سعد بن ابى سرح اخا عثمان من الرضاة وعامله على المغرب فغذا ا فريقيه سنة سبع وعشرين فافتحا وكان معه مروان بن الحكم فاتباع خمس الغنيمه بمائة الف او مائتي الف دينار فكلهم عثمان فوهبها له فانكوا الناس ذالك على عثمان“

انساب الاشراف للبلاذري، ج ۵، ص ۲۸۔

تحت ذكر ما انكروا من سيرة عثمان

(۴) — اور تاریخ طبری میں مروان اور آل الحکم کو افریقیہ کے مال سے مالِ کثیر

عطا کرنے کا واقعہ واقدی کے ذریعے مندرجہ ذیل عبارت میں منقول ہے :-

”..... قال الواقدي ..... وكان الذي صالحهم عليه

عبد الله بن سعد ثلثمائة قنطار ذهب فامر بها عثمان لآل الحكم

قلت اولمروان قال لا ادري“

تاریخ الطبری، ج ۵، ص ۵۰ تحت سنہ ۲۷ھ

ذکر الجبر عن فتحها وعن سبب ولائته عبد اللہ بن سعد

مصر وعزل عثمان عمرو بن العاص - طبع قدیم مصری،

اور اسی واقعہ کو البدایہ میں ابن کثیر نے تھوڑے سے تغیر الفاظ کے ساتھ

واقعی کے ذریعے اس طرح ذکر کیا ہے کہ جتنے اموال کثیرہ پر اہل افریقیہ کے ساتھ

عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح نے صلح کی تھی۔ وہ سب اموال حضرت عثمانؓ نے ایک

ہی یوم میں آل الحکم کے لیے یا بقول دیگر آل مروان کے لیے دے دیتے :-

— قال الواقدي وصالحه بطريقها على الف دينار

وعشرين الف دينار فاطلقها كلها عثمان في يوم واحد لآل

الحكم ويقال لآل مروان —

(البدایہ لابن کثیر، ج ۷، ص ۱۵۲، تحت عنوان

ثم دخلت سنة سبع وعشرين (س ۲۷) غزوة افریقیہ)

— طبری اور ابن کثیر کی ان ہر دو مندرجہ روایات میں تصریح موجود ہے

کہ جس مال پر اہل افریقیہ سے عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح کی صلح ہوئی تھی راگرچہ اس

مال کی مقدار میں مختلف عبارات ہیں، ان اموال کثیرہ کو حضرت عثمانؓ نے آل الحکم

یا آل مروان کو عنایت فرمایا تھا۔

ہر دو کتب بالا میں یہ مسئلہ (قال الواقدي) یعنی "واقعی نے فرمایا" سے

مذکور و منقول ہے۔

اس گزارش کو ناظرین ملحوظ رکھیں۔ عنقریب تفصیلات آرہی ہیں۔

(۵) — سیدنا حضرت عثمانؓ کے متعلق مروان بن الحکم کو مال دینے کی

روایت معترض لوگ طبقات ابن سعد سے بھی نقل کیا کرتے ہیں۔ اس میں

مذکور ہے کہ :-

”حضرت عثمانؓ نے اپنے اقرباء اور اہل بیت کو عامل و حاکم بنایا اور مروان بن الحکم کے لیے مصر کے خمس عطا کرنے کا آرڈر لکھ دیا۔“  
 — اخبارنا محمد بن عمرو (الواقدی) حدیثی محمد بن عبد اللہ عن الزہری قال . . . . . واستعمل اقرباءہ و اهل بیتہ . . . . . وکتب لمروان بخمس مصر و اعطا اقرباءہ المال . . . الخ“

طبقات لابن سعد، ج ۳، ص ۴۴ تحت  
 ذکر بیعتہ عثمانؓ، طبع لیدن

یہ بھی بابا واقدی صاحب کی روایت ہے۔

یہی روایت جو طبقات ابن سعد میں اس مقام میں مذکور ہے یہ بعینہ  
 انساب الاشراف بلاذری، جلد ۵، ص ۲۵ پر تحت ما انکروا من سیرة عثمانؓ  
 و امرہ درج ہے۔ وہاں یہ الفاظ ہیں:-

”وکتب لمروان بن الحکم بخمس افریقیة و اعطی

اقاربة المال“

بلاذری کی یہ روایت بھی ”عن الواقدی“ سے شروع ہے مطلب یہ ہے کہ  
 طبقات ابن سعد اور انساب الاشراف بلاذری میں یہ روایت واقدی کے ذریعے  
 ہی منقول ہے۔ ایک جگہ اس نے مصر کے خمس کا مال دینا درج فرما دیا ہے اور  
 دوسری کتاب میں خمس افریقیہ کا مال عطا کرنا اس نے نقل کر دیا ہے یہ صریح تضاد  
 بیانی ہے، حالانکہ مصر تو ان واقعات سے بہت پہلے ۲۰ھ اور ۱۲ھ یعنی فارسی  
 دور میں مفتوح ہو چکا تھا۔ اب اس عثمانی دور میں ان اموال مصر سے خمس نکلنے کا  
 کوئی جواز نہیں ہے۔



(۶) — مزید ایک اور روایت بلاذری نے ذکر کی ہے کہ حضرت عثمانؓ کے پاس صدقہ کے اونٹ پہنچے تو حضرت عثمانؓ نے وہ سب اونٹ اپنے چچا زاد برادر حارث بن الحکم کو عطا فرما دیئے۔  
عبارتِ ذیل میں یہ مسئلہ مذکور ہے اور واقدی صاحب اس کو نقل کرنے والے ہیں۔

”عن الواقدي عن عبد الله بن جعفر عن أم بكر عن أبيها قالت قدمت ابل الصدقة على عثمان فوهبها للحارث بن الحكم بن ابى العاص“

”انساب الاشراف للبلاذری، ج ۵، ص ۲۸  
تحت ذکر ما انكروا من سيرة عثمانؓ۔“

— اور بلاذری نے اس مقام میں ایک اور روایت نقل کی ہے اس میں مذکور ہے کہ حضرت سعید بن العاص کے لیے

عثمانؓ نے اپنے قریبی رشتہ دار سعید بن العاص (اموی) کو ایک لاکھ درہم عنایت فرما دیئے۔ اس روایت میں ذکر ہے کہ دیگر اکابر صحابہؓ نے حضرت عثمانؓ پر اس معاملہ میں اعتراض کیا اور سیدنا حضرت عثمانؓ نے جواب دیا:

یہ تمام روایت واقدی صاحب اور لوط بن یحییٰ ابو مخنف نے نقل کی ہے اور یہ ان دونوں کے فرموداتِ عالیہ میں سے ہے۔

— وقال ابو مخنف والواقدي في روايتهما انكروا الناس

على عثمان اعطاء سعيد بن العاص مائة الف درهم فكلمه

على والذبير وطلحة... الخ“

انساب الاشراف للبلاذری، ج ۵، ص ۲۸ تحت  
ذکر ما انكروا من سيرة عثمانؓ۔

مذکورہ بالا قسم کی روایات اور بھی تاریخ کے ذخائر میں دستیاب ہو سکتی ہیں لیکن چند روایات یعنی سات عدد ہم نے بطور نمونہ پیش کر دی ہیں۔ اور ان کے نقل کرنے والوں کے نام بھی صراحتہ ذکر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد نقلاً و سنداً ان پر مختصر بحث پیش کی جاتی ہے اور بعد ازاں باعتبار عقل اور درایت کے ان کے متعلق کلام ہوگا۔ اس طریقہ سے طعن ہذا (یعنی مالی عطیات کے طعن) کا بے وزن ہونا اور بے اصل ہونا خوب واضح ہو جائے گا۔

## روایتِ بحث

(گذشتہ روایات کھلیے)

ناظرین کرام کی خدمت میں ہم نے یہ چند روایات اختصاراً پیش کر دی ہیں۔ جن میں حضرت عثمانؓ کے حق میں باعتبار مال کے اقتساباً نوازی کا طعن تجویز کیا گیا ہے۔

ان میں پہلی تین عدد روایات بطور قاعدہ و قانون کے ذکر کی جاتی ہیں ان پر سنداً کلام کر دیا ہے اور وہ تینوں روایات واقفی صاحب اور ابو مخنف لوط بن عیسیٰ سے منقول ہیں۔ یہ دونوں راوی خوب مجروح ہیں جیسا کہ عنقریب اس پر حوالہ جات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے وہ روایات ذکر کی ہیں جن میں حضرت عثمانؓ سے مال حاصل کرنے والے رشتہ داروں کے نام کی تصریح کر دی گئی ہے۔ یہ سات عدد روایات درج کی گئی ہیں۔ یہ بھی واقفی صاحب سے منقول ہیں اور کچھ لوط بن عیسیٰ ابو مخنف اور واقفی دونوں سے منقول ہیں اور ایک روایت ابو مخنف مذکور سے منقول ہے۔

علماء فن نے ان دونوں راویوں پر بڑی تفصیلی جرح کی ہے اور قبل ازیں

عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے متعلقات میں اور مروان کے شبہ دوم کے جواب میں ان پر نقد اور کلام ہو چکا ہے۔

تاہم اس موقع پر بھی ہم پھر ناظرین کے سامنے ان ہر دو راویوں پر جرح پیش کرتے ہیں تاکہ ان روایات کا بے اصل ہونا اچھی طرح نمایاں ہو جائے۔

اس کا نام محمد بن عمرو بن واقد الاسلمی الواقدی ہے۔ امام احمد نے فرمایا ہے **الواقدی** کہ یہ شخص بہت بڑا جھوٹا ہے اور روایات میں تصرف کیا کرتا ہے ابن معین فرماتے ہیں اس کی روایت نہ لکھی جائے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ شخص متروک ہے ابو حاتم اور نسائی کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں گھڑ لیتا تھا۔ ابن مدینی کہتے ہیں یہ روایت کو گھڑ لیتا ہے۔

\_\_\_\_\_ قال احمد بن حنبل هو كذاب يقلب الاحاديث قال

ابن معين لا يكتب حديثه - قال البخاري متروك - قال ابو حاتم والنسائي يضع الحديث... الخ

(۱) — میزان الاعتدال للذہبی، ج ۳، ص ۱۱۰۔ تحت

محمد بن عمرو بن واقد۔

(۲) — تہذیب التہذیب لابن حجر، ج ۹، ص ۳۶۳-۳۶۶۔

تحت محمد بن عمرو الواقدی۔

”قال الذہبی فی المغنی“ مجمع علی ترکہ وقال النسائی کان يضع الحديث“

(۳) — المغنی للذہبی، ج ۲، ص ۶۱۹۔ تحت محمد بن عمرو واقد

”قال ابن حبان وكان يروي عن الثقات مقلوبة وعن الاثبات

المعضلات... كان احمد بن حنبل رحمه الله يكذبه...“

... يقول المدیني الواقدی يضع الحديث... الخ

(۴) — کتاب المجرورین لابن حبان، ج ۲، ص ۲۸۴۔ تحت

محمد بن عمر بن واقد۔ طبع دکن۔

”قال ابن حجر فی اللسان..... متروک مع سعة علمه“

(۵) — لسان المیزان، ج ۶، ص ۸۵۲۔ تحت

الواقدي محمد بن عمرو۔

مختصر یہ ہے کہ جن روایات میں واقدی منفرد ہوں وہ روایات قابل حجت

نہیں ہوتیں۔

ابو مخنف لوط بن یحییٰ | اس کا نام لوط بن یحییٰ اور کنیت ابو مخنف ہے۔ یہ قصہ گو

اعتماد نہیں اور فرمایا کہ روایت کے باب میں یہ کچھ بھی نہیں اور علماء کہتے ہیں ”یہ

جلنے والا شیعہ ہے اور شیعوں کا قصہ گو راوی ہے“

”لوط بن یحییٰ ابو مخنف اخباری، لایوثق بہ“... ترکہ

ابو حاتم وغیرہ۔ قال الدارقطنی ”ضعیف“ وقال یحییٰ بن معین

”یس بئقہ“ وقال مرة ”یس بشی“ قال ابن عدی ”شیعی“

مخرق صاحب اخبارہم... الخ“

(۱) — میزان الاعتدال للذہبی، ج ۲، ص ۳۶۰۔ تحت

لوط بن یحییٰ۔

(۲) — لسان المیزان لابن حجر عسقلانی، ج ۴، ص ۴۹۲۔

تحت لوط بن یحییٰ۔

— مختصر یہ ہے کہ اس قسم کی جرح مفصل کے ساتھ جو راوی مجروح ہوں

ان کی روایت پر اعتماد کرنا سراسر غلط ہے۔ ان روایات کو کسی طرح درست نہیں

تصوّر کیا جاسکتا۔

## مالی عطیّات کی دیگر روایات، خمس افریقیہ وغیرہ کے متعلق

تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت عثمانؓ نے اپنے رضاعی برادر عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو افریقیہ کا خمس دے دیا تھا (جو بیت المال کا حق تھا)۔  
نیز روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ عبداللہ بن خالد بن اسید اور مروان کو بیت المال کا بہت سا مال بخش عطا کر دیا تھا۔  
مقرضین کہتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے بیت المال کے اموال کی غلط تقسیم کی اور اپنے اقارب کو ناجائز طور پر اموال کثیرہ دے دیئے۔

### درجہ جواب

—(۱)—

پہلی بات یہ ہے کہ اس قسم کی روایات تاریخی ہیں جن کے صحیح اور سقیم ہونے میں دونوں احتمال ہیں اور ان محتمل روایات کو صحیح احادیث کا درجہ نہیں دیا جاسکتا۔

(۲)

دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے اس نوع کی روایات پر کلام کر کے غیر صحیح اور منطک فیہ قرار دیا ہے جس کی وجہ سے ان کی صحت پر اعتماد کرنا مشکل ہے۔  
(۱) مثلاً قاضی ابوبکر بن العربی نے فرمایا ہے کہ خمس افریقیہ کا کسی ایک شخص کو عطا کیا جانا صحیح نہیں ہے۔

—“واما اعطاء خمس افریقیة لواحد فلم یصح”

العواصم من القواصم، ص ۱۰۰-۱۰۱۔ تحت

جوابات اعتراض ۱۳)

(۲) — نیز از آلہ الخفاریہ میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ :-

”اہل تاریخ نے بغیر تحقیق کے بیت المال میں اسراف کے قصے ذکر کر دیئے، ان میں بعض تو محض افترا اور جھوٹ ہیں اور ان کے بعض میں واقعہ کے بیان میں ملاوٹ اور آمیخت کر دی گئی ہے۔ لہذا ان قصوں کے نقل کرنے میں ہم اپنے اوقات کو صرف نہیں کرتے“  
 ”..... اما قصص رکبکہ کہ اہل تاریخ بغیر تحقیق ذکر می کنند از اسراف در بیت المال و حمی ساختن شجر و غیر آں چوں بعض محض منقربات است و بعض از آن قبیل کہ در سر دقتہ افترا داخل شدہ۔ اوقات خود را بتسوید اوراق باں قصہا مشغول نمی سازیم“

دازالہ الخفاریہ مقصد دوم، ص ۲۴۸۔ تحت جوابات

مطالعین عثمانی۔ طبع اول قدیم۔ بریلی)

(۳) — اور شاہ عبدالعزیز نے تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا ہے کہ مروان کو افریقیہ

کا خمس دیا جانا بالکل غلط ہے۔

”وقصۃ بخشیدن خمس افریقیہ کہ مروان ست نیز غلط محض ست“

(تحفہ اثنا عشریہ، ص ۳۱۱۔ تحت طعن سوم عثمانی

طبع جدید لاہور)

(۳)

”خمس افریقیہ“ والی روایات کو بالفرض اگر درست تسلیم کیا جائے تو اس

کا حل طبری کی روایات میں موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ حضرت عثمان نے اعتراض

ہونے کے بعد خمس مذکور عبد اللہ سے بیت المال میں واپس کروا دیا تھا۔ چنانچہ اس کی تھوڑی سے تفصیل روایت ذیل سے ہم پیش کرتے ہیں جس کے ذریعہ اصل مسئلہ صاف ہو سکے گا۔

طبری نے فتح افریقیہ کے موقعہ پر ذکر کیا ہے کہ :-

”جو مال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوة افریقیہ میں عنایت فرمایا تھا اس کو عبد اللہ بن سعد نے لشکریوں اور فوجیوں میں تقسیم کیا اور اس مال سے خمس نکالا۔ پھر حسب دستور اس خمس کے پانچ حصے کیے، پانچواں حصہ خود لیا اور خمس کے باقی چار حصے ایک شخص ابن وسیمہ النضری کے ذریعے مدینہ شریف میں حضرت عثمانؓ کی خدمت میں بھجواتے..... اس موقعہ پر حضرت عثمانؓ کی خدمت میں ایک وفد نے پہنچ کر شکایت کی کہ عبد اللہ بن سعد نے خمس الخمس  $\frac{5}{100}$  لے لیا۔

حضرت عثمانؓ نے فرمایا میں نے اس کو حصہ سے زیادہ عطیہ دیا ہے..... اس کے متعلق میں نے بطور وعدہ کے کہہ رکھا تھا کہ فتح افریقیہ ہونے پر آپ کو خمس الخمس دیا جائے گا۔

اب یہ معاملہ آپ لوگوں کے اختیار میں دیا جاتا ہے کہ اگر آپ حضرات اس پر راضی ہونگے تو جائز رکھا جائے گا اور اگر آپ ناپسند کریں گے تو اس مال کو ہم لوٹا دیں گے اور بیت المال کی طرف واپس کر دیں گے۔

شکایت کنندہ وفد نے کہا کہ ہم عبد اللہ کو خمس الخمس دینے پر ناراض ہیں تو حضرت عثمانؓ نے فرمان دیا جو کچھ مال عبد اللہ نے اس موقعہ پر لیا ہے واپس کر دیا جائے اور عبد اللہ کی طرف حضرت عثمانؓ نے

فرمان لکھا کہ آپ اس مال کو واپس کر دیں۔

پھر اہل وفد نے مطالبہ کیا کہ عبد اللہ بن سعد کو وہاں سے معزول کر دیں ہم ان کی امارت نہیں چاہتے۔۔۔۔۔ تو حضرت عثمانؓ نے عبد اللہ کی طرف لکھا کہ ایک ایسے آدمی کو اپنا قائم مقام تجویز کر دیں جس پر طرفین راضی ہوں اور خمس الخمس کو فی سبیل اللہ تقسیم کر دیں۔ یہ لوگ مال ہذا کے یعنی پرنا راض ہو رہے ہیں پس عبد اللہ نے اسی طرح کر دیا۔ افریقہ کو فتح کیا اور واپس مصر آ گئے۔۔۔ الخ۔

”..... وقد امرت له بذلك وذاك اليكم الآن

فان رضيتم فقد جازوان سخطتم فهو رد۔ قالوا فانا نسخطه قال فهو رد وكتب الى عبد الله برد ذلك واستصلاحم قالوا فاعزله عنا فانا لا نريد ان يتأمر علينا وقد وقع ما وقع فكتب اليه ان استخلف على افریقیة رجلاً من ترضى ويرضون واقسم الخمس الذي كنت نقلتك في سبيل الله فانهم قد سخطوا النفل ففعل ورجع عبد الله بن سعد الى مصر وقد فتح افریقیة... الخ۔“

تاریخ ابن جریر طبری، ج ۵ - ص ۴۹ - سنتہ  
۲۷ھ، ذکر الخبیر عن فتحها سبب ولایتہ عبد اللہ  
بن سعد بن ابی سرح مصر وعزل عثمانؓ عمرو بن  
العاص عنها )

(۴)

اور جو طبری کی بعض روایات میں عبد اللہ بن خالد بن اسید اور مروان بن الحکم



کے متعلق مال کثیر عطا کرنے کا ذکر پایا جاتا ہے۔ اس کا جواب طبری کی روایت ذیل میں موجود ہے۔

روایت اس طرح ہے کہ ایک دفعہ حضرت عثمانؓ کی خدمت میں چند اصحاب (حضرت علیؓ، حضرت معاویہؓ اور حضرت زبیرؓ وغیرہم) جمع تھے۔ اس مجلس میں دیگر امور کے علاوہ حضرت عثمانؓ کے رشتہ داروں کو مال دینے پر گفتگو ہوئی حضرت عثمانؓ نے یہ بات فرمائی کہ میں نے اقرباء کو جو مال دیا ہے میرے خیال میں یہ میرا دینا درست ہے۔ اگر تم لوگ اس کو خطا سمجھتے ہو تو اس مال کو واپس کر لو میں تمہاری بات کو تسلیم کر لوں گا۔ حاضرین مجلس نے کہا آپ نے ٹھیک فرمایا۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے عبد اللہ بن خالد بن اسید اور مروان کو بہت سا مال (مروان کو بکثرت پندرہ ہزار اور عبد اللہ بن خالد کو پچاس ہزار درہم) دے دیا تھا۔

پس ان حضرات نے ان دونوں (عبد اللہ اور مروان) سے مذکورہ مال واپس لے لیا اور بخوشی و رضا مندی مجلس اہل اسے واپس ہوئے۔

”..... و رأیت ذالک لی فان رأیتم ذالک خطاء فردو  
فامری لامرکم تبع قالوا اصبت واحسنت قالوا اعطیت  
عبد اللہ بن خالد بن اسید و مروان و كانوا یزعمون انہ  
اعطی مروان خمسۃ عشر الفاً و ابن اسید خمسین الفاً  
فردوا منہما ذالک فرضوا و قبلوا و خرجوا راضین“

(تاریخ ابن جریر طبری، جلد ۵، ص ۱۰۱۔)

تحت سنۃ ۳۵ھ

مطلب یہ ہے کہ :-

مال کثیر دینے کے اعتراض کو طبری کی ان ہر دو روایات مندرجہ نے صاف کر دیا کہ اگر بالفرض حضرت عثمانؓ نے مال کثیر یکیشیت عبد اللہ بن سعد، عبد اللہ بن خالد اور مروان کو دیا تھا تو اعتراض ہو جانے کے بعد حضرت عثمانؓ نے وہ مال واپس کر دیا تھا۔ اور اس واپسی پر معتضدین لوگ رضا مند ہو کر خوش ہو گئے تھے۔ اس طریقہ سے حضرت عثمانؓ سے یہ اعتراض ساقط ہو گیا۔

### تنبیہ :-

طبری کی مندرجہ بالا روایات کے ذریعے جب افریقیہ کے خمس کا اعتراض رفع ہو گیا تو طبری سے نقل کرنے والے مورخین مثلاً الکامل لابن اثیر، البدایہ لابن کثیر اور تاریخ ابن خلدون وغیرہم کے اس موقعہ کے مالی اعتراضات مندرجہ ہو گئے اور ان کے لیے کسی دیگر جواب کے پیش کرنے کی حاجت نہ رہی۔ اس وجہ سے کہ مذکور متاخرین نے طبری سے ہی نقل کر کے خمس افریقیہ کے متعلق اعتراضات ذکر کیے تھے۔

### (۵)

ان معروضات کے بعد اب یہ صورت پیش کی جاتی ہے کہ اگر بالفرض حضرت عثمانؓ نے اپنے اقرباء یا غیر اقرباء کو بیت المال سے مالی عطیات دیتے ہوں تو اسلام میں ان کی صورت جواز کا کیا درجہ ہے؟ خلیفہ اپنی رائے اور اجتہاد کے اعتبار سے کسی کو مالی عطیات دے سکتا ہے یا نہیں؟ خلیفہ کا اس نوعیت کا مجتہداً فعل صحیح ہے یا نہیں؟

تو اس کے لیے ہم ذیل میں چند چیزیں پیش کرتے ہیں۔ ان پر توجہ فرمائیے۔ مسئلہ ہذا حل ہو جائے گا۔

(۱) — امام مالکؒ اور علماء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ خلیفہ وقت

خمس کے معاملہ میں اپنی رائے پر عمل کر سکتا ہے اور جو اس کی مجتہدانہ رائے ہو اس کو نافذ کر سکتا ہے اور مالی عطیہ کسی ایک شخص کو عطا کرنا بھی اس کے لیے جائز ہے۔

..... انہ قد ذهب مالك وجماعته الى ان الامام

يروي رأيه في الخمس وينفذ فيه ما اذا اذاه اليه اجتهاده وان

اعطاءه لواحد جائز

(العواصم من القواصم للقاضي ابى بكر بن العربي .

ص ۱۰۰-۱۰۱ تحت جوابات اعراض ۱۳)

(۲) — خلافت فاروقی کے دور میں حضرت عمر کی طرف سے ”ینبع“ کے مقام میں حضرت علی المرتضیٰ کو ایک قطعہ اراضی عنایت کیا گیا جو بیش قیمت اور معقول آمدنی کا ذریعہ تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس عطیہ اراضی کو بخوشی منظور کر لیا تھا اور کسی صحابی نے اس پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ یہ واقعہ مندرجہ ذیل مقامات میں علماء نے ذکر کیا ہے اور قبل ازیں اس کا اندراج ”رحماء بینہم“ حصہ فاروقی کے باب دوم فصل رابع، ص ۱۸۹-۱۹۰ میں ہو چکا ہے، بطور یاد دہانی کے یہاں بھی اس کو نقل کیا جاتا ہے۔

— برمان الدین الطرابلسی الحنفی نے ”الاسعاف فی احکام الاوقاف میں تحریر

کیا ہے کہ :-

”..... عن عبد العزيز بن محمد عن ابيه عن علي بن ابي طالب

رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب قطع لعلي ینبع“ ثم اشترى

علي الى قطيعته التي قطع له عمر اشياء فحفر فيهما عيناً فيبينا هم

يعملون اذ تفجر عليهم مثل العنق الجزور من الماء فاتي علياً

فبشرة هذا لك..... وبلغ جدادها في زمن علي الف وسق“

(۱) — کتاب الاسعات فی احکام الاوقات، ص ۷۷۔  
 لبربان الدین ابراہیم بن موسی الطرابلسی الحنفی۔  
 سن تالیف کتاب ہذا ۹۰۵ھ۔

(۲) — وفاء الوفاء للمہودی، ج ۴، ص ۱۳۳۲۔ فصل  
 الثامن تحت لفظ "ینع" طبع بیروت۔

(۳) — اسی طرح حضرت عثمانؓ نے اپنے دورِ خلافت میں حضرت علی المرتضیٰؓ کو  
 اپنے حاکم عبداللہ بن عامر کے ذریعے خراسان سے واپسی پر بیس ہزار درہم  
 یکمشت عنایت فرمائے تھے اور حضرت علیؓ نے قبول فرمائے تھے اور کسی صحابی  
 نے اس پر اعتراض نہیں کیا تھا۔

طبقات ابن سعد میں عبارت ذیل میں یہ واقعہ مذکور ہے۔

”... فقال (عثمانؓ) لابن عامر قم الله رأيك انزل  
 الى علي بثلاثة آلاف درهم قال كرهت ان اغرق ولم ادر ما  
 رأيك قال فاعرق قال فبعث اليه بعشرين الف درهم وما  
 يتبعها قال فراح علي الى المسجد فانتبى الى حلقته وهم يتذاكرون  
 صلوات ابن عامر هذا الحبي من قریش فقال علي هو سيد  
 فتیان قریش غير مدافع“

وطبقات ابن سعد، جلد ۵، ص ۳۳۔ تذکرہ  
 عبداللہ بن عامر۔ طبع لیدن۔

قبل ازیں یہ واقعہ ”رحماء بینہم“ حصہ سوم (عثمانی) کے باب چہارم تحت عنوان  
 ”نبوی رشتہ داروں کے مالی حقوق“ ص ۱۵۵، ج ۳ پر درج ہو چکا ہے۔

— ان ہر دو واقعات کے ذریعے یہ مسئلہ منقطع ہو گیا کہ خلیفہ وقت اپنے

خصوصی اختیارات کے تحت مالی عطیات ملت کے بعض افراد کو عنایت کر سکتا ہے اور اس کا یہ فعل شرعاً صحیح اور درست ہے ورنہ حضرت علی المرتضیٰ کا مذکورہ واقعات میں اموال کا حاصل کرنا غیر صحیح اور نادرست ہوگا جیسا ہر دو خلفاء کرام کا دینا ناوا ہوگا۔ حالانکہ اس چیز کا کوئی قائل نہیں ہے (خوب غور فرماویں)

(۴) — نیز یہ چیز بھی واضح ہے کہ حضرت عثمانؓ کے مالی عطیات کا بیت المال سے عطا کرنا اقارب اور ہاشمیوں کے ساتھ کچھ مخصوص نہ تھا بلکہ اس وقت کے جمیع اہل اسلام بیت المال کے اموال سے حصہ پاتے تھے۔ حضرت حسنؓ بصری فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے حضرت عثمانؓ خطبہ دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے لوگو! تم ہم پر کیا اعتراض کرتے ہو؟ اور کیا عیب لگاتے ہو؟ ہر دن تم میں مال تقسیم کیا جاتا ہے۔ کوئی دن تم میں ایسا نہیں گزرتا جس میں تم میں مال تقسیم نہ کیا جاتا ہو۔ حضرت حسنؓ بصری فرماتے تھے کہ میں نے حضرت عثمانؓ کے منادی کو دیکھا ہے۔ وہ آواز لگاتا کہ اے لوگو! صبح پہنچ کر اپنے عطیات حاصل کر لو۔ پس لوگ صبح آ کر کثیر عطیات لے لیتے تھے پھر وہ آواز لگاتا کہ اے لوگو! اپنی خوراکیں صبح پہنچ کر حاصل کر لو۔ پس وہ صبح پہنچ کر اپنی پوری خوراکیں حاصل کرتے تھے۔ اور لباس، پوشاکیں، گھی اور شہد تک وہ آکر حاصل کرتے تھے۔

چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ اپنی کتاب "قرۃ العینین" میں یہ واقعہ درج کرتے ہیں اور ابن کثیر نے بھی حسن بصریؓ کی روایت لکھی ہے۔ اور شاہ عبدالغزیزؒ نے تحفہ اثنا عشریہ "جواب مطاعن میں یہی روایت نقل کی ہے

— وعطایای جزیلۃ او از بیت المال مخصوص نمودند با اقارب  
بلکہ جمیع اہل اسلام میر سید عن الحسن البصری قال سمعت عثمانؓ

يخطب يقول يا ايها الناس! ما تنفتمون عليّ؟ وما من يوم الا  
وانتم تقسمون فيه خيراً قال الحسن وشهدت مناديه  
ينادي يا ايها الناس! اغدوا علي عطياتكم فيغدون  
فياخذونها وافرة يا ايها الناس! اغدوا علي ارزاقكم فيغدون  
فياخذونها وافية حتى والله لقد سمعته اذ ناي يقول  
علي كسوتكم فياخذون الحلل واغدوا علي السمن والعسل  
..... الخ

(۱) — قرۃ العینین فی تفصیل الشخین، ص ۲۴۱-۲۴۲۔

تحت جواب مطاعن جنتین از شاه ولی اللہ محدث دہلی

(۲) — البدایہ لابن کثیر، ج ۴، ص ۲۱۳، فصل فی ذکر شیء

من سیرتہ... الخ

(۳) — تحفہ اثنا عشریہ فارسی از شاه عبدالعزیز، ص ۳۱۰

بحث مطاعن عثمانی، تحت طعن سوم طبع جدید لاہور۔

(۶)

اگر مذکورہ چیزوں سے صرف نظر کر لی جائے تب بھی یہ بات توجہ کے قابل ہے کہ  
حضرت عثمانؓ نے اپنے دورِ خلافت کے آخری ایام میں مالی طعن کرنے والوں کے جواب  
میں ایک مبسوط کلام (جو طبری نے نقل کیا ہے) فرمایا تھا اس میں آپ نے تصریحاً  
فرمایا تھا کہ :-

(۱) میں اپنے اقارب اور اعزہ کے ساتھ محبت رکھتا ہوں اور ان کو مال بھی  
غطا کرتا ہوں لیکن ان کے ساتھ میری محبت کرنا مجھے کسی ظلم و جور کی طرف مائل نہیں  
کرتا بلکہ میں ان کے حقوق ادا کرتا ہوں اور جو کچھ میں اپنے اقرباء کو عطیات دیتا

ہوں وہ اپنے ذاتی مال سے دیتا ہوں۔ بیت المال (یعنی مسلمانوں کے مال) سے دینا نہ میں اپنی ذات کے لیے حلال سمجھتا ہوں اور نہ ہی دوسروں کے لیے۔

— وقالوا انى احب اهل بيتى واعطيهم فاما حبي فانتہ

لم يمل معهم على جور بل احمل الحقوق عليهم۔

— واما اعطاءهم فانى اعطيهم من مالى ولا استحل

اموال المسلمين لى نفسى ولا لاحد من الناس... الخ

(۱) — تاریخ ابن جریر طبری، ج ۵، ص ۱۰۳ تحت

۳۵ — کلام عثمانی معترضین کے جواب میں۔

(۲) — تاریخ الاسلام للذہبی، ج ۲، ص ۱۲۶ تحت

۳۵ —

(۲) — اسی طرح البدایہ میں ابن کثیر نے حضرت عثمانؓ کا یہ فرمان نقل کیا ہے۔

طعن کرنے والوں کے جواب میں فرمایا کہ میں جو کچھ اپنے اقرباء کو عطا کرتا

ہوں وہ اپنے زائد مال سے دیتا ہوں۔

”... ثم اعتذر عثمان (ع) عما كان يعطى اقرباءه بانه

من فضل ماله“

( البدایہ لابن کثیر، ج ۴، ص ۱۶۹ تحت ۳۴ )

(۳) — نیز یہ چیز بھی مؤرخین (طبری وغیرہ) نے حضرت عثمانؓ کی سیرت میں

درج کی ہے کہ حضرت عثمانؓ نے مسلمانوں کے بیت المال سے کوئی تنخواہ

اور وظیفہ نہیں لیا بلکہ حضرت عثمانؓ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم! میں نے مسلمانوں

کے مال سے خوراک نہیں حاصل کی بلکہ میں اپنے مال سے اپنا خرچ

خوراک حاصل کرتا ہوں اور تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں قوم قریش میں

مالدار آدمی ہوں اور میری بہت بڑی تجارت ہے۔  
 ”..... واللہ ما آكله من مال المسلمین ولکنی آكله  
 من مالی انت تعلم انی كنت اکثر قدیش مالاً واجدہم فی  
 التجارۃ... الخ۔“

(تاریخ ابن جریر طبری، ج ۵، ص ۱۳۶ تحت  
 ۳۵ھ، ذکر بعض سیر عثمانؓ)

ان مندرجات کے ذریعے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت عثمانؓ اپنے اقرباء کو  
 جو مال عنایت کرتے تھے وہ اپنے زائد مال سے دیتے تھے۔ بیت المال سے نہیں  
 دیتے تھے۔ حتیٰ کہ وہ اپنا خرچ خوراک بھی بیت المال سے نہیں لیتے تھے۔ (بسمان اللہ)

## عقل و درایت کے اعتبار سے بحث

اس مقام میں درایت کے اعتبار سے چند ایسی معروضات پیش کی جاتی  
 ہیں جن سے مسئلہ کی اصلیت نمایاں طور پر سامنے آ سکتی ہے اور اعتراض بالا کی  
 سخت اور سبکی واضح ہوتی ہے۔

(۱)

پہلی یہ بات ہے کہ مسئلہ ہذا داراموال المسلمین کی تقسیم کی شرعی نوعیت کیا  
 حضرت عثمانؓ پر مخفی تھی؟ کیا وہ اس مسئلہ میں کتاب و سنت کے احکام سے  
 ناواقف تھے؟ اور کیا حضرت عثمانؓ کو یہ فرق معلوم نہ تھا کہ اپنوں کے ساتھ صلہ  
 رحمی کے تقاضوں کو بیت المال سے پورا کیا جاتا ہے یا اپنے ذاتی مال سے؟  
 اور تقسیم مال کے اختیارات اور اس کی شرعی حدود کیا ان کو پوری طرح معلوم نہ



تھیں؟ یا ان مسائل کو جاننے کے باوجود ان پر عمل نہیں کرتے تھے؟  
یہ چیزیں ایک مخلص مسلمان کے لیے غور کرنے کے قابل ہیں جو گروہی تعصب  
سے بالاتر ہو کر غور کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور اپنی دیانتدارانہ رائے خلیفہ راشد  
کے حق میں خود قائم کر سکتا ہے۔

(۲)

دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ کی دیانت، امانت، اور صداقت پر اعتماد  
کرتے ہوئے صلح حدیبیہ میں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمانؓ کے ہاتھ  
کو اپنا ہاتھ قرار دے کر یدِ عثمانی کی عظمت قائم کر دی تھی اور اس بیعت میں شامل ہونے  
والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا مندی کا تمغہ عنایت فرما دیا۔  
یدِ عثمانی کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہاتھ خدا کی رضا اور احکام شرعی

کے خلاف اموال کی تقسیم نہیں کرے گا

نیز اس ہاتھ پر اہمت کے اکابر صحابہ (حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت  
علیؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ) نے دینی اعتماد کی بنا پر ہاتھ رکھ کر  
بیعتِ خلافت کی تھی اور اس ہاتھ کو بالاتفاق منتخب کیا تھا۔  
لہذا اس سے اموال کی غلط تقسیم کی نسبت صحیح نہیں۔ اور یہ ہاتھ مالی تقسیم  
دیانتدارانہ طور پر ہی کرے گا۔

مختصر یہ ہے کہ ان ہر دو انتخابات میں حضرت عثمانؓ کا انتخاب ان کی دین میں  
پختگی کا بین ثبوت ہے اور ان کی دیانت کے لیے پوری ضمانت ہے۔

لہذا یہ دین کے ہر کام میں صحیح العمل اور معتد تھے اور اسی پر ان کا خاتمہ  
بالخیر ہوا پس معترضین کا یہ کہنا کہ وہ اموال کی تقسیم کے مسئلہ میں غلط کار تھے یہ عثمانی  
دیانت کو داغدار کرنا ہے جو کسی طرح صحیح نہیں۔

(۳)

تیسری یہ چیز ہے کہ خمس افریقیہ کے مال کی غلط تقسیم کا اعتراض ۲۷ھ، یا ۲۸ھ میں (جب افریقیہ کی فتوحات حاصل ہوئیں) قائم کیا گیا پھر اس کے بعد قریباً ۳۰ھ میں خراسان، طبرستان اور جرجان وغیرہ کی فتوحات ہوئیں۔ ان فتوحات میں اکابر صحابہ اور اکابر ہاشمی حضرات سیدنا حسنؓ، سیدنا حسینؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ اور عبداللہ بن زبیرؓ وغیرہ شریک ہوئے۔

اگر فتوحات افریقیہ کے اموال کی تقسیم غلط ہو چکی تھی تو ان حضرات نے یہ طعن اور اعتراض حضرت عثمانؓ کی تقسیم پر کیوں نہ اٹھایا؟ اور اس کے بعد آنے والے غزوات ۳۰ھ میں خاموشی سے کیوں شریک ہوئے؟ اگر سابقہ فتوحات میں قواعد شرعی کے خلاف مال تقسیم ہوا تھا تو ان حضرات پر لازم تھا کہ پہلے اس کی اصلاح کرواتے اور بعد میں ۳۰ھ میں ہونے والے غزوات میں شریک ہوتے مگر ایسا نہیں کیا۔

تو ان کی عملی کارروائی سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ افریقیہ کے مال کی تقسیم میں کوئی صحیح اعتراض قائم نہیں تھا اور نہ ہی کوئی سقم واقع تھا۔ یہ محض بعض مخالفین عثمانؓ کا پروپیگنڈا تھا جسے مورخین نے نقل کر ڈالا۔

قبل ازیں شرکت غزوات ہذا کے حوالہ جات ”رحمہما ینہم“ حصہ سوم عثمانی کے باب چہارم میں (تحت عنوان خلافت عثمانی میں ہاشمی حضرات کی شرکت جہاد) درج ہو چکے ہیں۔ مقام ذیل میں تفصیلات ملاحظہ فرمائیں :-

(۱) تاریخ ابن جریر طبری، ج ۵، ص ۵۷۔ تحت ۳۰ھ۔

(۲) البدایہ لابن کثیر، جلد ۷، ص ۱۵۴۔ تحت ۳۰ھ۔

## آخر بحث اربع

مالی عطیات کی بحث مختصراً پیش کی گئی ہے۔ اس پر انصاف کی نظر ڈالنے سے یہ نقشہ سامنے آتا ہے کہ :-

(۱) — وہ روایات جن سے "مالی عطیات" کے کیس تیار کیے جاتے ہیں وہ عموماً قصہ گو، دروغ گو، اور اخباری قسم کے لوگوں سے اہل تاریخ نے فراہم کی ہیں ان پر اعتماد کر کے ایک خلیفہ راشد کے دامن دیانت کو داغدار کرنا کسی طرح صحیح نہیں۔

(۲) — اور اعطاء اموال کے جو واقعات حقیقتاً درست ہیں وہ حدود شرعی سے خارج اور خلیفہ کے اختیارات سے متجاوز نہیں تھے۔ اس پر حضرت عثمانؓ کی طرف سے صفائی کے بیانات اس کے مؤید ہیں۔ جو ذکر کر دیئے گئے ہیں۔

(۳) — حضرت عثمانؓ کا علمی مقام بہت بلند تھا۔ فقہائے صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ صدیقی خلافت و فاروقی خلافت کی مشاورتی مجالس کے رکن رکین تھے۔ دینی مسائل کے لیے اہل حل و عقد کے مقام پر فائز تھے۔

لہذا حضرت عثمانؓ کے حق میں یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ مالی تقسیم کے ان مسائل سے نااہل یا ناواقف تھے۔

اور یہ تصور کرنا کہ تقسیم اموال کے مسائل سے واقف تو تھے لیکن ان پر عملدرآمد نہیں کرتے تھے اور یہی مشکل ہے، کوئی مخالف عثمانؓ ہی یہ چیز باور کر سکتا ہے، دوسرے شخص سے یہ نہیں ہو سکتا۔

(۴) — پھر خمس افریقیہ کی تقسیم کے مسئلہ میں افریقیہ کی مہم کے بعد کی فتوحات کو سامنے رکھنے سے یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام (بشمول ہاشمی حضرات کے) افریقیہ کے بعد والے غزوات میں شامل ہونے اور شرکت کرنے سے واضح ہو گیا کہ خمس افریقیہ کی تقسیم میں کوئی سقم نہ تھا ورنہ یہ حضرات غلط تقسیم پر کیسے رضامند ہو گتے؟ اور تعاون علی الاثم والعدوان کیسے اختیار کر لیا؟  
خوب غور فرمادیں۔

— حاصل یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ کے حق میں ناجائز طریقہ سے تقسیم مال کے اعتراضات بے اصل ہیں۔ حضرت نے جو اموال اپنے اقرباء کو دیئے تھے ان کا شرعاً صحیح محمل اور جواز موجود ہے۔ حدود شرعی سے متجاوز ہونے کا پروپینڈا باطل بے حقیقت ہے۔ حضرت عثمانؓ نے اس سلسلہ میں کوئی غلط کام نہیں کیا جس کی وجہ سے انہیں مطعون قرار دیا جائے۔

## بحث خاص

### عثمانی دور کے آخری مراحل اور ان کا متعلقہ کلام

حضرت سیدنا عثمانؓ کے دور پر معترض لوگوں نے آخری ایام کے متعلق کئی قسم کی بحثیں پیدا کر لی ہیں جو دور از حقیقت ہیں اور اصل واقعات کے خلاف ہیں۔ مثلاً :-

(۱) — بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران اپنے اقرباء کو بڑے بڑے مناصب پر مسلط کر دیا، جنہوں نے کئی قسم کی خرابیاں اور مظالم کیے۔

نیز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو بیت المال سے ناجائز طور پر موقع بہ موقع اموال کثیرہ عطا فرمائے۔

ان چیزوں کی وجہ سے قبائل میں نفرت پیدا ہوئی۔ قبیلہ پرستی کے متعصبانہ نظریات اٹھ کھڑے ہوئے اور تعصب کی دبی ہوئی چنگاریاں بھڑک اٹھیں، جنہوں نے خلافت راشدہ کے نظام کو جلا کر خاک کر دیا اور یہ چیزیں قتل عثمانؓ پر منج ہوئیں۔

(۲) — اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقربا نوازی کے علاوہ حضرت عثمانؓ بن عفانؓ نے شریعت میں کئی قسم کے بدعات پیدا کر دیئے۔ لہذا تمام مسلمان ان کے خلاف ہو گئے۔ آخر کار لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔

..... ”وخالفة المسلمون كلهم حتى قتل وعابوا افعاله... الخ“

(منہاج الکرامتہ فی معرفۃ الاماتمہ لابن المطہر المحلی الشیعی۔

بحث اختتام مطاعن عثمانی، ج ۴، ص ۶۸، مطبوعہ

در آخر منہاج السنہ، طبع لاہور)

مسئلہ ہذا کو صحیح طور پر معلوم کرنے کے لیے بحث خامس میں ”بیان مراحل“ کے نام سے چند چیزیں یہاں ناظرین کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ ان میں منصفانہ غور کرنے سے عثمانی دور کے آخری مسائل بہترین طریقہ سے واضح ہو جائیں گے اور وہ نقشہ جو مقرض احباب نے ان ایام کے متعلق پیش کیا ہے اس کا بعید از صواب و خلاف واقعہ ہونا خوب طرح معلوم ہو سکے گا۔

## بیان مراحل

(۱)۔

حضرت عثمانؓ کے دور کے متعلق لوگوں کا یہ تاثر دینا کہ دور عثمانی کے آخر میں حضرت عثمانؓ کے عمال و حکام کی وجہ سے کئی قسم کے منکرات اور برائیاں پھیل گئی تھیں اور احکام شرعی کی خلاف ورزی ہونے لگی تھی جن کی وجہ سے لوگ حضرت عثمانؓ پر طعن کرنے لگے اور ان کے خلاف نفرت کے جذبات لوگوں میں پھیل گئے۔ واقعات کے خلاف ہے۔ امت کے متعدد کبار علماء نے دور ہذا کے متعلق صفائی کے بیان دیتے ہیں اور منکرات اور برائیوں کی نفی کر دی ہے اور فرمایا ہے کہ کوئی کام اس دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا جس پر شرعاً طعن کیا جاسکے۔ یا اس کو موجب فسق اور قتل کا سبب قرار دیا جاسکے۔

امام بخاریؒ کی طرف سے صفائی کا بیان | اب پہلے امام بخاریؒ کی طرف سے

صفائی کا بیان ملاحظہ فرمادیں انہوں نے اپنی سند کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے وہ فرماتے تھے کہ :-

”امیر المؤمنین حضرت عثمانؓ کا فرمان اور حکم بارہ سال چلتا رہا۔ ان کی امارت میں لوگوں نے کوئی بُرائی نہیں دیکھی، حتیٰ کہ فاسق لوگ آگئے اور اہل مدینہ نے حضرت عثمانؓ کے معاملہ میں نرمی سے کام لیا یعنی شدت اختیار نہ کی، لہذا وہ مقصد میں کامیاب ہو گئے۔“

— حدثنا سليمان بن حرب ثنا ابو هلال قال سمعت الحسن يقول عمل امير المؤمنين عثمان بن عفان ثنتي عشرة سنة لا ينكرون من امارته شيئاً حتى جاء فسقة فداهن والله في امرة اهل المدينة“

(تاریخ صغیر امام بخاری، ص ۳۲ - طبع الہ آباد (مہند)  
تحت ذکر من مات فی خلافة عثمانؓ)۔

علامہ ابن العربی المالکی اس موقعہ کی بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :-

### ابن العربی المالکی کا قول

”حضرت عثمانؓ کے دور میں کوئی بُرائی نہیں تھی، نہ اول دور میں اور نہ آخر دور میں اور نہ ہی صحابہ کرامؓ نے اس موقعہ پر کوئی بُرائی کی تھی۔ مخاطب کو کہتے ہیں جو تم کو اس موقعہ کی بُری خبریں سنائی جاتی ہیں وہ باطل ہیں ان کی طرف التفات کرنے سے اجتناب کریں۔“

”..... فلم یأت عثمان منکراً لانی اول الامر ولا فی

آخرہ ولا جاء الصحابة بمنکر وکل ما سمعت من خبر باطل ایاک  
ان تلتفت الیه“

(العواصم من القواصم، ص ۶۰ - طبع سہیل اکیڈمی لاہور)

حضرت عثمانؓ کا مقام بیان کرتے ہوئے پیرن پیر  
حضرت شیخ جبیلانی نے غنیۃ الطالبین میں حضرت

## حضرت شیخ جبیلانی کا فرمانی

عثمانؓ کی اور ان کے دور کی بہترین صفائی پیش کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ  
برحق امام تھے یہاں تک کہ وہ شہید کیے گئے اور ان کے دور میں کوئی ایسی بات نہیں  
پائی گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو مطعون کیا جاسکے، یا ان کی طرف فسق کی نسبت کی  
جاسکے، یا ان کے قتل کا سبب قرار دیا جاسکے۔

اور روافض نے حضرت عثمانؓ کے خلاف یہاں بہت کچھ کہا ہے۔

— و بایع علیؓ ثم بایع الناس اجمع فصار عثمان بن عفان  
خليفة بين الناس با اتفاق الكل فكان عثمان، اما ما حقا لي  
ان مات ولم يوجد فيه امر يوجب الطعن فيه ولا فسقه  
ولا قتله خلاف ما قالت الروافض تبأ لهم

(غنیۃ الطالبین مترجم، ص ۱۳۷، فصل و یعتقد  
اہل السنۃ... الخ۔ از حضرت شیخ جبیلانی  
المتوفی ۱۵۶۱ھ - طبع قدیم لاہور)

(۲)

دوسری یہ چیز ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت سیدنا عثمانؓ کی خلافت کے ایام  
میں عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے صحیح انتظامات تھے۔ اور لوگوں کی شکایات  
رفع کرنے کے لیے پورا اہتمام کیا جاتا تھا۔ حکام کو امر بالمعروف (بہتر کاموں کا  
حکم کرنا) و نہی عن المنکر (برائیوں سے روکنا) ادا کرنے کا حکم جاری ہوتا تھا۔  
اس طریقہ سے قیام دین کی صحیح صورت قائم تھی اور ملکی انتظامات ٹھیک



طرح چلتے تھے۔ اور عوام میں پریشانی کے اثرات نہیں تھے۔ اس چیز کے متعلق مؤرخین کے مندرجہ ذیل بیانات ملاحظہ فرمادیں پہلے اس دور کے وفد کی ایک رپورٹ پیش خدمت ہے پھر اس کی تائید میں اس دور کے اکابر حضرات جناب سالم بن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر جیسے معتمدین کے بیانات حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے ان کے ملاحظہ کے بعد اطمینان کا سامان ہو جائے گا۔

مؤرخین طبری اور ابن خلدون

ارسالِ وفود کا واقعہ اور ان کی واپسی رپورٹ | وغیرہ نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے

کہ خلافتِ عثمانی کے ایام میں بعض لوگوں کی طرف سے حضرت عثمانؓ کے حکام کے متعلق کچھ شکایات پیش ہوئیں۔ اس سلسلہ میں حضرت عثمانؓ نے چند بااعتماد حضرات کو مختلف جہات میں ان پیش آمدہ شکایات کی حقیقتِ حال معلوم کرنے کے لیے بطور وفد ارسال کیا۔ محمد بن مسلمہ انصاری صحابی کو کوفہ کی طرف اور اسامہ بن زید کو بصرہ کی طرف اور عبداللہ بن عمر صحابی کو شام کی طرف روانہ فرمایا اور حضرت عثمانؓ نے ان کے ماسوا آدمی بھی مختلف مقامات میں پھیلائے۔ (تاکہ حالات کی صحیح واپسی رپورٹ حاصل ہو سکے)۔ اور حضرت عمارؓ بن یاسر کو مصر کی طرف روانہ کیا تھا۔ عمارؓ کی واپسی سے قبل روانہ کیے ہوئے مذکور لوگ واپس آگئے۔

انہوں نے واپس پہنچ کر اطلاع کی کہ اے لوگو! ہم نے کوئی بری بات وہاں نہیں دیکھی۔ عوام المسلمین اور خواص دونوں طبقوں نے کوئی بری بات نہیں معلوم کی۔ مسلمانوں کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے۔ اور مسلمانوں کے حکام ان میں انصاف کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔

تاحال عمارؓ مصر سے واپس نہ ہوئے تھے۔ اس تاخیر کو لوگوں نے محسوس کیا۔ آخر کیا بات ہے؟ کسی عارضہ میں عمارؓ مبتلا تو نہیں ہو گئے؟ یہی انتظار اور پریشانی کا عالم تھا کہ

ناگہاں عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کا مصر سے خط پہنچا۔ اس میں اطلاع درج تھی کہ مصر میں ایک قوم (یعنی معترضین و مخالفین عثمانؓ تھی) جس نے عمار کو رہلا پھسلا کر اپنی باتوں کی طرف مائل کر لیا ہے۔ اور عمار کے پاس وہ جمع ہوتے ہیں ان کے نام یہ ہیں :- عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، خالد بن ملجم، سوڈان بن حمران، کنانہ بن بشر (وغیرہ)۔

— ان تبعث رجالاً ممن تثق الی الامصار حتی یرجعوا الیک باخبارهم فدعا محمد بن مسلمة فارسله الی الکوفة وارسل اسامة بن زید الی البصرة وارسل عبد اللہ بن عمر الی الشام وفرق رجالاً سواہم فرجعوا جميعاً قبل عمار فقالوا ایھا الناس! ما انکرنا شیئاً ولا انکرہ اعلام المسلمین ولا عوامہم وقالوا جميعاً الامرا المسلمین الا ان امرائهم یقسطون بینہم ویقومون علیہم واستبطنوا الناس عماراً حتی ظنوا انه قد اغتیل فلم یفجأہم الا کتاب من عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح یخبرہم ان عمار قد استمالہ قوم بمصر وقد انقطعوا الیہ منهم عبد اللہ بن سوڈان وخالد بن ملجم وسوڈان بن حمران وکنانہ بن بشر۔

(تاریخ طبری، ج ۵، ص ۹۹ تحت ۳۵ھ)

ذکر مسیر من سار الی ذی خشب من اہل مصر الخ)

ارسال وفود کا مذکورہ واقعہ تاریخ ابن خلدون میں بھی مذکور ہے۔ اس کی عبارت اور ترجمہ دینے میں تطویل ہوتی ہے۔ اس بناء پر صرف حوالہ کتاب درج ہے، رجوع فرما کر تصدیق کریں۔ (تاریخ ابن خلدون (عبدالرحمن بن خلدون

المغربی)، ج ۲، ص ۱۰۲۴ تحت بدأ الانقراض علی

عثمان - طبع بیروت لبنان)

مندرجہ بالا اطلاع کے ذریعے یہ مسئلہ صاف ہو گیا کہ عثمانی خلافت کے ایام میں مندرجہ  
 نہیں تھے اور عوام و خواص اس دور میں کوئی بُرائی نہیں دیکھتے تھے۔ یہ سارا نظام دین  
 اور شریعت کے ماتحت تھا یعنی اسلامی نظام رائج تھا اور لوگوں میں انصاف قائم کیا  
 جاتا تھا۔ اور اس دور کے عمال و حکام ظالم اور جائز نہیں تھے بلکہ اچھے لوگ تھے اور  
 عوام کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔

یہاں توجہ کے لائق یہ چیز ہے کہ ملک میں انتظامی شکایت  
**قاعدہ لاکٹر حکم الکل** | معلوم کرنے کی خاطر متعدد وفود (مشتل براکابری صائبہ)  
 ارسال کیے گئے تو سوائے ایک عمار بن یاسر کے سب کی واپسی رپورٹ یہ ہے کہ  
 ملک کے معاملات سب ٹھیک چل رہے ہیں۔ ملکی نظام رعایا کے حق میں درست ہے  
 مظالم نہیں ہو رہے بلکہ عدل و انصاف قائم ہے۔ پس عام قاعدہ یہ ہے (لاکٹر  
 حکم الکل)۔

تو اس مقام میں بھی یہی صورت صحیح ہے جو سب حضرات نے آکر بیان کی ہے۔  
 مخالفین عثمان کی باتوں سے عمار بن یاسر کے متاثر ہونے کی کئی وجوہ ہو سکتی ہیں۔  
 لہذا اکثر حضرات کی اطلاع کو صحیح سمجھا جائے گا اور ایک شخص کی رائے کو منفرد  
 رائے کا درجہ دیا جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن عمر کے  
**عثمانی دور کی کیفیت کے متعلق سالم بن عبداللہ کا بیان** | صاحبزادے سالم بن عبداللہ

دور عثمانی کی کیفیت کو اپنے مندرجہ ذیل بیان میں پیش کرتے ہیں وہ ملاحظہ کریں چنانچہ  
 فرماتے ہیں کہ :

”حضرت عثمان جب سے خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے تھے، آخری حج  
 کے بغیر تمام سالوں میں انہوں نے خود حج کرائے۔ . . . . (ان کے دور میں)

لوگ امن و امان میں تھے۔ حضرت عثمانؓ کی طرف سے حکام اور کارندوں کو حکم لکھ کر ارسال کیا جاتا اور جن لوگوں کو ان کے متعلق کوئی شکایت ہوتی ان کو بھی لکھ دیا جاتا کہ دونوں فریق ہر سال حج کے موقع پر حاضر ہوں (تاکہ شکوہ شکایات سن کر ان کا ازالہ کیا جاسکے) اور شہروں میں لوگوں کی طرف حضرت عثمانؓ تحریری فرمان ارسال کر دیتے کہ نیکی کا حکم کیا کرو، اور برائی سے باز رہو۔

اور کوئی مسلمان اپنے آپ کو ذلیل و عاجز نہ سمجھے۔ میں قوی شخص کے مقابلے میں ضعیف آدمی کے ساتھ ہوں جب تک وہ مظلوم ہے۔  
ان شاء اللہ تعالیٰ۔

لوگوں کی یہی حالت رہی اور اسی حالت پر قائم تھے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اس طریق کار کو تفریق امت کا ذریعہ اور افتراق قوم کا وسیلہ بنایا۔ (یعنی جاوبے جا اعتراض کھڑے کر کے اختلافات کی راہ پیدا کر لی)۔  
”..... عن سالم بن عبد اللہ قال لما ولی عثمان حج سنوا تہ  
کلھا الا آخر حجة.....“

..... وامن الناس وکتب فی الامصار ان یوافیہ العمال فی کل موسم ومن یشکوہم وکتب الی الناس الی الامصار ان اتمروا بالمعروف وتناہوا عن المنکر ولا یذل المؤمن نفسه فانی مع الضعیف علی القوی مادام مظلوماً ان شاء اللہ۔  
فکان الناس بذالک فحری ذالک الی ان اتخذوا اقوام  
وسیلة الی تفریق الامة“

(تاریخ طبری، ج ۵، ص ۱۳۴۔ تحت ۳۵۰ ذکر  
بعض سیر عثمان رضی اللہ عنہ)

اور البدایہ میں یہ مضمون مختصراً بالفاظ ذیل مذکور ہے :-

”..... یلزم عمالہ بحضور الموسم کل عام ویکتب الی الرعایا

من کانت له عند احد منهم مظلمة فلیوات الی الموسم فانی

آخذله حقه من عامله..... الخ :-

البدایہ لابن کثیر، ج ۷، ص ۲۱۸ تحت فصل

ومن مناقبه الکبار وحسناته العظيمة... الخ (

عبداللہ بن الزبیر اس دور کے معتد و مقبر

حضرت عبداللہ بن الزبیر کا بیان لوگوں میں سے ہیں ان کی زبانی عثمانی

دور کا نقشہ مصنفین نے نقل کیا ہے۔ ناظرین کرام اب اس کو ملاحظہ فرمادیں۔

— عبداللہ موسوت کے دور خلافت میں خارجیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ

عنه پر اعتراضات کیے یہ وہی اعتراضات تھے جو سبائی زہنیت والے لوگوں نے

حضرت عثمان پر تجویز کیے ہوئے تھے، ان کے جواب میں عبداللہ بن الزبیر نے

حضرت عثمان کی دیانت، صداقت، حسن کردار، اور حسن عمل کی خوب صفائی پیش

کی جو ذیل میں نقل کی جاتی ہے۔

”..... فسألوه عن عثمان فاجابهم فیه بما یستوهم

و ذکر لهم ما کان متصفاً به من الایمان والتصدیق والعدل

والاحسان والسیرة المحسنة والرجوع الی الحق اذا تبین له

فعند ذالک نفروا عنه وفارقوه“

البدایہ لابن کثیر، ج ۸، ص ۲۳۹ تحت امارۃ

عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما (

یعنی خارجیوں نے ابن زبیر سے عثمان کے کردار و عمل کے متعلق سوالات کیے

ابن زبیرؓ نے جو جوابات ذکر کیے وہ ان کو ناگوار اور بُرے معلوم ہوئے۔ ابن زبیرؓ نے ان کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت عثمانؓ ایمان و تصدیق کے ساتھ متصف تھے، صاحبِ عدل و انصاف تھے۔ احسان و اکرام ان کی صفت تھی، عمدہ اخلاق و کردار کے مالک تھے، حق بات کو قبول کرنے والے تھے جب بھی حق سامنے آتا جب عثمانی سیرت کا یہ نقشہ انہوں نے سنا تو ابن الزبیرؓ سے متنفر ہو گئے اور ابن الزبیرؓ کو چھوڑ کر الگ ہو گئے اس لیے کہ سبائیوں کی طرح خارجی بھی عثمانؓ کے خلاف تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر ابن زبیرؓ ان کی رائے کے موافق رہے تو ساتھ دینگے ورنہ تعاون چھوڑ دیں گے۔

— مؤرخ ابن جریر طبری نے ۶۳ھ کے تحت جلد سابع میں واقعہ ہذا کو بڑا مفصل لکھا ہے مگر ہم نے اختصار کے پیش نظر الہدایہ کے حوالہ پر اکتفا کیا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ سالم بن عبداللہؓ اور ابن زبیرؓ سردو کے بیانات نے واضح کر دیا کہ وفد کی مذکورہ بالا رپورٹ جو حضرت عثمانؓ کے عہد میں صحابہ کرامؓ نے لاکر پیش کی تھی وہ صحیح تھی اور عہدِ عثمانؓ میں دینی و ملکی انتظامات درست تھے۔ انصاف قائم تھا اور عوام میں قبائلی عصبیت کی وجہ سے کسی قسم کی پریشانی اور بے چینی ہرگز موجود نہیں تھی۔

(۳)

مذکورہ بالا مندرجات کے ذریعے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ حضرت عثمانؓ کے دور میں دینی و انتظامی معاملات درست تھے اور اکثر و بیشتر اوقات میں کسی قسم کی خرابی واقع نہیں تھی۔ لیکن اس دور کے آخری ایام میں جس قسم کے تغیرات پیدا ہوئے ان کی ایک خاص نوعیت تھی اور ان کے دواعی و اسباب مخصوص قسم کے تھے۔

آغاز تغیرات | دورِ نبوت سے لے کر اب تک بے شمار قومیں دائرہ اسلام

میں داخل ہوئیں اور اسلام کا ہر دور میں بول بالا ہوتا گیا۔ اللہ کا کلمہ تمام ممالک پر غالب آگیا۔ تمام اقوام نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ غلبہ اسلام کو روکنے کے لیے کسی قوم کو حرات نہ ہی۔ تمام مذاہب شریعت اسلامیہ کا حکم تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔

اس صورت میں جن اقوام کو اسلام کے ساتھ خاص عداوت اور دشمنی تھی وہ ظاہر میں اسلام کے غلبہ کو روکنے کے لیے دسترس نہیں رکھتی تھیں۔ انہوں نے اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کا دوسرا راستہ اختیار کیا، وہ یہ تھا کہ درپردہ اسلام میں باہمی اختلافات کی سکیم چلائی جاتے۔ ظاہر میں اسلام کی خیر خواہی اور اسلام پرستی کا دعویٰ قائم رکھا جاتے۔ زبان پر دین اسلام کی محبت و اطاعت ظاہر جاری رہے اور باطن میں اسلام و اہل اسلام کے ساتھ عناد و نفاق کے سلسلہ کو چلایا جاتے۔ یہ اسلام میں افتراق پیدا کرنے کی گہری سازش تھی جو درپردہ شروع کی گئی۔

ان لوگوں نے عثمانی خلافت کے آخری ایام میں حسد و عناد پیش نظر تھا | عناد کی بنا پر حضرت عثمانؓ کی مخالفت کی تھی۔

ہم یہاں پہلے حاسدین کے حسد پر حضرت علی المرتضیٰؓ و دیگر علماء کے بیانات ذکر کرتے ہیں اس کے بعد اس بات کو واضح کریں گے کہ حسد و عناد کرنے والے اور شرفساد اٹھانے والے کون لوگ تھے؟ جنہوں نے منافقانہ طور پر تحریک چلائی اور قتل عثمان تک نوبت پہنچا دی۔

حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد ایک موقع پر حضرت حضرت علیؓ کا ارشاد | علی المرتضیٰؓ کی خدمت میں بطور سوال یہ بات پیش کی گئی کہ حضرت عثمانؓ کے قاتلین کو قتل عثمانؓ پر کس چیز نے برا لگختہ کیا تھا؟ تو حضرت علیؓ نے جواب میں فرمایا کہ "حسد" نے انہیں اس کام پر آمادہ کیا۔

چنانچہ فرمان ہذا کو امام احمدؒ نے "کتاب السنہ" میں بالفاظ ذیل باسند

نقل کیا ہے :-

..... عن مضارب بن حزون قال قيل لعلي بن ابي طالب

ما حملم علي قتل عثمان؟ قال الحسد

(کتاب السنہ لامام احمد، ص ۱۹۷ طبع

مکہ المکرّمہ - سن طباعت ۱۳۲۹ھ)

(۲) — اسی طرح تاریخ طبری، جلد پنجم میں ۳۶ھ کے تحت حضرت علی المرتضیٰ کا

ایک خطبہ منقول ہے جس میں حضرت علیؑ نے بعض لوگوں کے اس موقع پر حسد و

عناد کرنے کے معاملہ کو ذرا وضاحت سے بیان فرمایا ہے چنانچہ لکھا ہے کہ

» حضرت علیؑ نے خطبہ دیا۔ حمد و ثنا کی، صلوة اور سلام کہا۔ پھر جاہلیت

کے دور اور اس کی شقاوت کا ذکر کیا اور مذہب اسلام پھر اس کی

سعادت کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس خاص انعام کا ذکر

کیا جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک خلیفہ پر تمام امت

کے مجتمع ہونے کی صورت میں فرمایا ہے پھر اس کے بعد دوسرے خلیفہ

کے دور کا، پھر اس کے بعد تیسرے خلیفہ یعنی حضرت عثمانؓ کے دور کا ذکر

فرمایا۔ پھر ان حوادث اور مصائب کا ذکر کیا جن کو امت پر بعض اقوام

پھینچ کر لائیں اور لا کر کھڑا کر دیا ہے۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ یہ اقوام دنیا کی طالب ہیں۔ انہوں نے اس

فضیلت پر حسد کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر لوٹائی تھی۔ امت

کو جو چیزیں فضل و کمال کی حاصل ہوتی ہیں، انہ راہ حسد ان کو پس

پشت ڈال دینے کا ان لوگوں نے ارادہ کر رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے اور جو ارادہ وہ فرماتے



اس کی وہ تکمیل کرنے والا ہے۔

..... ” فحمد الله عز وجل واشتق عليه وصلى على النبي صلى

الله عليه وسلم وذكر الجاهلية وشتقاها والاسلام والسعادة  
وانعام الله على الامّة بالجماعة بالخليفة بعد رسول الله صلى  
الله عليه وسلم ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم حدث هذا  
المحدث الذي حبره على هذه الامّة اقوام طلبوا هذه الدنيا  
حسدوا من افعالها الله عليه على الفضيلة وارادوا رد الاشياء  
على ادبارها والله بالغ امره ومصيب ما اراد... الخ ”

(تاریخ طبری، ج ۵، ص ۱۹۴ تحت ۳۶)

تحت عنوان نزول امیر المؤمنین زقار)

ابن العربی نے اپنی مشہور کتاب العواصم

قاسمی ابوبکر ابن العربی کا قول | میں اس موقع پر حضرت عثمان کے خلاف

شورش کھڑا کرنے والوں کی پوزیشن درج کی ہے :-

” وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کے خلاف ایک قوم عناد و کینہ کی

بنا پر جمع ہوئی، اس قوم نے یہ اپنا نظریہ بنا رکھا تھا۔ وہ ایسے لوگ تھے

کہ جنہوں نے ایک مقصد حاصل کرنا چاہا مگر وہ اس کی طرف نہیں پہنچ

سکے اور وہ لوگ حسد کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی حسد کی بیماری

کو ظاہر کیا اور ان چیزوں پر ان لوگوں کو اپنے دین کی قلت اور یقین

کے ضعف نے اٹھایا تھا اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے نے اس پر

برا نگہتہ کیا۔“

..... ” وتألّب عليه قوم لاحقاد اعتقدوا من طلب

امراً فلم یصل الیہ وحسد حسادۃ اظہر دأھا وحملہ علی  
ذالک قلۃ دینٍ وضعف یقینٍ وایثار العاجلۃ علی الآجلۃ ۛ

العواصم من القواصم، ص ۱۱۱ طبع لاہور  
تحت جرابات مطاعن عثمانی

شرفِ فساد کھڑا کر نیوالے کون لوگ تھے؟

مذکورہ مندرجات نے وضاحت کر دی ہے کہ اسلام و اہل اسلام کے

ساتھ خاص حسد و عناد رکھنے والی بعض قومیں تھیں جنہوں نے تمام شر و فساد کھڑا کرنے کی سکیم تیار کی اور مرکز اسلام یعنی خلیفۃ المسلمین حضرت عثمانؓ پر حملہ کر کے اسلام میں پھوٹ ڈالنے کی سازش کی۔

اب ناظرین کی خدمت میں یہ تشریح پیش کی جاتی ہے کہ تمام سکیم تیار کرنے والے اور اس کو چلانے والے کون لوگ تھے؟ کیا تاریخ ان کی کوئی نشاندہی کرتی ہے یا ان کا تعین کرنے میں کوئی رہنمائی کتبِ تاریخ سے حاصل ہوتی ہے؟ تو اس کے متعلق عرض ہے کہ شیعہ و سنی مؤرخین نے اس مسئلہ کو بڑی وضاحت سے اپنی اپنی کتابوں میں حسبِ موقع درج کر دیا ہے قلیل سی محنت کرنے سے وہ مواد حاصل ہو سکتا ہے۔

ناظرین کرام کی سہولت کے لیے ہم چند حوالہ جات پیش کرتے ہیں، جن میں غور و فکر کرنے سے مسئلہ مذکورہ پوری طرح صاف ہو کر نظر آئے گا۔

اس کا اجمالی نقشہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ الاسلام کا یہ مسئلہ عبداللہ بن سبا (یہودی) نو مسلم نے اٹھایا۔ اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مختلف مقامات پر مختلف قوموں میں اپنے پروگرام کا پرچار کیا۔ لوگوں کو اپنا ہمنا بنایا۔ اس کی منافقانہ چالوں اور دام ترویر میں جو لوگ آگئے ان کو آمادہ کر کے خلیفہ اسلام پر وار کرنے کے لیے

مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی۔ مرکز اسلام پر حملہ کر کے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کیا۔ اس طرح اہل اسلام میں افتراق و انتشار کا باب ہمیشہ کے لیے مفتوح کر دیا۔

حافظ ابن کثیر نے مسئلہ نذا کو مندرجہ

ذیل شکل میں پیش کیا ہے۔ فرماتے

ہیں کہ :-

عبداللہ بن سبا کی ابتدائی کارگزاری  
اور بنیادی طریق کار :-

حضرت عثمانؓ کے خلاف جو جماعتیں مذموم مقاصد کے تحت مجتمع ہو کر

آئی تھیں، اس کے پس منظر میں یہ چیز تھی کہ :

”ایک شخص یہودی (جس کو عبداللہ بن سبا کہتے تھے) بظاہر اسلام لایا پھر اس کو مصر کی طرف نکالا گیا۔ ایک مضمون جو اس نے اپنی طرف سے اختراع کر لیا تھا وہ لوگوں کی ایک جماعت کے سامنے پیش کیا۔ وہ مضمون یہ تھا کہ :-

(۱) پہلے دریافت کرنا تھا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے واپس تشریف لائیں گے؟ لوگ کہتے کہ ہاں آئیں گے۔ تو کہتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام سے یقیناً افضل ہیں تو پھر ان کے عود کر آنے سے کیوں انکار ہے؟

(۲) پھر یہ چیز پیش کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ بن ابی طالب کے حق میں وصیت کی تھی (یعنی ان کو اپنا وصی اور اپنا قائم مقام مقرر کیا تھا) پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور علی المرتضیٰ خاتم الاوصیاء ہیں۔

(۳) اس کے بعد یہ بات سامنے رکھنا کہ خلافت و امارت کے لیے حضرت عثمانؓ سے حضرت علیؓ بن ابی طالب زیادہ حق دار ہیں اور عثمانؓ

نے اپنی نڈافت کے دوران کئی قسم کی زیادتیاں کر ڈالی ہیں جو ان کے لیے مناسب نہیں تھیں۔

ابن سبا کی حامی جماعت نے حضرت عثمانؓ کے حق میں کئی چیزوں کا انکار کیا۔ اس معاملہ کو بظاہر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا رنگ دیتے ہوئے تھے۔ (اور اصلاحی شکل میں پیش کرتے تھے)

مصر وغیرہ کے بہت سے لوگ ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر فتنوں میں مبتلا ہوتے۔ ان لوگوں نے کوفہ و بصرہ کے عوام کی جماعتوں کی طرف مراسلت و خط و کتابت جاری کر رکھی تھی۔ شکایات عثمانی ان مراسلات کا موضوع ہوتا تھا۔ اس طریق سے انہوں نے لوگوں کو مخالفت عثمانی پر مجتمع کیا۔ اور کچھ لوگ حضرت عثمانؓ کی طرف بحث و جدال کرنے کے لیے مدینہ ارسال کیے۔ وہاں جا کر انہوں نے کبار صحابہ کو معزول کرنے اور اپنے رشتہ داروں کو عامل بنانے کے طعن ذکر کیے۔ اس طرح لوگوں کے قلوب میں شبہات ڈالنے کی کوشش کی۔۔۔ الخ۔“

” و ذکر سیف بن عمران سبب تائب الاحزاب علی عثمان ان رجلاً یقال له عبد اللہ بن سبا کان یهودیاً فاظہر الاسلام و صار الی مصر، فادعی الی طائفة من الناس کلاماً اختوعه من عند نفسه، مضمونہ انه یقول للرجل الیس قد ثبت ان عیسیٰ بن مریم سيعود الی هذه الدنیا؟ فیقول الرجل نعم! فیقول له فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل منه فما تنکر ان یعود الی هذا الدنیا و هو اشرف من عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ ثم یقول وقد کان اوصی الی اعلیٰ بن ابی طالب فحمد خاتم الانبیاء

و علی خاتم الاوصیاء ثم یقول فهو احق بالامرة من عثمان و عثمان  
 معتد فی ولايته ما لیس له - فانكروا علیه و اظهروا الامر  
 بالمعروف و النہی عن المنکر - فافتتن به بہر كثير من اهل  
 مصر و كتبوا الی جماعات من عوام اهل الكوفة و البصرة فمالوا  
 علی ذلك و تكاتبوا فيه و نواعدوا ان یجتمعوا فی الانكار علی  
 عثمان و ارسلوا الیه من ینظره و یذكر له ما ینقمون علیه  
 من توليته اقرباءه و ذوی رحمہ و عزلہ كبار الصحابة  
 فدخل هذا فی قلوب كثير من الناس فجمع عثمان بن عفان  
 نوابہ من الامصار فاستشارهم فاشاروا علیه بما تقدم  
 ذكرنا له فالله اعلم

(البدایہ لابن کثیر، ج ۴، ص ۱۶۷-۱۶۸ تحت ۳۳۴ھ)

اور علامہ ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں اس مقام پر  
**ابن خلدون کا بیان** عبد اللہ بن سبا کا تعارف اور اس کی کارستانیوں ذیل

میں مختصراً بیان کی ہیں۔

(۱) — اس دور کے شہری اور فسادی عنصر میں ایک شخص عبد اللہ بن سبا تھا

جو ابن السوداء کے نام سے معروف تھا۔ (السوداء اس کی ماں کا نام تھا)۔

(۲) — یہ یہودی نسل سے تھا حضرت عثمان کے دور میں ظاہراً اسلام لایا لیکن

اس کا اسلام لانا صحیح نہیں تھا (اس کی منافقانہ چال تھی)

(۳) — (اپنے کردار کی وجہ سے) بصرہ سے نکال دیا گیا پھر کوفہ میں داخل ہوا

پھر وہاں سے شام چلا گیا۔ شام سے بھی اسے نکالا گیا۔ پھر مصر میں داخل ہوا۔

(۴) — حضرت عثمان پر یہ بہت طعن کیا کرتا تھا اور درپردہ حضرت علیؑ و اولاد علیؑ

کے لیے لوگوں کو دعوت دیتا تھا۔

(۵) — اور لوگوں کو کہتا تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح واپس اس دنیا میں تشریف لائیں گے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے۔ یہاں سے اہل رجعت کے نزدیک رجعت کا مسئلہ لیا گیا۔

(۶) — اور کہتا کہ حضرت علیؑ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں لیکن وصیت کو پورا نہیں کیا گیا۔ (یعنی ان کا حق غصب کیا گیا ہے)۔

(۷) — حضرت عثمان بن عفان نے خلافت کو ناجی طور پر لے لیا ہے۔ لوگوں کو اس مسئلہ پر براہ کجیختہ کیا کرتا تھا۔

(۸) — حکام و عمال عثمانی پر کئی قسم کے طعن پیدا کر کے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا تھا اور مختلف شہروں کی طرف خط و کتابت کر کے اس چیز کا پروپیگنڈا کرتا تھا۔ اس کام میں ابن سبا کے ساتھ مندرجہ ذیل ساتھی تھے۔

خالد بن ولید - سودان بن حمران - کنانہ بن بشر - ان ہی لوگوں نے حضرت عمار کو مدینہ واپس ہونے سے روک رکھا تھا۔

” منہم عبد اللہ بن سبا و یعرف باین السوداء کان یهودیاً  
وہا جر ایام عثمان فلم یحسن اسلامہ و اخرج من البصرۃ فلحق  
بالکوفۃ ثم الشام و اخرجوہ فلحق بمصر و کان یکتال طعن علی  
عثمان و یدعو فی السور لاهل البیت و یقول ان محمداً یرجع کما  
یرجع عیسیٰ و عنہ اخذ ذلک اهل الرجعة و ان علیاً وصی رسول  
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث لم یجز وصیتہ و ان عثمان اخذ  
الامر بغير حق و یحرض الناس علی القیام فی ذلک و الطعن علی  
الامراء فاستمال الناس بذالک فی الامصار و کتب بہ بعضهم



اول وہ شخص تھا جس نے حضرت علیؑ کی امامت کے فرض ہونے کا دعویٰ کیا اور حضرت علیؑ کے مخالفین سے براءت کرنے کو ضروری قرار دیا (یعنی تبریٰ کرنے کو لازم ٹھہرایا) پس اسی وجہ سے شیعہ کے مخالف لوگوں نے یہ قول کیا ہے کہ تشلیح اور رفض کا اصل سرچشمہ یہودیت ہے۔

تیسری صدی کے علامہ نوبختی نے لکھا ہے کہ

”..... وحكى جماعة من اهل العلم من اصحاب علي عليه السلام ان عبد الله بن سبا كان يهودياً فاسلم ووالى علي عليه السلام وكان يقول وهو علي يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة فقال في اسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام بمثل ذلك وهو اول من اشهر القول بفرض امامة علي عليه السلام واظهر البرائة من اعدائه وكاشف مخالفيه فمن هناك قال من خالف الشيعة ان اصل الرفض ما خوذ من اليهودية... الخ“

دفرق الشيعة لابى محمد حسن بن موسى النوبختى، ص ۴۲۔

طبع نجف اشرف (من علماء قرن الثالث) تحت

الفرقة السبائية

چوتھی صدی کے علامہ ابو عمرو الکشی نے لکھا ہے کہ

” ذکر بعض اهل العلم ان عبد الله بن سبا كان يهودياً فاسلم ووالى علياً عليه السلام وكان يقول وهو علي يهوديته في يوشع بن نون وصى موسى بالغلو فقال في اسلامه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام مثل ذلك وكان اول“



من اشهر بالقول بفرض امامة علي و اظهر البرائة من اعدائه  
وكاشف مخالفيه واكفرهم فمن ههنا قال من خالف الشيعة  
اصل التشيع والرفض ماخوذ من اليهودية :-

- (۱) — رجال کشتی (من علماء القرن الرابع)، ص ۱۱۔  
طبع بمبئی، تحت تذکرہ عبد اللہ بن سبا۔
- (۲) — تنقیح المقال للشیخ عبد اللہ المامقانی، ج ۲، ص ۱۸۴۔  
تحت عبد اللہ بن سبا۔ طبع نجف اشرف (عراق)۔
- (۳) — تحفة الاحباب شیخ عباس قمی، ص ۱۸۴۔ تحت  
عبد اللہ بن سبا۔ طبع طهران۔

## حاصل کلام

عثمانی خلافت کے آخری ایام میں ابن سبا کی یہ منافقانہ تحریک اہل اسلام میں اختلاف  
ڈالنے کے لیے چلائی گئی تھی اور ابن سبا نے مختلف علاقوں میں اپنے ہممنوا اثر سید  
افراد پیدا کر لیے تھے جو حضرت عثمانؓ پر اعتراضات کرتے اور ان کے عمال کی  
زیادتیاں شمار کرتے تھے۔ یہ لوگ مشورہ کے ساتھ کوفہ سے بصرہ سے اور  
مصر سے چڑھائی کر کے مدینہ پر آتے تھے اور حضرت عثمانؓ کے مکان کا محاصرہ کر لیا  
تھا۔ اہل مصر کا سرگروہ عبد الرحمن بن عدیس البلوئی تھا۔ بصرہ لوں کا لیڈر حکیم بن جبلة  
العبدی تھا اور اہل کوفہ کی پارٹی کا سربراہ مالک بن حارث الاثتر النخعی تھا۔  
چنانچہ خلیفہ ابن خیاط لکھتے ہیں :-

« قال ابو الحسن قدم اهل مصر عليهم عبد الرحمن بن

عدیس البلوئی و اهل البصرة عليهم حکیم بن جبلة العبدی و

اهل الكوفة فيهم الاشر مالك بن الحارث النخعي المدينة  
 في امر عثمان فكان مقدم المصريين ليلة الاربعاء هلال  
 ذى قعدة... الخ

(تاریخ نلیفہ ابن خیاط، جزا، ص ۱۴۵۔)

تحت سنة ۳۵ (الفتنة زمن عثمان)

پہلے کچھ ایام ان لوگوں نے محاصرہ عثمانی کیے رکھا۔ اس دوران مختلف  
 مطالبات حضرت عثمانؓ سے منوانے کے لیے جیلے اور بہانے بنائے رکھے لیکن  
 اصلی مقصد چونکہ دوسرا تھا یعنی اسلام کے مرکز کو ختم کرنا مقصود تھا) اس لیے  
 مطالبات تسلیم ہونے پر بھی وہ کسی صورت میں مطمئن اور راضی نہیں ہوتے تھے۔  
 آخر کار انہوں نے اپنے مذموم مقصد کی طرف اقدام کیا اور مرکز اسلام و خلیفۃ  
 المسلمین) کو موقع پا کر شہید کر ڈالا حضرت عثمانؓ کی حفاظت کرنے والے حضرات  
 کو بعد میں علم ہوا جبکہ وہ اپنا سلب پورا کر چکے تھے۔

— (۴) —

## مدافعت عثمانی میں اہل مدینہ

### اور صحابہ کرام کا کردار

جب یہ اشرار اپنے مقاصد کے پیش نظر اپنے اپنے مراکز سے مدینہ شریف  
 کی طرف روانہ ہوتے تو وہاں یہ ارادہ ظاہر کرتے تھے کہ مدینہ کے راستہ سے  
 حج کو جائیں گے۔

کوفہ، بصرہ اور مصر سے یہ لوگ ایک کثیر تعداد میں پہنچے تھے اور یہاں مدینہ

حوالی مدینہ میں پہنچنے کے بعد یہ ظاہر کرتے تھے کہ خلیفۃ المسلمین اور ان کے حکام سے چند شکایات ہیں ان کا ازالہ کرنا مطلوب ہے۔ اس مقام میں ناظرین کرام اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ بہت سے اہل اسلام مدینہ اور غیر مدینہ سے مختلف ممالک میں پہنچ کر جنگی مہموں میں مصروف تھے اور کچھ لوگ اہل مدینہ میں سے حج کو چلے گئے تھے اور باقی صحابہ کرام اور اہل مدینہ ابتدائی مراحل میں ان باغیوں اور حضرت عثمانؓ کے درمیان ازالہ شکایات کے سلسلہ میں مسماعی کرتے رہے۔ بقول مؤرخین حضرت عثمانؓ نے ان میں سے جائز چیزوں کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے اعتراضات کا ازالہ کر دیا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے پُرفتن مقاصد میں کچھ کمی نہ کی اور روز بروز ان کی گرفت بڑھتی گئی اور عثمانی محاصرہ شدید ہونا گیا

جب بگڑے ہوئے یہ حالات صحابہؓ کے سامنے آئے تو اس وقت حضرت عثمانؓ کی خدمت میں متعدد بار صحابہ کرام اور اہل مدینہ حاضر ہوئے اور اجازت پاپی کہ ان مفسدین کے شر کو دور کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے اور ہتھیار سنبھالنے کی اجازت بخشی جائے۔

چنانچہ اختصار کے پیش نظر اس پر مندرجہ ذیل حوالہ جات پیش خدمت ہیں۔  
مسعب الزبیری کتاب نسب قریش میں لکھتے ہیں کہ:

”لوگ (صحابہ کرام اور اہل مدینہ) حضرت عثمانؓ کی طرف کھڑے ہو کر آئے اور کہنے لگے کہ مسئلہ ہذا (یعنی اختلاف بین الفرقین) میں ہمیں بصیرت حاصل ہوگئی ہے۔ اب آپ ہمیں باغیوں کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت عثمانؓ نے جواب میں فرمایا کہ جن لوگوں پر میری تابعداری لازم ہے ان کو میں قسم دے کر کہتا ہوں کہ میرے لیے قتال نہ کریں“

”... فقام الناس الى عثمان فقالوا قد امكنتنا البصائر فاذن

لنا في الجهاد قال ابو حبيبة قال عثمان عزمتم علي من كانت لي

عليه طاعة ان لا يقاتل“

(۱) — کتاب نسب قریش، ص ۳۰۳۔ تحت ولد ابی العاص۔

(۲) — تاریخ الاسلام للذہبی، ج ۲۔ ص ۱۳۳ تحت ۳۵۳

حافظ ابن کثیر البدایہ میں کہتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ نے باغیوں کو سختی سے منع کیا اور روکا تو معاملہ میں تلخی اور شدت پیدا ہو گئی۔ حضرت عثمانؓ نے لوگوں پر قسم دے کر حکم دیا کہ اپنے ہاتھوں کو قتال سے روک لیں اور اپنے ہتھیاروں کو نیام میں کر لیں۔ چنانچہ لوگوں نے اس فرمان پر عمل کیا۔ اس بنا پر باغیوں نے اپنے ارادے پر قدرت پالی۔ بایں ہمہ اہل مدینہ میں سے کوئی شخص بھی یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ حضرت عثمانؓ کو قتل کر دیا جائے گا۔

”..... وعزم عثمان على الناس ان يكفوا ايديهم ويغمدوا

اسلحتهم ففعلوا فتمكن اولئك مما ارادوا ومع هذا ما ظن احد

من الناس انه يقتل بالكلية“

البدایہ لابن کثیر، ج ۷، ص ۱۹۷۔ فصل ان قال

قائل کیف وقع قتل عثمان... الخ“

— اسلام کا قاعدہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین کی اطاعت اور فرمانبرداری واجب

ہوتی ہے۔ اس قاعدہ کی بنا پر صحابہ کرامؓ نے مدافعت کے سلسلہ میں خلیفہ کے اذن کے

بغیر کوئی اقدام نہیں کیا۔ اسی سلسلہ میں اب خلیفہ سے طلب اجازت کے چند واقعات

درج کیے جاتے ہیں۔

(۱) — حضرت زید بن ثابتؓ نے

اس موقع پر حضرت عثمانؓ کی خدمت میں

عرض کیا کہ یہ انصار لوگ دروازے پر

مدافعت کی اجازت طلب  
کرنے والے اشخاص

موجود ہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم دوبار اللہ کے انصار بنیں۔

یعنی ایک دفعہ پہلے دین کی نصرت کر چکے ہیں۔ اب دوسری بار ہم اللہ کے دین

کی نصرت کرنے کو تیار ہیں) تو حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی حاجت

نہیں ہے۔ تم قتال سے رُک جاؤ۔

”ان زید بن ثابت قال لعثمان هؤلاء الانصار بالباب يقولون

ان شئت كنا انصار الله مرتين فقال لا حاجة لي في ذلك كفوا“

(۱) — تاریخ خلیفہ ابن خیاط، جز اول، ص ۱۵۱ تحت

۳۵ھ۔ الفتنۃ زمن عثمانؓ۔

(۲) — طبقات ابن سعد، ج ۳، ص ۴۸ تحت ذکر

ما قبل لعثمانؓ فی الخلع۔

(۲) — حضرت عبداللہ بن عمرؓ محاصرہ کے دنوں میں تلوار لگا کر حضرت عثمانؓ کی

خدمت میں مدافعت کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت عثمانؓ نے ابن عمرؓ کو قسم لے

دی کہ آپ واپس چلے جائیں۔ خدا نخواستہ آپ کہیں اس فتنہ میں قتل نہ کیے

جائیں۔

”ان ابن عمر کان یومئذ متقلداً سیفہ حتی عزم علیہ

عثمانؓ ان یخرج مخافة ان یقتل“

تاریخ خلیفہ ابن خیاط، ج ۱، ص ۱۵۱۔

تحت ۳۵ھ۔ الفتنۃ زمن عثمانؓ

(۳) — اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ ہتھیار بند ہو کر حضرت عثمانؓ کی خدمت میں مدافعت کے لیے حاضر ہوئے اور آکر مدافعت کرنے کی اجازت چاہی تو حضرت عثمانؓ نے ان کو بھی منع کر دیا۔

”عن قتادة ان ابا هريرة كان متقلدا سيفه حتى نهاه

عثمانؓ“

(۱) — تاریخ خلیفہ ابن خیاطہ ج ۱، ص ۱۵۱ تحت

شک ۳۵۔ الفتنہ زمن عثمانؓ۔

(۲) — طبقات ابن سعد، ج ۳، ص ۲۸-۲۹ تحت

ذکر ما قبل لعثمان فی الخلع۔

(۳) — کتاب السنن لسعید ابن منصور، ص ۳۶۲۔

القسم الثانی من مجلد الثالث، طبع مجلس علمی۔

کراچی و ڈابھیل۔

(۴) — اور ایک صحابی سلیط ابن سلیط ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمانؓ کی خدمت میں

حاضر ہو کر فتنہ ہذا کے دوران باغیوں سے قتال کرنے کی اجازت چاہی تو حضرت عثمانؓ نے ان کو بھی ہاتھ اٹھانے سے منع کر دیا۔

حضرت سلیط فرماتے تھے کہ اگر سیدنا عثمانؓ ہمیں باغیوں سے قتال کرنے

کی اجازت فرماتے تو ہم ان کو مار بھگانے حتیٰ کہ ان علاقوں سے ہی انہیں

نکال دیتے۔

”عن محمد بن سيرين قال قال سليط بن سليط نهانا عثمانؓ

عن قتالهم ولو اذن لنا لضربناهم حتى نخرجهم من اقطارها“

تاریخ خلیفہ ابن خیاطہ، ص ۱۵۰، ج ۱ تحت شک ۳۵۔

الفتنة زمن عثمانؓ

## تاریخ شہادت عثمانؓ اور قاتلین کے اسماء

مؤرخین نے لکھا ہے کہ  
حضرت امیر المؤمنین عثمانؓ

کو سرکشوں اور ظالموں نے (۳۵ھ میں) ۱۸ ذوالحجہ کو بروز جمعہ (بعد العصر) بیدوی سے اپنے مکان میں شہید کر دیا۔ (ترجمہ)۔ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے قریب یہ مکان واقع تھا۔

— قاتلین میں ایک شخص سودان بن حمران ہے، اسی کو اسود بن حمران کے نام سے بھی لکھتے ہیں۔ دوسرا شخص رومان الیمانی ہے جو بنی اسد بن خزیمہ کے قبیلہ سے تھا اور بھی بعض لوگوں مثلاً رکنان بن بشر وغیرہ) کا نام قاتلین عثمانؓ میں شمار کیا کرتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے ذیل مقامات کی طرف رجوع کریں۔

(۱) تاریخ خلیفہ بن خیاط، ج ۱، ص ۵۳ تحت ۳۵ھ

(۲) البدایہ لابن کثیر، ج ۲، ص ۱۸۵ تحت صنفہ قتلہ۔

(۳) البدایہ لابن کثیر، ج ۲، ص ۱۹۰ فصل

(کانت مدة حصار عثمان فی دارہ)

سیدنا عثمانؓ کے جنازہ کا مسئلہ قبل ازیں

”رحماء بینہم“ حصہ سوم عثمانی باب پنجم

تحت عنوان جنازہ عثمانی و دفن وغیرہ

## حضرت عثمانؓ کا جنازہ، پھر تجہیز و تکفین و تدفین میں تعجیل

کے لکھا گیا تھا تاہم یہاں بھی اس مسئلہ کو مختصراً درج کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی تدفین کی تعجیل بھی ذکر کی جاتی ہے۔ مندرجہ ذیل حوالہ جات کے ذریعہ یہ طعن زائل ہو جائے گا کہ حضرت عثمانؓ تین روز تک بے گور و کفن پڑے رہے تھے۔

(۱)

امام احمد نے مسند احمد میں باسند روایت درج کی ہے کہ مشہور صحابی حضرت

زبیر بن العوام نے حضرت عثمانؓ کا جنازہ پڑھایا اور دفن کیا:

..... عن قتادة قال صلى الزبير على عثمان رضي الله عنه

ودفنه... الخ:

رُسنَد احمد، ج ۱، ص ۴، تحت مسندات عثمان

واخبار عثمان - طبع اول مصری،

(۲)

قدیم مؤرخین (مصعب الزبیری وغیرہ) نے اس موقعہ کے واقعات میں تحریر کیا ہے کہ عثمانؓ اس دن روزہ دار تھے۔ جمعہ کے روز وہ شہید کیے گئے اور سہفتہ کی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں جنازہ پڑھنے کے بعد انہیں دفن کیا گیا۔

..... وكان يومئذ صائماً ودفن ليلة السبت بين المغرب

والعشاء:

کتاب نسب قریش لمصعب الزبیری، ص ۱۰۱۔

تحت ولد ابی العاصی بن امیہ

(۳)

— نیاز بن مکرم الاسلمی جو واقعہ شہادت کے موقعہ پر موجود تھے، حضرت

امیر معاویہؓ کی خدمت میں ان حالات کی تفصیل بیان کرتے وقت ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے

حضرت عثمانؓ کا جنازہ دفن کے لیے اٹھایا۔ یہ سہفتہ کی شب تھی مغرب و عشاء کا درمیانی

وقت تھا۔

..... حملناہ رحمه الله ليلة السبت بين المغرب و

طبقات لابن سعد، ج ۳، ص ۴۵، القسم الاول، تحت

العشاء... الخ:

ذکر من دفن عثمان وتی دفن ومن حملہ... الخ طبع اول بیروت۔



اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس مقام پر فرماتے ہیں کہ متعدد روایات مشہورہ کے ذریعہ ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت عثمان کی نعش کا تین روز تک پڑے رہنا محض افترا اور جھوٹ ہے۔ اس کی تکذیب تمام تواریخ میں موجود ہے اس لیے کہ مؤرخین کا اس چیز پر اتفاق ہے کہ ۳۵ھ، ۱۸ ذوالحجہ بروز جمعہ عصر کے بعد حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اور شبِ شنبہ (مہفتہ) کی رات کو ہی جنت البقیع کے قریب دفن کر دیئے گئے۔ اس بات میں ذرہ برابر شبہ نہیں ہے۔

”نیز از روایات مشہورہ متعدده ثابت شد کہ تا سہ روزا فنادہ ماندن لاش عثمان محض افترا و دروغ ست و در جمیع تواریخ تکذیب آن موجود است زیرا کہ باجماع مؤرخین شہادۃ عثمان بعد از جمعہ ہشتم ذی الحجہ واقع شدہ است و دفن او در بقیع شبِ شنبہ وقوع یافت بلاشبہ“

(تحفہ اثنا عشریہ، ص ۳۲۹۔ طبع جدید لاہور  
در آخر طعن دہم عثمانی۔ (مطالعن عثمانی)

## قاتلین عثمان کیسا گروہ تھا؟

امت کے کبار علماء نے اس مسئلہ کو مختصر الفاظ میں تصریحاً ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کے بہترین لوگوں میں سے کوئی شخص بھی حضرت عثمان کے قتل میں شریک نہیں تھا اور نہ قتل عثمان کے حکم کرنے میں شامل تھا۔

حضرت عثمان کو مفسدین کے ایک طائفہ نے شہید کیا۔ وہ طائفہ قبائل کے اوباش لوگوں میں سے تھا اور فتنہ برپا کرنے والوں میں سے تھا۔

ان کا پہلے یہ مطالبہ تھا کہ عثمانؓ خلافت سے دستبردار ہو جائیں لیکن آخر کار انہوں نے حضرت عثمانؓ کو شہید کر کے ہی چھوڑا۔ حالانکہ ان کے شبہات اور اعتراضات کو دور کر دیا گیا تھا اور ان کے سامنے حق بات واضح ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے قتل عثمانؓ کا فتنہ کھڑا کر دیا جس سے اہل اسلام میں ہمیشہ کے لیے اختلاف پیدا ہو گیا۔ اسی وجہ سے علماء کبار نے ان لوگوں کو باغی کی بجائے مفسد، ظالم اور سرکش کا نام دیا ہے۔ حوالہ جات ذیل میں یہ مضمون موجود ہے۔ اہل علم تسلی فرما سکتے ہیں۔

(۱) ان اخیار المسلمین لم یدخل واحد منهم فی دم عثمان  
لاقتل ولا امر بقتله وانما قتله طائفة من المفسدین فی  
الارض من اوباش القبائل واهل الفتن

(منہاج السنہ لابن تیمیہ، ج ۲، ص ۱۸۶)

(۲) "ولم یدخل خیار المسلمین فی ذالک انما قتله طائفة من  
المفسدین فی الارض من اوباش القبائل وروس الشر"

(المنتقى للذہبی، ص ۲۲۵)

(۳) فمن الذی اجتمع علی قتل عثمان؟ هل هم الاطائفة  
من اولی الشر والظلم ولا دخل فی قتله احد من السابقین؟

(المنتقى للذہبی، ص ۵۴۳)

(۴) "... (هاجت) روس الفتنه والشر واطوا به و

حاصروه لیخلع نفسه من الخلافة وقاتلوه قاتلم الله"

(تذکرۃ الحفاظ للذہبی، ص ۸-۹ - طبع حیدرآباد دکن)

طبع اول تحت ذکر امیر المؤمنین عثمان بن عفانؓ

(۵) — فن عقائد کے علماء اس طرف گئے ہیں کہ :-

”ان قتلة عثمان لم يكونوا بغاة بل هم ظلمة وعتاة لعدم  
الاعتداد بشبهتهم ولا نهم اصروا على الباطل بعد كشف الشبهة  
واليضاح الحق لهم“

المسامرة في شرح المسامرة، ص ۱۵۹-۱۶۰

جز ثانی طبع مصر تحت الاصل الثامن،

جب یہ مفسد اور باغی لوگ  
اپنے بڑے مقصد (یعنی

## صحابة کرام کا شہادتِ عثمانی پر تأسف

قتل عثمانؓ میں کامیاب ہو گئے تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ اسلام کے مرکز پر انہوں  
نے حملہ کر کے مرکزی قوت پاش پاش کر دی تھی۔ اس جاں گداز واقعہ کو دیکھ کر صحابہ  
کرام سخت پریشان اور سرگرداں تھے۔ تقدیر خداوندی غالب آگئی تھی جس کو دور  
کرنا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔

(۱) — اس موقع پر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن سلام

نے فرمایا کہ لوگوں نے قتل عثمانؓ کے ذریعے اپنے اوپر ایک فتنے کا دروازہ کھول  
لیا ہے جو قیامت تک بند نہ ہو سکے گا۔

— وقال عبد الله بن سلام لقد فتح الناس على انفسهم

بقتل عثمان باب فتنه لا ينخلق عنهم الى قيام الساعة“

(الاستيعاب مع الاصابه، ج ۳ ص ۸۴-)

تحت تذکرہ عثمانی،

(۲) — ایک دوسرے صحابی ابو حمید الساعدیؓ (جو بدری صحابہ میں سے تھے)

اس واقعہ کے تاثرات کا یوں اظہار کرتے ہیں: جب حضرت عثمانؓ شہید کر دیئے  
گئے تو یوں کہتے تھے کہ اے اللہ! تیری رضا کی خاطر میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا

کہ فلاں فلاں بات نہیں کروں گا، ہنسی اور مذاق بھی نہیں کروں گا، حتیٰ کہ مجھ پر موت آجائے۔

— قال ابو حمید الساعدی لما قتل عثمان وکان ممن شهد  
بدر اللهم ان لك على الا ا فعل كذا ولا ا فعل كذا ولا اضحك  
حتى القاك —

طبقات ابن سعد، ص ۵۶۔ تحت ذکر ما قال اصحاب  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(۳) — حضرت عثمانؓ جب شہید ہوئے تو حضرت عمر فاروقؓ کے صاحبزادے  
حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے افسوس اور تأسف کرتے ہوئے فرمایا کہ جب سے حضرت عثمانؓ  
شہید کر دیئے گئے۔ میں نے کھانا سیر ہو کر نہیں کھایا۔

— و ذکر عن انس بن مالک قال قال عبد اللہ بن عمر ما شبت  
من طعام منذ قتل عثمان —

کتاب نسب قریش، ص ۱۰۲۔ تحت ولد ابی العاصی  
بن امیۃ

حضرت عثمانؓ کی شہادت کا صدمہ صحابہ کرام پر اتنا شدید تھا جس کو صحیح طور پر  
بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ صحابہ کرام کے یہ چند ایک واقعات ہم نے بطور نمونہ نقل کر دیئے  
ہیں ورنہ اس مظلومانہ قتل کی ایک طویل داستانِ غم ہے جو متعدد صحابہ کرام سے منقول  
ہے اور اس پر جتنا صحابہ کرام غم کا اظہار فرماتے وہ کم ہی تھا۔ اور اس کا مداوا کسی صورت  
میں بھی نہیں ہو سکتا تھا۔

## ان فتن اور بلیات میں سیدنا عثمانؓ

### حق پر تھے اور ان کا خاتمہ حق پر ہوا

پیش کردہ چیزوں کے ذریعے یہ بات صاف طور پر نظر آتی ہے کہ حضرت عثمانؓ کے خلاف آخری ایام میں مفسدین نے جو چیزیں کھڑی کر دی تھیں وہ اغراض فاسدہ کی بنا پر تھیں۔

حضرت عثمانؓ کے دورِ خلافت میں کوئی خلافِ شرع چیز نہیں ایجاد کی گئی تھی اور نہ ہی حد و دائرہ کو ضائع کیا گیا تھا۔ اور نہ ہی قبائل میں کوئی متعصبانہ نظریات اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ جن کی وجہ اقرباء کو مناصب دہی اور اپنوں کو عطائے اموال کثیرہ قرار دیا جائے۔

اگر بعض لوگوں نے اس نوعیت کے اعتراضات اٹھائے تھے تو کیا وہ لوگ صحابہ کرام کی بہ نسبت اسلام کے زیادہ خیر خواہ تھے؟ اور دینی نظام کو زیادہ قائم کرنے والے تھے؟

ظاہر بات ہے کہ جمہور صحابہؓ ان فساد اٹھانے والوں کے خلاف تھے اور ان کے جمنوا نہیں تھے۔ یہی بات مفسدین کے ناحق ہونے پر کافی دلیل ہے۔

یہ چند مطاعن حضرت عثمانؓ کے خلاف کھڑا کرنے والے ایسے لوگ تھے جو دینی اور اسلامی نظام کو دل سے نہیں چاہتے تھے اور دینِ اسلام کے ساتھ عناد رکھتے تھے۔ جس کی اصل وجہ اسلام کے ساتھ حسد اور اسلام کی ترقی کے ساتھ عداوت تھی۔ جس کو وہ دوسری صورت میں ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ اسلام کی خیر خواہی کے رنگ

میں یہ تجویز اختیار کی اور ایک سکیم کی صورت میں چلائی۔ اس طریقہ سے انہوں نے اہل اسلام میں افتراق و انتشار کا فتنہ کھڑا کر دیا۔

ان گذارشات کی تائید صحابہ کرام کے اقوال و اعمال سے پوری طرح ہوتی ہے۔ صحابہ کے قول و عمل کی چند چیزیں بطورِ بالا میں بطورِ نمونہ پیش کی گئی ہیں۔ اب ذیل میں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس بات کی تائید پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عثمانؓ کے حق میں حضور علیہ السلام نے متعدد بشارات اور خوشخبریاں ذکر فرمائی تھیں جو ان آخری ایام پر منطبق ہوتی ہیں اور حضرت عثمانؓ کے کردار کی صداقت و دیانت پر دلالت کرتی ہیں۔ اور حضرت عثمانؓ کی حمایت کرنے والے گروہ کی حقانیت کو ثابت کرتی ہیں۔ ان میں سے چند ایک ذیل میں پیش کی جاتی ہیں۔

## بشارات و اشارات

(۱) — موسیٰ بن عقبہ نے ابو حبیبہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت عثمانؓ جس وقت محسور تھے۔ میں اس وقت حضرت زبیرؓ کا ایک رقعہ لے کر حضرت عثمانؓ کے پاس آیا۔ جس وقت میں نے رقعہ پیش کیا تو اس وقت حضرت ابو ہریرہؓ حضرت عثمانؓ کے پاس موجود تھے۔ ابو ہریرہؓ فرمانے لگے، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد فتنے اور حوادث ہوں گے۔ . . . ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان فتن و حوادث سے نجات کہاں ملے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمانؓ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس امانت دار شخص اور

اس کی پارٹی کے ساتھ رہنا باعثِ نجات ہوگا یعنی اس دور کے مسائل میں عثمان  
غنی اُمت کے امین ہیں اور ان کا گروہ حق پر ہے اور ان کی حمایت میں نجات و  
فلاح ہے۔

— و ذکر موسیٰ بن عقبہ عن ابی حبیبة قال اتیت عثمان

برسالة الزبیر وهو محصور فلما ادیتها وعندہ ابو ہریرة قام  
ابو ہریرة فقال اشهد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
يقول تكون بعدی فتن واحداث... قال قلنا فاین المنجا منها

یا رسول اللہ؟ قال الی الامین و حزبہ و اشار الی عثمان

(۱) — کتاب نسب قریش ص ۱۰۳ تحت لدابی العاس

(۲) — البدایہ لابن کثیر، ج ۷، ص ۲۰۹ بحوالہ احمد۔

تحت روایات فضائل عثمانی۔

(۲) — ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مقام میں تشریف فرما تھے۔

..... ایک شخص نے آکر حاضر ہو۔ نہ کی اجازت طلب کی تو حضور علیہ السلام نے

ابو موسیٰ الاشعریٰ کو فرمایا کہ اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اس کو جنت کی خوشخبری

سنا دو۔ لیکن ایک آزمائش اور مصیبت پیش آئے گی۔ اس پر یہ جنت کی خوشخبری

ہے دروازہ کھولا گیا تو وہ عثمان بن عفان تھے۔ ان کو حضور علیہ السلام کے فرمان

(بشارتِ جنت) کی اطلاع دی گئی، پس انہوں نے خدا کی حمد و ثنا کی اور پھر کہا

کہ اللہ ہی سے مدد لی گئی ہے اور وہی مدد کرنے والا ہے۔

..... استفتہ رجل فقال لی افتح لہ و بثرہ بالجنة

علی بلوی تصیبه فاذا عثمان فاخبرته بما قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ ثم قال اللہ المستعان

(۱) — بخاری شریف، ج ۱- ص ۵۲۲- مناقب عمر بن الخطاب-

(۲) — مشکوٰۃ شریف، ص ۵۶۳- بحوالہ بخاری و مسلم باب

مناقب طوٰلاء الثلاثة- الفصل الاول-

(۳) — مسلم شریف، ص ۲۴۴-۲۴۸، ج ۲- باب من

فضائل عثمان، طبع نور محمد دہلی-

(۴) — البدایہ لابن کثیر، ج ۴، ص ۲۰۱- تحت احادیث

فضائل عثمان بحوالہ البخاری و احمد-

(۳۱) حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت

عثمان کو پیش گوئی کے طور پر فرمایا کہ اے عثمان! امید ہے کہ تجھے اللہ ایک قمیص

(یعنی قمیص خلافت) پہنائیں گے۔ اگر لوگ اس قمیص کو تجھ سے اتارنا چاہیں تو ان

کے کہنے پر قمیص نہ اتارنا۔

— عن عائشۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عثمان انہ

لعل اللہ یقمتک قمیصاً فان ارادوک علی خلعه فلا تخلعه

لہم رواہ الترمذی وابن ماجہ

(۱) مشکوٰۃ شریف، ص ۵۶۲- باب مناقب عثمان

الفصل الثانی-

(۲) البدایہ لابن کثیر، ج ۴، ص ۲۰۵- تحت احادیث

فضائل عثمانی بحوالہ احمد-

ان روایات کے ذریعہ یہ چیز عیاں ہو گئی کہ :-

— حوادث اور فتنے حضرت عثمان کے دور میں پیش آئیں گے۔ ابتداء کی چیزوں سے

حضرت عثمان کا سامنا ہو گا جس سے مفر نہیں ہے۔



پھر ان بیات میں حق کس جانب ہوگا؟ اور کون سی جماعت صحیح ہوگی، تو  
بفرمان نبوی حضرت عثمانؓ کو ہی معیارِ حق قرار دیا گیا۔ اور ان کی حمایت کرنے والے  
ہی صحیح کردار کے مالک ٹھہراتے گئے۔

حضرت عثمانؓ کی مخالفت کرنے والے اور ان پر طعن اٹھانے والے غلطی پر  
تھے اور ان کا موقف غلط تھا۔ اور انہوں نے جو معاندانہ قصے کھڑے کیے تھے وہ  
بھوٹے تھے۔ وہ بنی برصہ و عناد تھے۔

اور حضرت عثمانؓ اپنا امتحانی دور گزار کر اہل الجنتہ میں سے ہیں۔ مصائب پر صبر کرنے  
سے ان کو جنت ملی ہے۔ خدا کی اس نعمت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

اور حضرت عثمانؓ جیسے صادق و امین و دیانتدار شخص کو جن لوگوں نے مطعون  
قرار دیا اور کئی قسم کی خیانتیں ان کی طرف منسوب کیں اور حضرت عثمانؓ کے لیے  
بے شمار مصائب پیدا کر دیئے وہ اپنے کردار کے موافق انجام کو پالیں گے اور  
اپنے بُرے مقاصد کے مطابق نتائج سے بہرہ اندوز ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمانؓ کو قمیصِ خلافت عنایت فرمایا۔ انہوں نے اپنی  
جان تو قربان کر دی لیکن حسبِ ارشادِ نبوی قمیصِ خلافت اتارا نہیں اور ساتھ  
ساتھ کسی مسلمان کے ایک قطرہ خون بہانے کو روا نہیں رکھا۔ اگر وہ جان  
بچانے کے لیے مسلمانوں کی خوں ریزی کرتے تو سینکڑوں مسلمان قربانی  
پیش کرتے۔ لیکن انہوں نے اُمت کی خوں ریزی کرنے کی بجائے اپنا خون  
پیش کر دیا اور قوم کے خون کو بچا لیا۔ ایسا جذبہٴ اثارِ دید و شنید میں  
نہیں آیا۔

فرحمہ اللہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ وعن

کل الصحابة اجمعین

## الاختتام بالصواب

کتاب کے مضامین پر اجمالاً نظر کرنے سے واضح ہو رہا ہے کہ اقربا نوازی کے مسئلہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حق سے منحرف نہیں ہوئے اور نہ ہی حدِ جواز سے متجاوز ہوئے۔ ان کا کردار ان کی خلافت کے دوران معیارِ عدل سے نہیں ہٹا۔ اور حضرت عثمانؓ کے خاندان کی ملی خدمات اسلام کے لیے نہایت سود مند اور فائدہ بخش ثابت ہوئیں (جیسا کہ تاریخ کے اوراق سے اس کو پیش کیا گیا ہے)۔

— ان حقائق کے پیش نظر حضرت عثمانؓ کے خلاف اس پروپگنڈا کی کوئی حقیقت نہیں کہ اپنے اقرباء کے حق میں ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے اس دور میں قبائلی عصبیت پیدا ہوئی جس کے نتائج میں یہ تمام فتنہ اور فساد برپا ہوا۔

— اس نظریہ کے خلاف واقعہ ہونے پر ہم نے سابقہ مباحث میں تاریخی مواد پیش کر دیا ہے اس کو ملاحظہ فرما کر منصف طبائع اور حقائق پسند حضرات اطمینان حاصل کر سکیں گے۔

اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور اتفاق و اتحاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے اور تمام صحابہ کرامؓ اور خاندان نبویؐ کے ساتھ حسن عقیدت اور ان کی اتباع کی توفیق بخشے اور خاتمہ بالایمان نصیب فرما کر ان کی اخروی معیت سے بہرہ ور فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلوٰۃ والسلام علی سید خلقہ خاتم النبیین وعلیٰ آلہ واصحابہ وصلحائمہ وسانئاتباعہ باحسان الی یوم الدین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔

ناچیز دعا جو محمد نافع عفا اللہ عنہ۔ جامعہ محمدی ضلع جھنگ (پاکستان)

شعبان المعظم ۱۴۱۰ھ — جولائی ۱۹۸۰ء

# کتاب استفادہ نمودہ برائے کتاب "مسئلہ اقربا بر نوازی"

نمبر شمار	نام کتاب	سن وفات
	قرآن مجید و فرقان حمید	
(۱)	موطا امام مالک	۱۷۹ھ
(۲)	کتاب الخراج لامام ابی یوسف	۱۸۲ھ
(۳)	المصنف للمافظ البکیر ابی بکر عبد الرزاق	۲۱۱ھ
	بن ہمام بن نافع الحمیری الصنعانی	۲۱۳ھ ۲۱۸ھ
(۴)	سیرت ابن ہشام	۲۲۷ھ
(۵)	کتاب السنن لسعید بن منصور (مجلس علمی کراچی)	۲۳۵ھ ۲۳۰ھ
(۶)	طبقات محمد بن سعد - ۸ جلد	
(۷)	المصنف لابی بکر عبد اللہ بن محمد بن ابراہیم	۲۳۵ھ
	بن عثمان بن ابی شیبہ الکوئی (قلمی)	
(۸)	کتاب نسب قریش لمصعب زبیری	۲۳۶ھ
(۹)	تاریخ خلیفہ بن خیاط	۲۴۰ھ
(۱۰)	مسند احمد لامام احمد بن حنبل الشیبانی	۲۴۱ھ
	معنی منتخب کنز العمال	۲۴۱ھ
(۱۱)	کتاب السنۃ لامام احمد بن حنبل الشیبانی	۲۴۱ھ
(۱۲)	کتاب الحجر لابی جعفر بغدادی (محمد بن حبیب)	۲۴۵ھ
(۱۳)	الصصح البخاری (محمد بن اسماعیل) ۲ جلد	۲۵۶ھ

- ۲۵۶ھ (۱۳) التاريخ الكبير لامام محمد بن اسماعيل بخاری - ۸ جلد
- ۲۶۰ھ (۱۵) التاريخ الصغير (محمد بن اسماعيل)
- ۲۶۱ھ (۱۶) صحيح مسلم لامام مسلم بن حجاج القشيري
- ۲۶۳ھ (۱۷) سنن ابن ماجه (ابو عبد الله محمد بن يزيد ماجه)
- ۲۶۵ھ (۱۸) ترمذی شریف (ابو عيسى محمد بن عيسى ترمذی)
- ۲۶۹ھ (۱۹) ابوداؤد شریف (ابوداؤد سليمان بن اشعث سجستانی)
- ۲۷۴ھ (۲۰) انساب الاشراف للبلاذري
- ۲۷۹ھ (۲۱) فتوح البلدان احمد بن يحيى بلاذري
- ۳۱۰ھ (۲۲) تفسير لابن جرير الطبري
- ۳۱۰ھ (۲۳) كتاب الكنى والاسماء للشيخ ابى بشر محمد  
بن احمد بن حماد الدولابي - دو جلد
- ۳۱۰ھ (۲۴) تاريخ الامم والملوك محمد بن جرير طبري
- ۳۲۴ھ (۲۵) المنتخب ذيل المذيل
- ۳۲۴ھ (۲۶) كتاب الجرح والتعديل لابن ابى حاتم رازي
- ۳۲۱ھ (۲۷) كتاب المجتبى لابى بكر محمد بن الحسن  
بن دريد الازدي -
- ۳۵۲ھ (۲۸) كتاب المجروحين لابن حبان  
ابو حاتم محمد بن حبان البستي
- ۳۰۵ھ (۲۹) المستدرک للحاکم نیشاپوری
- ۳۲۹ھ (۳۰) لطائف المعارف لابى منصور الثعالبي
- ۳۵۶ھ (۳۱) جمهرة الانساب لابن حزم

- ۲۵۶ هـ (۳۲) کشف المحجوب للشيخ علي بن جويري اللاهوري
- ۲۵۶ هـ (۳۳) جوامع السيرة لابن حزم
- ۲۵۸ هـ (۳۴) اسنن الكبرى للبيهقي
- ۲۶۳ هـ (۳۵) الاستيعاب لابن عبد البر اندلسي مع اصابه - ۴ جلد
- ۲۶۳ هـ (۳۶) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ابي بكر احمد بن علي)
- ۲۶۵ هـ (۳۷) كتاب التمهيد لابي شكور سامي (ابو شكور محمد بن عبد سعيد بن شعيب الكلبشي السالمي الحنفي) معاصر شيخ علي بن جويري
- ۵۱۶ هـ (۳۸) تفسير بغوي (ابو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي)
- ۵۲۳ هـ (۳۹) العوام من القوام للقاضي ابي بكر بن العربي اندلسي
- ۵۶۰ هـ (۴۰) غنية الطالبين للشيخ عبد القادر جيلاني
- ۵۶۱ هـ (۴۱) تلخيص ابن عساكر
- ۵۶۱ هـ (۴۲) تاريخ ابن عساكر كامل - ابوالقاسم علي بن حسن بن بيه الله المعروف بابن عساكر { جلد اول
- ۶۰۶ هـ (۴۳) تفسير كبير للرازي (محمد بن عمرو الرازي فخر الدين بن ضياء الدين)
- ۶۳۰ هـ (۴۴) اسد الغابه لابن اثير جزري
- ۶۳۰ هـ (۴۵) تجريد اسماء الصحابة للجزري
- ۶۶۱ هـ (۴۶) تفسير قطبي ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاري القرطبي المالكي
- ۶۶۶ هـ (۴۷) تهذيب الاسماء واللغات لامام نووي
- ۶۶۶ هـ (۴۸) شرح المهذب للنووي
- ۶۶۶ هـ (۴۹) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي ابي الفضل عياض بن موسى الحنفي {  
اندلسي من علماء القرن السادس

- ٤٢٥ هـ (٥٠) تفسير خازن علاء الدين علي بن محمد بغدادى المعروف خازن
- ٤٣٤ هـ سن تاليف سن ٤٣٤ هـ (٥١) مشکوة المصابيح
- ٤٣١ هـ (٥٢) كتاب التمهيد والبيان فى مقتل الشهيد عثمان  
 { محمد بن يحيى بن ابى بكر اندلسى
- ٤٣٨ هـ (٥٣) تذكرة الحفاظ للذهبي
- ٤٣٨ هـ (٥٤) المغنى للذهبي
- ٤٣٨ هـ (٥٥) المنتقى للذهبي
- ٤٣٨ هـ (٥٦) كتاب دول الاسلام للذهبي
- ٤٣٨ هـ (٥٧) ميزان الاعتدال للذهبي
- ٤٣٨ هـ (٥٨) سير اعلام النبلاء للذهبي
- " (٥٩) منهاج السنة لابن تيمية
- ٤٥٤-٥١ هـ (٦٠) مدارج السالكين لابن قيم شمس الدين ابى عبد الله  
 { محمد بن ابى بكر الحنبلى دمشقى المعروف بابن قيم الجوزية
- ٤٥٦ هـ (٦١) اعلام الموقعين لابن قيم
- ٤٥٦ هـ (٦٢) زاد المعاد لابن قيم
- ٤٦٢ هـ (٦٣) نسب الراية للذليجى جمال الدين ابو محمد عبد الله  
 { بن يوسف الحنفى الزليجى
- ٤٤٣-٤٥ هـ (٦٤) تفسير ابن كثير عماد الدين الدمشقى
- " (٦٥) البدايه والنهايه لابن كثير (عماد الدين ابى الفداء الدمشقى)
- " (٦٦) السيرة النبوية لابن كثير
- ٤٤٩ هـ (٦٧) تاريخ ابن خلدون

- ۴۹۱ شرح مقاصد سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني
- ۸۰۴ مجمع الزوائد لنور الدين ابي شيخي (۶۹) (۱۰ جلد)
- ۸۰۴ موارد النظم لنور الدين ابي شيخي (۷۰)
- ۸۱۶ شرح مواقف سيد شريف علي بن محمد البحر جاني (۷۱)
- ۸۵۲ الاصابه في تميز الصحابه لابن حجر - ۳ جلد معه استيعاب (۷۲)
- ۸۵۲ كتاب المدلسين لابن حجر (۷۳)
- ۸۵۲ تهذيب التهذيب لابن حجر - ۱۲ جلد (۷۴)
- ۸۵۵ لسان الميزان لابن حجر - ۴ جلد (۷۵)
- ۸۵۵ عمدة القاري شرح بخاري (۷۶)
- ۸۶۱ فتح القدير شرح بدايه لشيخ كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف لابن بهام - { (۷۷)
- ۹۰۰ انسان العيون في سيرة الامين المامون المعروف { بالسيرة الحلبية لعلي بن بريان الدين الحلبى الشافعى { (۷۸)
- ۹۰۲ فتح المغيث للنجاوى (۷۹)
- ۹۰۵ المسامرة في شرح المسامرة كمال الدين محمد بن محمد المعروف بابن شريف المقدسى { (۸۰)
- ۹۱۱ وفاء الوفاء للسهمودى (۸۱)
- ۹۱۱ ذيل اللاتى المصنوعه للسيوطى (۸۲)
- ۹۰۵-۶۲ تطهير الجنان واللسان لابن حجر المكي (۸۳)
- ۹۰۵ كنز العمال - ۸ جلد، طبع اول (۸۴)
- ۱۰۵۰ نسيم الرياض في شرح شفاء القاضى عياض احمد شهاب الدين الحفاجى المصرى - (۸۵)

۱۷۶ھ

(۸۶) ازالہ الخفاء عن خلافتہ الخلفاء - شاہ ولی اللہ دہلوی

(۸۷) قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین


۱۲۳۹ھ

(۸۸) تحفہ اثنا عشریہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

۱۲۵۱ھ

(۸۹) الفتح الربانی لترتیب مُسند احمد  
عبدالرحمان البنا الساعاتی

(۹۰) المنار المنیف لابن قیم





## شیعہ کتب استفادہ نمودہ

۲۵۹ھ

(۱) تاریخ یعقوبی (احمد بن ابی یعقوب الکاتب العباسی)

=

(۲) کتاب البلدان للیعقوبی ( " " " )

۲۸۲ھ

(۳) الاخبار الطوال للدیوری (احمد بن داؤد ابی حنیفہ)

(۴) فرق الشیعہ للابی محمد حسن بن موسیٰ نوبختی {  
(من علماء قرن الثالث)(۵) رسالہ قرب الاسناد لعبد اللہ بن جعفر الحمیری {  
(من علماء قرن الثالث)

(۶) مقاتل الطالبین للابی الفرج الاصبہانی - سن وفات ۳۵۶ھ، تالیف ۳۱۳ھ

۳۲۹ھ

(۷) فروع کافی محمد بن یعقوب کلینی رازی

۳۲۶ھ

(۸) مروج الذهب للمسعودی

(۹) رجال کشتی (الکشتی من علماء قرن الرابع)

۳۰۴ھ

(۱۰) نبح البلاغہ

۳۶۰ھ

(۱۱) الامالی للشیخ ابی جعفر محمد بن حسن الطوسی

۵۴۸ھ

(۱۲) احتجاج طبرسی

۶۵۶ھ

(۱۳) شرح نبح البلاغہ للمحدیدی - سن تالیف ۶۴۹ھ سن وفات :-

۷۲۶ھ

(۱۴) منہاج الکرامہ فی اثبات الامامۃ {  
لابن المطہر الحلی -

۸۲۸ھ

(۱۵) عمدۃ الطالب فی الساب آل ابی طالب سید جمال الدین ابن عنبتہ

- (۱۶) شرح نهج البلاغه، کمال الدین عیثم بن علی {  
بن عیثم البحرانی -  
۶۷۹ھ
- (۱۷) بحار الانوار لملا باقر مجلسی  
۱۱۱۱ھ
- (۱۸) جلاء العیون = =  
=
- (۱۹) درة نجفیه شرح نهج البلاغه از شیخ ابراهیم {  
بن حاجی حسین دنبلی {  
۱۲۹۱ھ
- (۲۰) ناسخ التواریخ لمیرزا محمد تقی لسان الملک  
۱۲۹۷ھ
- (۲۱) تنقیح المقال للشیخ عبداللہ مامقانی  
۱۳۰۰ھ
- (۲۲) منتهی الآمال از شیخ عباس قمی  
۱۳۵۹ھ
- (۲۳) تحفة الاحباب للشیخ عباس قمی  
۱۳۵۹ھ



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

# مسئلہ آب و سیرابی

دہلی کی کتاب خانہ میں مندرجہ کتاب

رَحْمٰتِ اللّٰہِ عَلَیْہِمْ  
رَحْمٰتِ اللّٰہِ عَلَیْہِمْ

(مجموعہ میں آہیں ہیں)

تالیف

حضرت مولانا محمد نافع صاحب

جلد چہارم

دارالتصنیف جامعہ محمدی شریف

ضلع جنگ (پاکستان)